

حدیث کے اصداقی مرضائیں

جلد دهم

سونے اور لینٹنے کے آداب

لباس کے آداب

خواب اور اس کے متعلقات کے آداب

مجلس کے آداب

اجازت طلبی کے آداب

سلام و مصافحہ کے احکام و آداب

عیادت مریض کے آداب

چھینک اور جہانی کے آداب

سفر کے آداب

میت کی تجهیز، تکفین و تدفین کے آداب

لطف و لذت

حضرت اقدس نام فتحی احمد حنفی خان پوری محدث دا بکو تهم

شیخ الحدیث، صدر شیعی جامعۃ الاسلامیۃ الحنفیۃ البین، ڈا جبیل

ناشر

مکتبہ حمودیہ

حمودی، ڈا جبیل، گجرات

حدیث کے اصل احیٰ مرضائیں

جلد دهم

افادات

حضرت اقدس مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم
شیخ الحدیث و صدر مفتی جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین، ڈا بھیل

ناشر

مکتبہ محمودیہ، محمودنگر، ڈا بھیل

تفصیلات

کتاب کا نام: حدیث کے اصلاحی مضامین (جلد دهم)
افادات: حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم
باہتمام: خدام حضرت اقدس دامت برکاتہم
صفحات: ۲۳۰
ناشر: مکتبہ محمودیہ، محمودنگر، ڈا بھیل، گجرات

ملنے کے پتے

- ﴿ شعبہ فیض محمود، سورت 31838، 99988 ﴾
- ﴿ ادارۃ الصدقیق ڈا بھیل، 9913319190 ﴾
- ﴿ مفتی سلیمان شاہوی (دارالعلوم فلاح دارین ترکیس) 21229، 88666 ﴾
- ﴿ مکتبہ انور (مفتی عبدالقیوم راجکوٹی) جامعہ ڈا بھیل 99246، 93470 ﴾
- ﴿ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند 118، 021162، 97562 ﴾
- ﴿ مکتبۃ الاتحاد دیوبند 985، 9897296985 ﴾
- ﴿ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب مدظلہ (دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کشمیر) مدینہ ایجنسی جھانپا بازار سورت ﴾
- ﴿ قاضی، نزد مرکز مسجد رانی تالاب سورت ﴾
- ﴿ اسلامی کتب خانہ چوک بازار سورت ﴾

اجمالی فہرست مضامین جلد دهم

۲۹	ڪتاب اللباس لباس کا بیان باب إستحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير <input checked="" type="checkbox"/> سفید لباس مستحب ہے۔ لال، ہر، پیلا، اور کالا جائز ہے <input checked="" type="checkbox"/> روئی، کтан، بال اور اون کا لباس جائز ہے <input checked="" type="checkbox"/> (مردوں کے لیے) ریشم جائز نہیں	۱
۶۷	باب القميص والإزار گرتے کا استعمال پسندیدہ ہے	۲
۱۱۱	آداب النوم والاضطجاع سونے اور لینے کے آداب	۳
۱۳۹	باب في آداب المجلس والجليس مجلس کے آداب	۴
۱۵۹	باب الرؤيا وما يتعلّق بها خواب اور اس سے متعلقہ چیزوں کا بیان	۵
۱۸۱	ڪتاب السلام سلام کے احکام و آداب	۶
۲۳۱	باب الاستيذان وآدابه کسی کے یہاں جانے پر اجازت لینے کے احکام و آداب	۷

۲۳۸	<p>استحباب تشمیت العاطس اذا حمد الله تعالى وكرابهه تشمیته اذا لم يحمد الله تعالى</p> <p>وبیان آداب التشمیت والعطاس والت Shawab</p> <p>چھینک کھانے والے کو جواب دینے کا مستحب ہونا؛ اگر وہ الحمد لله کہے اگر وہ الحمد لله نہ کہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے اور چھینک کھانے اور جمائی لینے کے آداب</p>	۸
۲۵۳	<p>استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادر من سفر وكرابهه الانجاء</p> <p>ملات کے وقت مصافحة کا مستحب ہونا چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنا نیک آدمی کے ہاتھ چومنا، اور اپنی اولاد کو محبت سے بوسے دینا اور گر کوئی آدمی سفر سے اپس آئے تو اس سے معانقة کرنا اور جھکنے کا ناپسندیدہ ہونا</p>	۹
۲۶۳	<p>كتاب عيادة المريض</p> <p>بیمار کی خبر گیری اور تیارداری</p>	۱۰
۳۲۲	<p>الصلوة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكرابهه اتباع النساء الجنائز</p> <p>نماز جنازہ کا بیان۔ جنازہ کے ساتھ جانا اور تدفین میں شریک ہونا اور عورتوں کا دفن میں شریک ہونا</p>	۱۱
۳۷۳	<p>كتاب آداب السفر سفر کے آداب</p>	۱۲

تفصیلی فہرست مضامین جلد دهم

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۵	اداریہ	

کتاب اللباس لباس کا بیان

باب إستحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر
والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلّا آخرير
☒ سفید لباس مستحب ہے۔ لال، ہرا، پیلا، اور کالاجائز ہے رونی،
كتان، بال اور اون کالباس جائز ہے (مردوں کے لیے) ریشم جائز نہیں

۳۱	شیطانی دھوکہ	۱
۳۲ تو بر قعہ بھی پہن لیجئے	۲
۳۳	جب خاتون کی ڈاٹھی اُگی	۳
۳۴	داغ؛ باطن کی خرابی کا اثر	۴
۳۵	اسلامی کٹ میں توسعہ ہے	۵
۳۶	لباس کے دو مقصد	۶
۳۵	پہلا مقصد	۷
۳۵	مرد اور عورت کا ستر	۸
۳۶	ستر پوشی میں تین باتوں کی رعایت ضروری	۹
۳۶	لباس ناقص نہ ہو	۱۰
۳۷	باریک نہ ہو	۱۱

۳۷	چست نہ ہو	۱۲
۳۸	لباس والی تنگی عورتیں	۱۳
۳۰	ان دروازوں کو بند کرو؛ ورنہ.....	۱۴
۳۰	فیشن کیا ہے؟	۱۵
۳۱	دوسرامقصد	۱۶
۳۲	زنانے مرداور مردانی عورتیں	۱۷
۳۲	دوباتوں کا خیال رہے	۱۸
۳۳	پھر فقیروں کا سابھیں کیوں؟	۱۹
۳۴	صحابہ اور ہمارے قلب کا حال	۲۰
۳۵	تشبیہ اور مشاہد کا فرق	۲۱
۳۵	تشبیہ کے درجات	۲۲
۳۶	قومی اور مذہبی شعارات میں فرق	۲۳
۳۶	عام عادات میں تشبیہ	۲۴
۳۷	لا! میں تجھے رنگ دوں	۲۵
۳۸	باوجود توجہ کے وہ ظلمت دو رہیں ہوئی	۲۶
۳۸	ایک عبرت ناک واقعہ	۲۷
۳۹	کوٹ پتلون کا مسئلہ	۲۸
۵۰	لباس کے اصول	۲۹
۵۰	ریشم اور آرت سلک کا حکم	۳۰
۵۱	کیا اونچا پائی جامہ عیب ہے؟	۳۱
۵۳	لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے	۳۲

۵۳	انگریز کے کہنے سے گھٹنے بھی کھول دیے.....	۳۳
۵۴	کیا میری ذات میں خونہ موجود ہے؟	۳۴
۵۴	سنن طریقہ اور اس کی قسمیں	۳۵
۵۵	مسنون لباس کا اصول	۳۶
۵۵	باب کا عنوان	۳۷
۵۶	پسندیدہ رنگ کون سا؟	۳۸
۵۶	لیکن تو چیزے دیگری	۳۹
۵۹	حضرور اکرم ﷺ کا سرخ جوڑ اپہننا	۴۰
۶۱	حضرور اکرم ﷺ کا سبز جوڑ اپہننا	۴۱
۶۲	حضرور اکرم ﷺ کے عمامہ کارنگ	۴۲
۶۳	حضرور اکرم ﷺ کا کفن اور اس کارنگ	۴۳
۶۳	حضرور اکرم ﷺ کا (Printed) متنقش چادر استعمال کرنا	۴۴
۶۴	حضرور اکرم ﷺ کا اونی لباس	۴۵
۶۵	چمڑے کے موزوں پرسح کا مسئلہ	۴۶
۶۶	خلاصہ باب	۴۷

بَاب الْقِيمَيْصُ وَالْإِزارُ گرتے اور پائچبائے کا بیان

۶۹	جسم ڈھانپنے کی دو شکلیں	۴۸
۶۹	قیص سے کیا مراد ہے؟	۴۹
۷۰	کرتے زیادہ پسندیدہ ہے	۵۰

۷۱	کیا آپ ﷺ سے پائچا مدد پہنچا ثابت ہے؟	۵۱
۷۵	لباس کی لمبائی کتنی ہو؟	۵۲
۷۶	عربی کرتے کے شوقین متوجہ ہوں	۵۳
۷۶	اگر شخص ڈھانکنا تکبر سے نہ ہو تو؟	۵۴
۷۸	حضرور اکرم ﷺ کی آستین کی لمبائی	۵۵
۷۸	نظرِ رحمت سے محروم	۵۶
۸۰ وہ جہنم میں ہے	۵۷
۸۱	ناکام و نا مراد لوگ	۵۸
۸۲	طعن و تشنج سے نہ ڈریں	۵۹
۸۳	فیشن؛ ذہنیت کو مرعوب کرنے کا طریقہ	۶۰
۸۳	ہر وقت گناہ جاری رہتا ہے	۶۱
۸۴	لینے کے دینے	۶۲
۸۴	تیسرا آدمی	۶۳
۸۵	تو حیدر یہ ہے.....	۶۴
۸۶	معاشرت کی اہم چیزیں	۶۵
۸۸	تو گفتار؛ وہ کردار	۶۶
۸۸	نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا	۶۷
۸۸	پائچا مدد ٹخنوں سے نیچے لٹکانا ہی تکبر کی علامت ہے	۶۸
۸۹	تم ایسا مامت کرو	۶۹
۹۰	ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے	۷۰

۹۰	کوئی ایسی بات کہتے جائیے!	۷۱
۹۳	خُرُّیمِ اَسْدِی اپنے آدمی ہیں اگر.....	۷۲
۹۵	اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے	۷۳
۹۵	پائچاماہ آٹھی پنڈلی تک ہونا چاہیے	۷۴
۹۶	عبداللہ! اپنی لئنگی اوپنجی کرو	۷۵
۹۶	عورتیں کیا کریں؟	۷۶

أبواب شتنی من كتاب اللباس

۹۹	قیامت کے روز ایمان کا جوڑا ملے گا	۷۷
۱۰۲	نعمت کا اثر بندہ پر دھکنا چاہیے	۷۸
۱۰۳	جود نیا میں ریشم پہنے	۷۹
۱۰۵	میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں	۸۰
۱۰۶	کسی عذر کی وجہ سے ریشم کا استعمال	۸۱
۱۰۸	چیتے کی کھال بچھا کر بیٹھنے کی ممانعت	۸۲
۱۰۹	نیالباس پہننے کی دعا	۸۳
۱۱۰	ہرئی چیز استعمال کرنے کی یہی دعا ہے	۸۴

آداب النوم والاضطجاج

سو نے اور لیٹنے کے آداب

۱۱۳	حضرور اکرم ﷺ کی تعلیمات عین شفقت و محبت کا تقاضا	۸۵
۱۱۴	عجیب و غریب دعا	۸۶
۱۱۵	یہ محبت کا تقاضہ ہے	۸۷

۱۱۶	توجیہ کا مزہ آجائے.....	۸۸
۱۱۷	سو نے کے آداب..... پہلا ادب	۸۹
۱۱۸	دوسرہ ادب	۹۰
۱۱۸	تیسرا ادب اور خاص تاکید	۹۱
۱۱۹	یہ ایک فطری امر ہے	۹۲
۱۲۰	تو دو انی حساب کم و بیش را	۹۳
۱۲۱	امید و خوف	۹۴
۱۲۱	کہ جز تو پنا ہے دگر نیستم	۹۵
۱۲۲	ایک بچہ بھی یہ سمجھتا ہے	۹۶
۱۲۲	دعائے دو سبق: رجوع الی اللہ اور یادِ آخرت	۹۷
۱۲۳	تہجد کے بعد مسنون آرام کی کیفیت	۹۸
۱۲۳	سو نے اور اٹھنے کی مسنون دعا و اول کا فلسفہ	۹۹
۱۲۵	لیٹنے کے چار طریقے	۱۰۰
۱۲۷	بچوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے	۱۰۱
۱۲۷	بغیر ذکر اللہ کی مجلس و بال ہے	۱۰۲
۱۲۸	قدرتی نظام؛ ایک عجیب نعمت	۱۰۳
۱۳۳	پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا جائز ہے یا نہیں؟	۱۰۴
۱۳۳	تقطیق کی ایک شکل	۱۰۵
۱۳۵	شیخ اشیخ حضرت سہار پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے عالی	۱۰۶
۱۳۶	چہار زانوں بیٹھنا	۱۰۷

۱۳۶	گوٹ مارکر بیٹھنا	۱۰۸
-----	------------------	-----

باب فی آداب المجلس والجليس

مجلس کے آداب

۱۳۱	گنجائش نکال دو	۱۰۹
۱۳۲	پبلک مقامات کا حکم	۱۱۰
۱۳۳	دوسرے کی چپل ہٹا کر اپنی نہ رکھے	۱۱۱
۱۳۴	ٹرین میں زیادہ جگہ روکنا	۱۱۲
۱۳۵	اگر کوئی اپنی جگہ ہمارے لیے چھوڑ دے	۱۱۳
۱۳۶	ایشار بالقرب	۱۱۴
۱۳۷	پہلے بیٹھنے والا زیادہ حق دار ہے	۱۱۵
۱۳۸	اپنی جگہ رکانا	۱۱۶
۱۳۹	بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے بیٹھے	۱۱۷
۱۴۰	لوگوں کو چیر کر آگے نہ بڑھے	۱۱۸
۱۴۱	دو کے پیچ میں نہ بکھسے	۱۱۹
۱۴۲	حلقہ کے پیچ میں نہ بیٹھے	۱۲۰
۱۴۳	آرام سے بیٹھیں	۱۲۱
۱۴۴	کفارہ مجلس	۱۲۲
۱۴۵	غفلت کی تلافی	۱۲۳
۱۴۶	مجلس میں پڑھنے کی دعا	۱۲۴
۱۴۷	گناہ کیوں ہوتا ہے؟	۱۲۵

۱۵۳	ٹینش کی وجہ: یقین کی کمی	۱۲۶
۱۵۴	مرتے دم تک تمام قوی سلامت رہیں	۱۲۷
۱۵۵	دین پر مصیبت نہ آئے	۱۲۸
۱۵۵	دنیا کی فکر غالب نہ ہو	۱۲۹
۱۵۶	باعثِ حسرت مجلس	۱۳۰
۱۵۶	جس مجلس میں ذکر نہ ہو	۱۳۱
۱۵۶	دست بکار، دل بیار	۱۳۲
۱۵۷	دن کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے عہد	۱۳۳

باب الرؤيا و ما يتعلّق بها

خواب اور اس سے متعلقہ چیزوں کا بیان

۱۶۱	اچھے خوابوں کی حیثیت	۱۳۳
۱۶۱	جوز بان کا سچا؛ وہ خواب کا بھی سچا	۱۳۵
۱۶۲	چھیالیسوں حصہ کا مطلب	۱۳۶
۱۶۲	نبی کا خواب وحی ہوتا ہے	۱۳۷
۱۶۳	خواب شرعی جھٹ نہیں	۱۳۸
۱۶۳	کیا اچھا خواب دیکھنے کے بعد اعمال چھوڑ دے	۱۳۹
۱۶۵	اچھے خواب کا اشتہار نہ دے	۱۴۰
۱۶۶	صدیق اکبر رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت	۱۴۱
۱۶۷	حضرت عمر رضا اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر	۱۴۲
۱۶۸	شیطان اور شیخ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۱۴۳

۱۶۹	خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کے لیے کوئی عمل کرنا	۱۳۲
۱۷۰	زیارت کا بہترین عمل	۱۳۵
۱۷۱	حضرت شیخ اللحلیہ کی کیفیت	۱۳۶
۱۷۱	اگر حضور ﷺ کو دوسرے حلیہ میں دیکھا	۱۳۷
۱۷۳	دینداری جانچنے کا معیار	۱۳۸
۱۷۴	روضۃ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی	۱۳۹
۱۷۴	شیطان کا حضور ﷺ کی شکل نہ بنانکنے کی وجہ	۱۵۰
۱۷۵	اچھا یا برا خواب دیکھئے؟ تو کیا کرے؟	۱۵۱
۱۷۶	براخوب؟ پرواہ نہیں	۱۵۲
۱۷۷	براخواب دیکھتے ہی آنکھ کھل جائے؟ تو کیا کرے؟	۱۵۳
۱۷۷	سب سے بڑا بہتان	۱۵۴

کتاب السلام سلام کے احکام و آداب

باب فضل السلام والامر بافضلاته
سلام کی فضیلت اور سلام کو عام کرنے کا حکم

۱۸۳	اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو	۱۵۵
۱۸۳	استیدان کب؟ اور کب نہیں؟	۱۵۶
۱۸۳	کیا تم یہ چاہتے ہو کہ.....؟	۱۵۷
۱۸۵تب اجازت لینا ضروری نہیں	۱۵۸
۱۸۷	اجازت کیسے لے؟	۱۵۹

۱۸۸	سب ہی ”میں“ ہیں	۱۶۰
۱۸۸	جواب ملنے کا انتظار کیجئے	۱۶۱
۱۸۹	ایسے بھی تھے	۱۶۲
۱۹۰	گھنٹی (Door Bell) بجانے کا طریقہ	۱۶۳
۱۹۱	دعائیے کی حرص	۱۶۴
۱۹۲	ایک عمل، تین دعائیں	۱۶۵
۱۹۳	سلام ہی جامع ہے	۱۶۶
۱۹۴	سلام کا جواب اچھے طریقہ سے دو	۱۶۷
۱۹۵	سلام کا طریقہ نیا نہیں ہے	۱۶۸
۱۹۶	سلام حقِ اسلام	۱۶۹
۱۹۷	سلام کی ابتداء	۱۷۰
۱۹۸	سات چیزوں کا حکم	۱۷۱
۱۹۹	سلام کا قدرتی اثر	۱۷۲
۲۰۰	اہل معرفت کی دوربین	۱۷۳

سلام کا طریقہ سلام کیفیۃ السلام

۲۰۵	سلام کے الفاظ کی وضاحت	۱۷۴
۲۰۷	دُس، بُیس، تیس	۱۷۵
۲۰۸	جب کوئی سلام کہلانے	۱۷۶
۲۰۹	جب بڑے مجمع کو سلام کرے	۱۷۷
۲۱۰	جب ناخمین کو سلام کرے	۱۷۸

۲۱۱	کسی کی نیند خراب کرنا حرام ہے	۱۷۹
۲۱۲	ہاتھ سے سلام	۱۸۰
۲۱۳	علیک السلام کہنا	۱۸۱

باب آدب السلام سلام کے کچھ آداب

۲۱۴	سلام کے کچھ اور آداب	۱۸۲
۲۱۵	سلام میں کون پہل کرے؟	۱۸۳
۲۱۶	سلام اور شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ	۱۸۴
۲۱۷	بار بار سلام کرے	۱۸۵
۲۱۸	گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام مستحب ہے	۱۸۶
۲۱۹	آسان قیمتی ہدیہ	۱۸۷
۲۲۰	بچوں کو سلام کرنا	۱۸۸
۲۲۱	خاندان کی بوڑھی عورتوں کو سلام کرنا	۱۸۹
۲۲۲	فتنہ کا اندر یشہ نہ ہو تو کسی بھی نامحرم کو سلام کا جواب دینا	۱۹۰
۲۲۳	غیر مسلموں کو سلام میں پہل نہ کرنا اور مغلوب مجموعوں میں سلام کرنا	۱۹۱
۲۲۴	جب مجلس سے اٹھے، یا ساتھیوں کو الوداع کہے یا ایک ساتھی سے رخصت ہو؛ تو سلام کرنا چاہیے	۱۹۲

باب الاستیزان و آدابہ

کسی کے یہاں جانے پر اجازت لینے کے احکام و آداب

۲۳۳	جب فاروقؑ حضرت اشعرؓ سے گواہ طلب کیے	۱۹۳
۲۳۴	گواہ طلب کرنے کی تکوینی وجہ	۱۹۴

۲۳۸	استیدان کے وقت تاک جھانک نہ کرے	۱۹۵
۲۳۹	گھس سکتا ہوں، یا آسکتا ہوں	۱۹۶
۲۴۰	یادگار تنبیہ	۱۹۷
۲۴۳	گھروالے کے پوچھنے پر جواب دینے کا مسنون طریقہ	۱۹۸
۲۴۵	”میں“، کہنا، صحیح جواب نہیں	۱۹۹

بيان آداب التشمیت والعطاس والتثاؤب چھینک کھانے اور جمائی لینے کے آداب

۲۴۷	أسباب چستی پسندیدہ، اسباب سستی ناپسندیدہ	۲۰۰
۲۴۹	ایک لطیفہ	۲۰۱
۲۴۹	چھینکنے اور جمائی لینے کے آداب	۲۰۲

استحباب المصالحة عند اللقاء وبشاشة الوجه

وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقة

ومعانقة القادر من سفره كراهيه الانحناء

ملاقات کے وقت مصالحة کا مستحب ہونا چہرے کو مسکراتا ہوار کھنا۔

نیک آدمی کے ہاتھ چومنا، اور اپنی اولاد کو محبت سے بوسہ دینا۔ اگر کوئی

آدمی سفر سے واپس آئے تو اس سے معانقة کرنا اور جھکنے کا ناپسندیدہ ہونا

۲۵۵	مصالحہ دونوں ہاتھ سے کرنا ہی سنت ہے	۲۰۳
۲۵۸	صالح کے موجب	۲۰۴
۲۵۸	صالح، معانقہ، بوسہ؛ کیا کرے، کیا نہیں؟	۲۰۵

۲۵۹	دست بوئی و متدم بوئی	۲۰۶
۲۶۱	یہ جذبہ شفقت کا ہی تقاضہ ہے	۲۰۷

کتاب عِيادۃ المریض

بیمار کی خبرگیری اور تیارداری

۲۶۵	”عِيادۃ“ حق مسلم سمجھ کر کریں، روانِ سماج سمجھ کرنہیں	۲۰۸
۲۶۶	نیت ٹوں لیں	۲۰۹
۲۶۷	بنیادو، ہی ہو	۲۱۰
۲۶۸	ہمیں حضور نے حکم دیا.....	۲۱۱
۲۶۹	مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق	۲۱۲
۲۷۱	بندہ سے اللہ تعالیٰ کی شکایت	۲۱۳
۲۷۱	بیمار کی عِيادۃ کے فضائل	۲۱۴
۲۷۱	دو منٹ میں ستر ہزار فرشتوں کی بارہ گھنٹوں کے لئے ڈیوٹی	۲۱۵
۲۷۲	غیر مسلم کی عِيادۃ	۲۱۶
۲۷۳	پھوڑے پھنسی اور زخم کا دم	۲۱۷
۲۷۵	عِيادۃ کی دعا	۲۱۸
۲۷۶	نبوی پین کلر (Pain Killer)	۲۱۹
۲۷۷ تو مریض کو شفا ہو ہی جائے گی	۲۲۰
۲۷۷	ایک اور دعا	۲۲۱
۲۷۸	روح الامین کا الصادق الامین پر دم	۲۲۲
۲۷۹ تو اسے جہنم نہیں کھائے گی	۲۲۳

۲۸۰	ادھر تعریف، ادھر پذیرائی	۲۲۳
۲۸۱	عیادت؛ نہ ہوشکایت	۲۲۵
۲۸۲	اے اللہ! عیادت کا طریقہ سکھلا	۲۲۶
۲۸۲	دروازہ باہر سے بند کر دینا	۲۲۷
۲۸۳	وفات کے دن صبح حضور اکرم ﷺ کی کیفیت	۲۲۸
۲۸۵	جس کو اندازہ ہو جائے کہ اب میری موت کا وقت قریب آچکا ہے؛ وہ کیا دعا کرے؟	۲۲۹
۲۸۵	یہ موت مانگنا نہیں ہے	۲۳۰
۲۸۶	ممانعت تو اس کی ہے	۲۳۱
۲۸۶	موت کی حالت شدت والی ہے	۲۳۲
۲۸۹	سماج کے ایک غلط مزاج کی اصلاح	۲۳۳
۲۹۳	حضور اکرم ﷺ کا شدت بخار	۲۳۴
۲۹۳	صحابی کا اظہارِ مرض	۲۳۵
۲۹۵	اُم الْمُؤْمِنِينَ رضی اللہ عنہ کا اظہارِ دریسر	۲۳۶
۲۹۷	جس کی موت کا وقت قریب ہوا سکو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرنا	۲۳۷
۲۹۹	موت کے وقت اور بعد کیا کرے؟ کیا نہیں؟	۲۳۸

بَابٌ مَا يَقَالُ عِنْ الْمَيْتِ وَمَا يُقَولُهُ مِنْ مَاتَ لَهُ مَيْتٌ
 جب کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ وہاں پہنچیں تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟
 اور جس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہو؛ وہ خود کیا کہے؟

۳۰۲	اس دعا کی برکت سے بہت بہتر بدل ملا	۲۳۹
-----	------------------------------------	-----

۳۰۵	بچے کے انتقال پر صبر کی عظیم فضیلت	۲۲۰
۳۰۷	ان تعلیمات کو عام کرو	۲۲۱
۳۰۸	مصیبت کے وقت کا مرافقہ	۲۲۲
۳۱۰	جود یا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اور جو لے گا وہ بھی اللہ ہی کا	۲۲۳
۳۱۱	ایک عورت کے صبر کا عجیب قصہ	۲۲۴
۳۱۳	مرنے والے کے اوپر بغیر نوح کے رونما جائز ہے	۲۲۵
۳۱۵	رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے؟	۲۲۶
۳۱۷	عذاب تو زبان کی وجہ سے ہوتا ہے	۲۲۷
۳۱۷	ہر انسان کے دل میں جذبہ رحمت رکھا ہے	۲۲۸
۳۱۸	عملگیں ہونا اور آنسو نکلتا برائیں	۲۲۹
۳۲۰	میت میں کوئی نامناسب بات نظر آئے تو اس کو چھپانا چاہیے	۲۵۰

الصلة عَلَى الْبَيْتِ وَتَشْيِيعُهِ وَحُضُورُ دُفْنِهِ وَكُرَاةُهُ اتِّبَاعُ النِّسَاءِ اجْنَازُ
نماز جنازہ کا بیان، جنازہ کے ساتھ جانا، تدفین میں شریک ہونا،
عورتوں کا دن میں شریک ہونا

۳۲۲	نماز جنازہ اور تدفین میں شریک ہونے کی فضیلت	۲۵۱
۳۲۳	عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا گیا	۲۵۲
۳۲۶	نماز جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد کا ذیادہ ہونا پسندیدہ ہے اور صرفیں تین یا اس سے زیادہ بنائی جائیں؛ یہ بھی اچھا ہے	۲۵۳
۳۲۷	سوآدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت	۲۵۴
۳۲۷	چالیس آدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت	۲۵۵

۳۲۸	جس کے جنازہ میں تین صفائی ہوں	۲۵۶
۳۲۸	نماز جناہ کی دعا نہیں	۲۵۷
۳۳۰	گنہگار کو چین نصیب نہیں ہوتا	۲۵۸
۳۳۱	دیگر مختلف دعا نہیں	۲۵۹
۳۳۵	جنازہ کو جلدی لے جانا	۲۶۰
۳۳۷	میت کے قرض کی ادائیگی اور اس کی تیاری میں جلدی کا اہتمام	۲۶۱
۳۳۷	وراثت کی تقسیم کے احکام پہلا حصہ	۲۶۲
۳۳۸	بعض غلط روایج	۲۶۳
۳۳۹	دوسری حصہ	۲۶۴
۳۴۲	وَمِنْ اور قرض میں فرق	۲۶۵
۳۴۲	مقروض کو جنت میں داخل نہیں ملتا	۲۶۶
۳۴۳	مدد یون شہید	۲۶۷
۳۴۳	رات کا غم، دن کی شرم	۲۶۸
۳۴۵	تیسرا حصہ	۲۶۹
۳۴۵	چوتھا حصہ	۲۷۰
۳۴۵	خلاصہ کلام	۲۷۱
۳۴۶	مردہ سمجھ کر دفن کر دیئے گئے مفسر	۲۷۲
۳۴۷	نماز جنازہ میں بلا وجہ تاخیر نہ ہو	۲۷۳
۳۴۷	مؤمن کی جان اپنے قرض میں لٹکی رہتی ہے	۲۷۴
۳۴۸	مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ.....	۲۷۵

۳۴۹	قبر کے پاس وعظ و نصیحت کرنا	۲۷۶
۳۵۰	صحابہ کرام ﷺ کا سوال	۲۷۷
۳۵۵	جب فن کر چکو تو اتنی دیر قبر کے پاس ٹھہرنا	۲۷۸
۳۵۷	میت کی طرف سے صدقہ اور اس کے لیے دعا	۲۷۹
۳۵۸	مفتش صاحب کا ایک آیت کا مطلب صحنه کے لیے دیوبند سے گنگوہ کا رات میں پیدل سفر	۲۸۰
۳۶۳	روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ	۲۸۱
۳۶۶	جس کے تین بچے انتقال کر جائیں	۲۸۲
۳۷۱	جهاں اللہ تعالیٰ کا اعذاب آئے وہاں سے گزرنے کا طریقہ	۲۸۳
۳۷۲	یہ بڑی خطرناک روشن ہے	۲۸۴

ڪتاب آداب السفر سفر کے آداب

استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار
جمرات کے دن اور دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کی شروعات کا مستحب ہونا

۳۷۵	لفظ سفر کی تحقیق	۲۸۵
۳۷۶	بعض سفر ضروری ہیں	۲۸۶
۳۷۶	فتح مکہ کے بعد بحرت نہیں	۲۸۷
۳۷۷	طلب حلال کے لیے سفر	۲۸۸
۳۷۷	جان و مال کی حفاظت کے لیے سفر	۲۸۹
۳۷۸	سفر شرعی، سفر غیر شرعی	۲۹۰
۳۷۹	سفر شرعی کی مسافت	۲۹۱

۳۸۰	قصر ضروری ہے	۲۹۲
۳۸۱	سفر کے لیے کون ساداں اور وقت مستحب ہے؟	۲۹۳
۳۸۲	امت کے لیے حضور ﷺ کی برکت کی دعا	۲۹۴
۳۸۳	اکیلے سفر نہ کریں اور امیر مقرر کر لیں	۲۹۵
۳۸۵	اکیلے سفر کا جتنا نقصان میں جانتا ہوں.....	۲۹۶
۳۸۵	لفظ ”قافلہ“ نیک فال ہے	۲۹۷
۳۸۶	سَاعَةٌ، اور سَلِيمٌ، بھی نیک فال ہے	۲۹۸
۳۸۷	سفر کے ساتھی کم از کم تین ہوں	۲۹۹
۳۸۷	چار، چارسو، چارہزار اور بارہ ہزار کی فضیلت	۳۰۰

أبواب شتى من كتاب السفر

۳۹۳	دورانِ سفر اس بات کا بھی خیال رکھو	۳۰۱
۳۹۵	دورانِ سفر اہلِ خانہ کو کھلاتے پلاٹے چلو	۳۰۲
۳۹۶	نمازوں کا نیشہ ہو؛ تو کیسے سوئے؟	۳۰۳
۳۹۷	جب حضور اکرم ﷺ کی نماز قضا ہوئی	۳۰۴
۳۹۸	رات کے وقت فال صلے لپیٹ دیئے جاتے ہیں	۳۰۵
۳۹۸	قیامِ قریب کریں	۳۰۶
۳۹۹	رحمتِ عالم ﷺ کی صفتِ رحمت کا ایک نمونہ	۳۰۷
۴۰۰	نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اونٹ کی فریاد	۳۰۸
۴۰۲	حضور اکرم ﷺ کے مشاہد صحابی	۳۰۹
۴۰۲	منزل پر پہنچتے ہی سواری سے سامان اتار دو	۳۱۰

۳۰۳	ساختی کی مدد کرنا	۳۱۱
۳۰۴	سفر میں ہر زائد چیز حاجت مند کو دیدے	۳۱۲
۳۰۵	دوسروں کا بھی خیال رکھے	۳۱۳
۳۰۷	امیر ہر رفیق کی فکر کرے	۳۱۴
۳۰۸	سفر میں جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے؛ تو کیا دعا پڑھے؟	۳۱۵
۳۱۱	ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو	۳۱۶
۳۱۲	سفر کی دعا پر مغفرت	۳۱۷
۳۱۳	مسافر دورانِ سفر جب کسی ٹیلہ یا اوپنجی جگہ پر چڑھے تو اللہ اکابر پڑھے، اور جب پنجی جگہ اتر رہا ہو تو سبحان اللہ کہے اور جب بھی کوئی ذکر کرے تو آہستہ آواز میں کرے	۳۱۸
۳۱۸	سفر میں دعا کا مستحب ہونا	۳۱۹
۳۱۸	تین دعائیں قبول ہی ہوتی ہیں	۳۲۰
۳۲۱	جب کسی سے خطرہ ہو تو کیا دعا پڑھے؟	۳۲۱
۳۲۳	پڑا ڈالنے کی دعائیں	۳۲۲
۳۲۶	کام جب مکمل ہو جائے تو گھر لوٹنے میں جلدی کرنا چاہیے	۳۲۳
۳۳۱	رات میں اچانک گھرنہ آئے	۳۲۴
۳۳۱	بغیر اطلاع کے اچانک گھر پہنچنے کی خرابیاں	۳۲۵
۳۳۳	جب سفر سے واپس لوٹے اور اپنے شہر کی عمارتوں پر نظر پڑھے؟ تو کیا دعا پڑھے؟	۳۲۶
۳۳۵	سفر سے واپس لوٹے تو پہلے قریب کی مسجد میں جائے، دور کعات پڑھے	۳۲۷
۳۳۶	عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے	۳۲۸

اداریہ

آج کل ”Manners“ اور آداب کے نام پر بہت کچھ بتایا اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو جمیعت اور گھر ان اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کے بتائے ہوئے آداب میں ہے؛ وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ اور ملے بھی کیوں کر؟ کہاں انسان کا علم اور کہاں اللہ تعالیٰ کا علم! بہت سے لوگ تو ”Manners“ کے نام سے اسلامی آداب ہی لکھ دیتے ہیں لیکن اسلام کا حوالہ نہیں دیتے؛ پتہ نہیں کیوں؟ انسان کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ وحی کی مدد کے بغیر محض اپنی عقل استعمال کر کے یہ آداب بتا سکے، یہاں تین تو صاحبِ وحی ہی بتاسکتے ہیں، اب اگر انسان ان کو معلوم نہ کرے، یا عمل نہ کرے؛ تو پھر اس کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے؟

اسلام نے جن خطرات کو سوچ کر لباس کے سلسلہ میں انسانوں کو کچھ حناف ہدایات دی تھیں، انسانیت کے دشمنوں نے جان بوجھ کر دنیا میں ان ہدایات کے خلاف لباس کو مردوں اور عورتوں میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ”فیشن“ کا نام دے کر عام کیا؛ تاکہ دینِ اسلام پورے معاشرہ و سماج میں جو پاکیزگی لانا چاہتا ہے اس سے وہ ہمیشہ محروم ہی رہے، اور جو بگاڑختم کرنا چاہتا ہے وہ خوب بڑھے۔

دینِ فطرت نے مردوں کو ٹخنے چھانے والے لباس سے منع فرمایا، اور عورتوں کو تاکید کی کہ ٹخنے چھانے والے لباس ہی پہنیں؛ تواب اعدائے اسلام نے باقاعدہ محنت کر کے دونوں میں ایسی فیشن ایجاد کر دی کہ مرد ٹخنے چھانے کو اپنی عزت کی معراج سمجھنے لگے، اور عورتیں اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ ننگا کرنے میں فخر محسوس کرنے لگیں۔

ذرا سوچئے! اگر اسلام کی تعلیمات پر عمل کا عمومی ماحول ہوتا تو انسانوں کو کیا

فائدہ ہوتا؟ مردوں کو یہ فائدہ ہوتا کہ ان کی طبیعت و مزاج میں کبر پیدا نہ ہوتا۔ یہ کبر ہی انسان کو کسی کی ماننے سے روک دیتا ہے ”الکبر بطر الحق“، کبر کا مطلب ہی ”حق کو ٹھکرانا“، ہوتا ہے۔ آج حال یہ ہو گیا کہ بیانات کرنے والے بیانات کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، درس قرآن میں لکنوں کی زندگیاں کھپ گئیں، درس حدیث دینے والے علماء نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور یہ بات بھی نہیں کہ لوگ بیانات میں شریک نہیں ہوتے، ضرور شریک ہوتے ہیں اور باصد شوق شریک ہوتے ہیں، لیکن زندگیوں میں خوشنگوار انقلاب نظر نہیں آتا۔

سب عورتیں اگر اسلامی لباس کی پابند ہو جاتیں تو کتنے بڑے بگاڑ سے دنیا پچ جاتی، جس نے بڑی بڑی حکومتوں کے سر میں درد کر دیا ہے، بے حیائی، فناشی، عریانیت کے زہر سے آج خود اس کے موجد ہیں، ہی جاں بہ لب اور دم بخود ہو چکے ہیں۔ کوئی سمجھدار انسان کسی کو بے وجہ کوئی ہدایت نہیں دیتا؛ تو پھر وہ ذات جہاں جا کر حکمت ختم ہو جاتی ہے وہ انسانوں کو بے وجہ کوئی حکم کیوں دے گی، یا کسی چیز سے کیوں روکے گی؟ اس جلد کے ابتدائی ۱۷ صفحات درحقیقت تشریح ہے امام نوویؒ کے اسی انتخاب کی جو آپ نے آیات قرآنی و روایاتِ نبوی کی شکل میں پیش فرمایا ہے، خالی الذہن سلیم الفطرت انسان ان سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔

اس کے بعد تقریباً ۲۰ صفحات کا مضمون سونے کے آداب کا ہے، جس کے ضمن میں اور بھی بہت سی چیزیں آگئی ہیں۔ سونا انسان کے لیے ناگزیر ہے، انسان بہر حال سوتا ہے چاہے آداب و مسحتبات کی رعایت کرے یا نہ کرے، آداب و مسحتبات کی رعایت سے سونے والا دونوں جہاں کا فائدہ حاصل کرتا ہے اور ان کی رعایت نہ رکھنے والا اس سے محروم رہتا ہے۔

”آداب مجلس“، انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے شریعت نے یہ بھی خاص طور سے سکھائے ہیں۔

پھر ”سلام کے احکام و آداب“ بیان ہوئے، نیز ”اجازت لینے کے آداب و ہدایات“ اور ”ملاقات و مصافحہ کے آداب“ ہیں۔

بیمار کی عیادت کی تاکید اکید کے ساتھ ہی ”آداب عیادت“ کی رعایت بھی اتنی ہی ضروری ہے، آداب کی عدم رعایت مریض کے لیے در دبر بن جاتی ہے، اس سلسلہ میں اسلامی ہدایات کو غور سے پڑھ کر ان کی رعایت کر کے حسنِ معاشرت کا ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے۔

میت اور اہل میت کے ساتھ کن آداب کو برتنا چاہیے؟ تعریف اور پسماندگان کو دلاسہ دلانے کی اہمیت پر بڑا موثر مضمون بیان ہوا ہے۔ اسی ضمن میں ”میت کے قرض کی ادائیگی اور اس کی تیاری میں جلدی کا اہتمام“ نہایت ہی اہم اور عقدہ کشا مضمون ہے۔

انسانی زندگی میں سفر کے بغیر چارہ کا رہنیں، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب کی تشریح پڑھنے سے ”آداب سفر“ معلوم ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ سفر کی اقسام کا علم ہو گا، قصر کے احکام ذہن نشین ہوں گے، دوران سفر کن کن باقتوں کی رعایت کرنی چاہیے وہ سیکھنے میں گی اور سفر کی مختلف مسنون دعائیں بھی معلوم ہوں گی۔

خلاصہ یہ کہ ”ادب“ تو انسان کا طرہ امتیاز ہے:-

ادب ہی سے انسان انسان ہے	ادب جو نہ سکھے وہ حیوان ہے
گویا اس جلد کا نام ”آداب زندگی“ رکھا جائے تو بیجانہ ہو گا کہ اس پوری جلد میں مختلف آداب ہی کا تذکرہ ہوا ہے۔ یکسوئی کے ساتھ ان کے مطالعہ سے قارئین کو	

اس بات کا یقیناً اندازہ ہوگا کہ خالقِ کائنات نے اپنے نبیٰ اُمیٰ علیہ الف الف تجیہ و تسلیم کی زبانِ مبارک سے انسانوں کو کتنے اعلیٰ ترین آداب کی تعلیم دلوائی ہے!
اس مجموعہ میں گل دوسو گیارہ (۲۱) روایات پیش ہوئی ہیں۔

هم مولا نا مفتی محمد رضوان صاحب احمد آبادی زید مجدد (نظم مدرسہ ولی اللہ،
کالو پور، احمد آباد) اور ان کے رفقاء کے نہایت ہی ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے
حسب سابق اس جلد کے مواد کی فراہمی میں ہمیں بھرپور تعاون کیا۔ فخر اہم اللہ
اَحْسَنُ الْجَزَاءِ فِي الدَّارِينَ۔ اللہ تعالیٰ لکھن احمدی کی آبادی و شادابی کے لیے ان سب کو
قبول فرمائے۔

ابوزاہر

ڪتابِ اللباس

لباس کا بیان

بابِ استحباب الثوب الأبيض
وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود
وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف
وغيرها إلا الحرير

سفید لباس مستحب ہے۔ لال، ہرا، پیلا، اور کالا

جائز ہے

روئی، کتان، بال اور اون کا لباس جائز ہے

(مردوں کے لیے) ریشم جائز نہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَكْحَمْدُ لِلّٰهِ تَحْمِدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ
بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ آنفِسِنَا وَمِنْ سِيْئَاتِ آعْمَالِنَا مَنْ يَعْمَلْ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشَهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسِلِّمْ تَسْلِيمًا
كَثِيرًا كَثِيرًا۔

اما بعد:

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يَا ابْنَیَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْکُمْ لِبَاسًاً يُوَارِی سَوْآتِکُمْ
وَرِيشًاً وَلِبَاسُ النَّقْوَى ذَلِكَ حَيْرٌ۔ (الأعراف: ۲۶)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَجَعَلَ لَکُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْکُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْکُمُ
بَأْسَكُمْ۔ (النَّحْل: ۸۱)

یہاں سے ایک نیا عنوان ”کتاب اللباس“، شروع کر رہے ہیں، اس میں
لباس سے متعلق جو آداب اور ہدایتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو
معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ کی تعلیمات اور ہدایات انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو
شامل ہیں، اسی میں رہن سہن اور معاشرت کا شعبہ بھی ہے، اس سے متعلق بھی نبی کریم
ﷺ نے تفصیلی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ معاشرت میں ایک چیز لباس بھی ہے جس کے
متعلق بھی بہت ساری ہدایتیں نبی کریم ﷺ کی زبانی اور بہت ساری باتیں
آپ ﷺ کے عمل سے ثابت ہوتی ہیں جن کو علماء نے کتابوں میں تفصیل سے لکھا ہے۔

شیطانی دھوکہ

بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ لباس سے متعلق شریعت کی پابندی کوئی ضروری

نہیں ہے، جیسا لباس چاہو پہن لو، بس آدمی کا باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر جیسا بھی ہو؛ یہ سب محسن شیطانی دھوکہ ہے۔ آدمی کے ظاہر کا بھی اس کے باطن پر اثر پڑا کرتا ہے، اور شریعت نے صرف باطن ہی نہیں، بلکہ ظاہر سے متعلق بھی ہدایتیں اور تعلیمات دی ہیں۔ قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ”وَذْرُوا أَظَاهِرَ الْأَثْمِ وَبَاطِنَهُ“، کچھ ظاہری گناہ ہیں اور کچھ اندر کے (چھپے ہوئے) گناہ ہیں؛ ان سب کو چھوڑ دو۔ تو دیکھئے! ظاہر سے متعلق بھی ہدایت ہے اور باطن سے متعلق بھی ہے۔ روح سے متعلق بھی ہدایت دی ہے اور جسم سے متعلق بھی ہدایت دی ہے۔ اور یہ کہنا کہ آدمی کا باطن اچھا ہونا چاہیے، ظاہر میں جس طرح کا لباس چاہو پہنو، کوئی پابندی نہیں؛ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ باطن جیسا ہوتا ہے، ظاہر پر اس کا اثر نمایاں ہوتا ہے، اور آدمی اپنا ظاہر جس طرح کا بناتا ہے، باطن اس سے متاثر ہوتا ہے۔

..... تو بر قعہ بھی پہن لجئے

حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی (علیہ السلام) نے لکھا ہے کہ: بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب ہمارے دل میں ایمان و تقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد ہے اور ہم شریعت کے سارے احکام کو تسلیم کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے، ہمارا عمل بھی صحیح ہے، تو اب اگر ہم ظاہری طور پر جیسا بھی لباس پہن لیں، چاہے یہود جیسا، چاہے نصاریٰ اور غیر مسلموں جیسا؛ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت الزامی جواب کے طور پر فرماتے ہیں کہ آپ مرد ہیں، آپ کے اندر مرد اگی اور قوت و شجاعت ہے، اور ہمت و ہبیت اور صُولت ہے، تو پھر آپ عورتوں کا سالباس پہن لجئے! اپنی بیوی کی شلوار پہن لجئے! اس کا کرتہ پہن لجئے! دو پٹہ سر پر اوڑھ لجئے! ہاتھوں میں چوڑیاں

پہن لیجئے! کانوں میں بالیاں لگا لیجئے! گلے کے اندر ہار پہن لیجئے! بر قعہ بھی چڑھا لیجئے!
اور اس طرح جا کر اپنی آفس میں ٹیبل پر بیٹھئے، کم سے کم ایک دن کے لیے ایسا کر لیجئے!
اور کوئی آدمی اگر کچھ کہے تو اس سے آپ کہئے کہ میں تو مرد ہوں، مجھ میں شجاعت و
بہادری ہے، مردوں والی قوت اور طاقت ہے، ساری چیزیں مردوں والی ہے، اگر میں
نے صرف لباس عورتوں والا پہن لیا؛ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس
کو گوارا نہیں کریں گے۔ تو جیسے اس کو گوارا نہیں کرتے، اسی طرح دوسری چیزوں میں
بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔

جب خاتون کی ڈاڑھی اُگی

دوسری بات یہ ہے کہ اس زمانہ کے تمام ماہرین نفسیات اس پر اتفاق کرتے
ہیں کہ آدمی جیسا ظاہر اختیار کرتا ہے اس کے باطن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ظاہری اعتبار
سے آپ اپنی شکل و صورت اگر عورتوں جیسی بنا تھیں گے کہ عورتوں کا سالباس پہنیں، یا
مختنوں کا سالباس پہنیں، ان جیسی حرکتیں کرنے لگیں، ان جیسی زبان استعمال کریں،
ان جیسا لہجہ آپ استعمال کریں، جب چند روز تک آپ ایسا کریں گے؛ تو ہی اثرات
آپ کے اندر ظاہر ہوں گے۔ ابو داود شریف میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بال منڈانے سے منع فرمایا (۱)۔

یوروپ کا قصہ ہے، کسی زمانہ میں اخبار میں ایک عورت کے متعلق آیا تھا کہ اس نے بال
منڈانے شروع کئے کہ اس میں کیا حرج ہے۔ جب ایک زمانہ تک بال منڈاتی رہی؛
تو اس کو ڈاڑھی آنا شروع ہو گئی۔

عن ابن عبّادٰ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلَّذِينَ لَمْ يَرْأُوا النِّسَاءَ الْحَلْقَنِ.
(سنن ابی داود: باب الحلقۃ والنقصیر)

DAG: باطن کی خرابی کا اثر

تو یہ کہنا کہ آدمی کے ظاہر کا اس کے باطن کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، صرف باطن درست ہونا چاہیے؛ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بعض اکابر اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو! ہر پھل کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے، اگر اس کا باطن خراب ہے تو اس کا اثر ظاہر کے اوپر DAG کی شکل میں نمایاں ہو گا۔ اگر ظاہر میں DAG نظر آرہے ہیں اور کوئی آدمی یوں کہے کہ اس کا باطن اچھا ہے؛ تو یہ بات مانی نہیں جاسکتی۔ اس لئے ظاہر کے متعلق یہ دعویٰ کرنا کہ ظاہر جیسا بھی ہو، اگر باطن درست ہے تو اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ محض ایک شیطانی دھوکہ ہے۔

اسلامی کٹ میں توسعہ ہے

لباس کے سلسلہ میں بھی اسلام نے جو ہدایات دی ہیں وہ بڑی معتدل ہیں، ویسے لباس کی کوئی خاص وضع قطعی اور تراش خراش اور خاص کٹ متعین نہیں کی کہ اسی کٹ کا لباس آپ پہنئے، بلکہ لباس کے متعلق کچھ اصولی ہدایتیں شریعت کی طرف سے دی گئی ہیں ان اصولی ہدایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آدمی اپنا لباس تیار کرائے تو وہ شرعی لباس کی حدود میں آ جاتا ہے اور اس صورت میں اس قسم کا لباس استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔

لباس کے دو مقصد

چنان چہ یہاں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللباس کا عنوان قائم کر کے پہلا باب قائم کیا جس سے معلوم ہو گا کہ کپڑا کس قسم کا ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں سب سے

پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے (یا بینی آدم قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا سَأَيُّورِی سَوْآتِکُمْ وَرِيشَاؤْلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ) اے انسانو! ہم نے تمہارے اوپر لباس اتنا را جو تمہاری شرم کی چیز کو چھپاتا ہے، اور وہ تمہارے لیے زینت ہے، اور تقویٰ کا لباس بڑا اچھا اور بہتر ہے۔ ”سَوْآتْ“، ”سَوْءَةٌ“ کی جمع ہے، ایسی چیز جس کو ظاہر کرنے سے آدمی شرم محسوس کرتا ہے اور جس کو چھپانا آدمی کی طبیعت کا تقاضہ ہے۔

پہلا مقصد

علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بنیادی چیزیں بتلائی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتنا را جو تمہاری پوشیدہ چیز کو چھپاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں مردوں اور عورتوں میں جسم کے کچھ حصے کے متعلق یہ حکم دیا کہ اس کو چھپایا جائے، جس کو عربی زبان میں ”عَوَرَةٌ“ کہتے ہیں، اور اردو، فارسی میں اس کو ”ستر“ کہتے ہیں۔ ”ستر“ کا ترجمہ ہوتا ہے چھپانا یعنی یہ چھپانے کی چیز ہے۔ اور ”عَوَرَةٌ“ جو عربی لفظ ہے اس کا ترجمہ بھی چھپانا یعنی ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے: ”الْمَرْأَةُ الْعَوَرَةُ“ (سنن ترمذی: باب المرأۃ کو عورۃ) عورت چھپانے کی چیز ہے۔ اور اردو میں عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چھپانے کی چیز ہے۔

مرد اور عورت کا ستر

خیر! مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ چھپانا ضروری ہے، اس کو آدمی ظاہر نہیں کر سکتا۔ عورت کے چہرہ اور ہاتھ کی تھیلیوں کے علاوہ اس کا سارا جسم ستر میں داخل ہے اور اس کو چھپانا ضروری ہے۔ الٰی یہ کہ علاج کی ضرورت ہو تو ضرورت کی مقدار جس کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہو؛ ظاہر کیا جاسکتا ہے۔

ستر پوشی میں تین باتوں کی رعایت ضروری

یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿قُدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا سَيِّئًا وَارِي سَوْأَتُكُمْ﴾

ہم نے تمہارے اوپر ایسا لباس اتنا راجو تمہارے ستر کو چھپاتا ہے۔ تو یہ چھپانے کا جو مسئلہ ہے اس میں تین چیزوں کی رعایت ضروری ہے تب ہی ستر پوشی کا فریضہ ادا ہوگا۔ ویسے بھی آدمی پر ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ اپنے ستر کو چھپانے کا عائد ہوتا ہے، یہاں تک کہ تہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کے حق کے طور پر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ستر کو چھپائے رکھے۔ تو ستر چھپانے میں تین باتوں کی رعایت کی جائے گی:-

لباس ناقص نہ ہو

۱:- ایک تو یہ کہ لباس چھوٹا نہ ہو، یعنی ایسا نہ ہو جو ستر کے پورے حصہ کونہ چھپائے۔ جیسے کوئی مرد پائچا مہم کی جگہ نیکر اور چڈی پہنتا ہے، تو یہ ایک ایسا لباس ہے جو آدمی کے پورے ستر کو نہیں چھپاتا، بلکہ اس میں ستر کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے، ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ یا عورتیں ایسا لباس استعمال کریں کہ بدن کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہو، مثلاً بعض عورتیں سر کھلا رکھتی ہیں، حالاں کہ سر کے بال بھی ستر میں داخل ہیں، اسی لیے اگر نماز کی حالت میں کھل گئے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض عورتیں اوپنچی آستین کا لباس پہنتی ہیں۔ مردوں کی آستین اگر پوری گٹوں تک نہ ہوں، بلکہ کچھ اوپر بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے (ویسے نبی کریم ﷺ کے کرتہ شریف کی آستین گٹوں تک ہوا کرتی تھی جیسا کہ آگے آئے گا)۔ تو اگر مرد کی آستین اوپنچی ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لیے کہ اس کا ستر تو چھپا ہوا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایسے لباس میں بدن کا کچھ حصہ کھلا رہ جائے گا۔ یا جیسے کہ

بعض عورتیں آدھی آستین کا کرتے پہنچتی ہیں، اور بعض تو ایسا کرتے پہنچتی ہیں کہ بالکل آستین ہی نہیں ہوتی، پورا بازو، ہاتھ اور کہنی وغیرہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لباس میں پہلی بات تو یہ ہے وہ ناقص یعنی ادھورا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جو پورے ستر کو ڈھانپ لیتا ہو۔

باریک نہ ہو

۲:- دوسرے وہ اتنا موٹا ہو کہ اس سے جسم کے اندر کا حصہ جھلکتا نہ ہو، یعنی اتنا باریک لباس نہ ہو کہ جسم کے اندر کا ستر والا حصہ نظر آتا ہو۔ اس صورت میں لباس ہونے کے باوجود چوں کے لباس کا مقصد (ستر پوشی) پورا نہیں ہوتا، اس لیے ایسا لباس پہننا بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اب جو عورتیں باریک لباس پہنچتی ہیں جیسے باریک ڈوپٹہ، یا باریک کرتہ جس کی وجہ سے بال، بازو وغیرہ نظر آتے ہیں؛ تو یہ جائز نہیں ہے۔

چست نہ ہو

۳:- تیسرا بات لباس میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ چست نہ ہو، بلکہ اتنا ڈھیلا ہو کہ جسم کی ساخت، بناؤٹ اور بدن کا فگر (Figure) نظر نہ آتا ہو۔ اس لیے کہ ستر میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کھال کی رنگت ہے کہ گوری ہے، یا کالی ہے۔ اور دوسرا اس کا سائز ہے؛ یہ دونوں چیزیں چھپانا ضروری ہے۔ اب اگر کسی نے باریک لباس پہنا ہے تو اس صورت میں اندر کی کھال بھی نظر آئے گی، تب تو دونوں باتیں حاصل نہیں ہوئیں۔ اگر لباس موٹا تو ہے لیکن اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے اس عضو کی بناؤٹ، سائز اور ابھار پورے طور پر نظر آتا ہے، جیسا کہ ایسی پستلوں پہنی ہے کہ کوئے برابر نظر آتے ہیں، شرمگاہ پورے پوری نظر آتی ہے؛ تو ایسا لباس بھی جائز نہیں ہے،

کیوں کہ اس کی وجہ سے چاہے رنگت نظر نہیں آتی، لیکن سائز تو نظر آتا ہے، اور شریعت نے اس عضو کو چھپا نے کا جو حکم دیا اس میں دونوں چیزوں کا لحاظ کیا گیا ہے کہ سائز اور ساخت بھی سامنے والے کو نظر نہ آنی چاہیے، اور رنگت بھی نظر نہ آنی چاہیے۔ اس لیے اگر لباس چست ہے تو اس صورت میں بھی اس کا ایک مقصد حاصل نہیں ہوتا تو ایسا لباس بھی جائز نہیں۔ تو مردوں کے لیے بھی ایسی پتلوں پہننا کہ موٹی تو ہو لیکن بالکل چست ہو؛ جائز نہیں ہے۔ یا عورتوں کے لیے پورے جسم میں کوئی بھی ایسا لباس استعمال کرنا جس سے جسم کی ساخت نظر آتی ہو؛ جائز نہیں ہے۔

خلاصہ یہ کہ اگر یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تب ہی ستر والا مقصد حاصل ہوگا، اگر ان تین میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں ہے تو ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہوگا۔

لباس والی ننگی عورتیں

نبی کریم ﷺ نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی جو لباس پہنی ہوئی ہونے کے باوجود ننگی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ ننگی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ان کا لباس ایسا ہے جو پورے ستر کوڈھا نپتا نہیں ہے، جیسے بازا و اور ہاتھ کھلے رہتے ہیں اور اس کرٹ (Scurr) ہوتا ہے تو پنڈلیاں کھلی ہوتی ہیں، تو ایسا لباس پہننے والیاں عاریات یعنی ننگی کے اندر داخل ہیں۔ ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ اپنے جسم پر لباس ڈالے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہیں کہ ان کا ستر کھلا ہوا ہے۔ یا مرد اگر نیکرا اور چڑی پہنے ہوئے ہیں تو اس میں گھٹنے اور ران کا کچھ حصہ کھلا رہتا ہے؛ تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔

اور دوسری شکل یہ ہے کہ لباس پورے جسم پر پڑا ہوا تو ہے لیکن اتنا باریک ہے کہ اندر سے جسم جھلکتا ہے، تو اس صورت میں بھی یوں کہا جائے گا کہ کپڑا پہنے ہوئے

ہونے کے باوجود نگی ہیں۔

اور تیسرا شکل یہ ہے کہ وہ پورے جسم کے اوپر ہے، موٹا بھی ہے، لیکن اتنا چست ہے کہ اس کی وجہ سے اعضاء کی ساخت نظر آتی ہے، تو وہ بھی اس عید میں داخل ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے ان عورتوں کے متعلق عید ارشاد فرمائی ہے کہ جو لباس پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی نگی ہوتی ہیں (۱) مسلم شریف کی روایت ہے: ”کَالْسِيَّاتُ عَارِيَاتٌ مُهِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسِينَةَ الْبُخْتِ الْمَائِلَةَ“، وہ (اپنی زیب وزینت، اپنے بناؤ سنجھار، اپنی چال ڈھال کی وجہ سے) دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے اور کھینچنے والی ہیں (یعنی ایسا انداز اختیار کرتی ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں) اور وہ خود بھی اپنے ناز و انداز سے دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہیں۔ اور ان کے سرختنی اونٹ کے کوہاں کی طرح ہوتے ہیں۔

پہلے دور کے شراح کے زمانہ میں یہ فیشن رائج نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ تو بے چارے اس جملہ کی تشریح کرتے ہی رہ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانہ کی عورتوں کو دیکھ کر نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور آپ کا ارشاد ایسا عجیب و غریب ہے کہ اس زمانہ کی عورتیں جس نے نہ دیکھی ہوں وہ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے سرختنی اونٹ کے کوہاں کی طرح کیسے ہوں گے۔ سروں کے اوپر بالوں کو ایسا بنا یا جاتا ہے جیسے سختی اونٹ کی کوہاں ہو۔ نبی کریم ﷺ نے

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرْ مُمَا قَوْمٌ مَعْهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسُ وَنِسَاءٌ كَأَسِينَاتٍ عَارِيَاتٌ مُهِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسِينَةَ الْبُخْتِ الْمَائِلَةَ لَا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ (صحیح

مسلم: باب الْتَّسَاءُ الْكَلِيسِيَّاتُ الْعَارِيَاتُ الْمَائِلَاتُ الْمُهِيلَاتُ).

اس پر بڑی وعید فرمائی ہے۔ اور یہ ساری فتنے کی چیزیں ہیں، اس لیے فتنوں کے دروازوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔

ان دروازوں کو بند کرو؛ ورنہ.....

آج کل لباس کے معاملہ میں خاص کر عورتوں پر ان کے گھر کے مردوں کو جیسی نگرانی رکھنی چاہیے اور جو تنبیہ کرنی چاہیے اس باب میں بڑی غفلت ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں جس قسم کا لباس پہن کر باہر آتی ہیں، بہت سوں کے سر کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لباس بھی باریک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اندر کا جسم جھلکتا ہے، یا ایسی سائزیاں پہننے ہوئے ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹ، پیٹھ اور دوسری چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ناتمام لباس پہننا حرام ہے اور اس پر بڑا سخت گناہ ہے اور اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ان فتنوں کو اگر روکا نہیں گیا اور ان دروازوں کو اگر بند نہیں کیا گیا، تو پھر ہمارے لیے دوسرے مسائل کا دروازہ کھل جائے گا ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيَّبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيهِكُمْ وَيَعْفُو عَنِ الْكُثُرِ﴾ (الشوری ۳۰) جو بھی مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ سب تمہارے کرتوں کی وجہ سے آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ آج کل عام طور پر جانی اور مالی اعتبار سے جو بے چینی اور بد امنی ہوا کرتی ہے، ان کے اور اس باب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ لباس کے معاملہ میں عورتوں کی طرف سے جوبے احتیاطیاں ہونے لگیں، ان کے اوپر قدغن لگائی نہیں جاتی، اس پر جو روک تھام ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔

فیشن کیا ہے؟

عجیب ہے اس زمانہ کا فیشن کہ عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے اور مردوں کا لباس

ساتر ہوتا ہے۔ ابھی امریکہ جانا ہوا، تو وہاں میں یہی کہتا تھا کہ دیکھو! شریعت نے مردوں کا ستر تو ناف سے گھٹنے تک مختصر رکھا، اس کے باوجود آپ جہاں بھی دیکھیں گے مرد جو لباس پہنتے ہیں وہ پورے جسم کو چھپانے والا ہوتا ہے، اور عورتیں جو لباس پہنتی ہیں اس میں جسم کا اکثر حصہ نظر آتا ہے۔ یہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ شیطان نے ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے، یہ خواہشات کی پیروی ہے، اور لوگوں کی اندر ورنی ہوس کو بھڑکانے کا کام ہے۔

فیشن کیا ہے؟ فیشن دراصل لوگوں کو شیطانی پکر میں ڈالنے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی صحیح لباس کے بجائے اس لباس کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے شریعت کی طرف سے لباس کے معاملہ میں یہ ہدایت ہے کہ وہ ستر کو چھپانے والا ہو۔ اور چھپانے والا اسی وقت ہو گا جب کہ اس میں یہ تین باتیں ہوں گی۔

دوسرا مقصد

﴿وَرِيشَا﴾ اور یہ لباس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے تمہارے لیے زینت کا بھی سبب ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لباس سے زینت کا کام بھی لیا جاتا ہے۔ اسی لیے آرائش اور آسائش کی اجازت ہے۔ آسائش یعنی لباس کے اندر کوئی ایسی شکل اختیار کرنا کہ راحت حاصل ہو جائے، مثلاً اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اس لیے پندرہ روپیہ فی میٹر کے بدله پچیس روپیہ فی میٹر والا کپڑا خریدتا ہے تاکہ جسم کو راحت ہو؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے آرائش یعنی شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے بقدر ضرورت زینت اختیار کرنے کی بھی اجازت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت کا سبب بنایا ہے۔ البتہ زینت کے باب میں بھی کچھ

حدود ہیں۔ مردوں کے لیے ایسی زینت اختیار کرنا جو عورتوں کے خاص امتیازات میں سے ہو، اور عورتوں کے لیے ایسی زینت اختیار کرنا جو مردوں کے مشابہ بنانے والی ہو؛ اس کی اجازت نہیں۔

زنانے مردا اور مردانی عورتیں

ایسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسے مردوں کے اوپر لعنت کی گئی جو عورتوں کی مشابہت کرنے والے ہوں، اور ایسی عورتوں کے اوپر لعنت کی گئی جو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی ہیں۔ عن ابن عباس رض قَالَ: لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الَّذِينَ أَعْلَمُ
الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ (بخاری،
کتاب الباس ۵۸۸۵) میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں: ”زنانے مردا اور مردانی عورتوں پر نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، یعنی وہ مرد جو مرد ہونے کے باوجود زنانے بننے ہیں
اور ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور وہ عورتیں جو عورت ہونے کے باوجود مردوں
کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ طریقہ شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ نہیں ہے۔

دوباتوں کا خیال رہے

دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لباس تکبر میں ڈالنے والا ہے۔ ایسا لباس جو آدمی کو فخر
اور غرور میں ڈالنے والا ہو، اور اس سے بڑائی اور تکبر مقصود ہو کہ لوگ مجھے دیکھیں اور بڑا
سمجھیں، اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ امام بحنا ری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف
میں کتاب اللباس میں حضرت عبد اللہ بن عباس رض کا یہ جملہ نقل کیا ہے: کُلُّ مَا
شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأْتَكَ أَذْنَتَانِ، سَرْفٌ، وَمَخْيَلَةٌ۔ جو چاہو کھاؤ،
اور جو چاہو پہنو بس دوباتوں کا خیال رکھنا، ایک تو اسراف یعنی فضول خرچی، اور دوسرا

غورو تکبر؛ ان دونوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اپنی حیثیت سے زیادہ کالباس خرید کر پہننا فضول خرچی ہے، اپنی حیثیت کا خیال ضروری ہے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اور اس کے مناسب وہ لباس اختیار کرتا ہے، تو اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ بلکہ ایسا آدمی اگر گھٹیا لباس پہنے تو اس کو شریعت پسند نہیں کرتی۔

پھر فقیروں کا سائبھیس کیوں؟

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پھٹاپرانا لباس پہنے ہوئے ہیں تو حضور اکرم ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں ہے۔ پوچھا: کون سا مال ہے؟ کہا: اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام سب ہیں۔ تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے۔

(سنن ترمذی، باب ماجاء فی الاحسان و الحفوظ، حدیث نمبر: ۲۱۳ / لمجم' الکبیر للطبرانی: ۱۵۹۵۴)

جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو فقیروں کا سائبھیس بنا کر کیوں پھرتے ہو؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق، اس کے مناسب قیمت کا لباس آدمی کو پہننا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اثر جسم پر ظاہر ہو۔ ہاں! اگر اپنی حیثیت سے زیادہ کالباس پہنے گا تو وہ فضول خرچی میں شمار ہو گا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یعنی حیثیت تو ہے پندرہ روپے فی میسر والا کپڑا خریدنے کی، اور استعمال کر رہا ہے بچا س روپے فی میسر والا تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں! بچا س روپے فی میسر والی حیثیت ہے تو بچا س روپے والا بھی پہن سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ پہننا چاہیے، تاکہ لوگ اس کے متعلق کسی غلط فہمی میں پتلا نہ ہوں، بہ شرطیکہ آدمی اس لباس کی وجہ سے تکبر میں نہ پڑے۔

صحابہ اور ہمارے قلب کا حال

روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب ع عنہ ایک مرتبہ شاندار جبہ پہن کر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، جب نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو وہ جبہ اتار دیا اور قسم کھائی کہ آئندہ اس کو نہیں پہنوں گا۔ پوچھا گیا: کیوں؟ یہ پہننا جائز تو ہے؟ تو اس کی وجہ بتائی کہ یہ قیمتی جبہ تھا، اس کو پہن کر میرے دل میں ذرا سا غرور پیدا ہوا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا رہا ہوں، اس جبکی وجہ سے میرے دل میں بڑائی آئی، اس لیے آئندہ اس لباس کو استعمال نہیں کروں گا۔ حضرت عمر بن الخطاب ع عنہ صاف وشفاف قلب والے تھے اس لیے فوری طور پر انہوں نے اس کا اثر محسوس کر لیا۔ جیسے کوئی کپڑا کل سفید براق اور صاف وشفاف ہو، تو اس پر معمولی ساداغ بھی فوراً محسوس کر لیا جاتا ہے۔ ان حضرات کا حال ایسا ہی تھا۔ ہمارے قلوب کا حال تو ایسا ہے جیسے کسی کپڑے پر بے شمار داغ لگے ہوئے ہوں اور اس پر اگر ایک آدھ داغ اور لگ جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ غرور اور کبر کے متعلق فیصلہ آدمی اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، بلکہ کسی کو اپنے اوپر سر پرست بنائے، اور اپنا حال اس کے سامنے پیش کر کے اس سلسلہ میں اس سے مشورہ لے کہ یہ غرور اور کبر میں داخل ہے یا نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایک آدمی غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے متعلق یوں سمجھتا ہے کہ میں تکبر میں مبتلا نہیں ہوں، لیکن اگر کسی ماہر کے سامنے اس کا حال رکھا جائے تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ تو تکبر ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ لباس غرور اور تکبر پیدا کرنے والا نہ ہو۔ اور اس لباس میں مرد عورتوں کی مشاہدہ اختیار نہ کرے، اور عورت مردوں کی مشاہدہ اختیار نہ کرے۔

تشبہ اور مشابہت کا فرق

ایک چیز ہے تشبہ یعنی غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، اس سے بھی پہنچ کی ضرورت ہے۔ اور ایک ہے مشابہت۔ ایک ہے بالارادہ کسی جیسا بننا؛ یہ تشبہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس نے کسی کے جیسا بننے کا رادہ تو نہیں کیا تھا لیکن اس جیسا نظر آ رہا ہے؛ یہ مشابہت ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ تشبہ کے بارے میں ابو داود شریف میں روایت ہے: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (سنن ابو داود: باب فی الْبَيْنَ الشَّهْرَيْنَ) جو آدمی کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ اسی لیے ایسا لباس اختیار کرنا جو غیروں کا شعار اور اختیار سمجھا جاتا ہو، ان کی مخصوص چیز سمجھی جاتی ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔

تشبہ کے درجات

ویسے تشبہ کے کئی درجے ہیں۔ ایک ہے عقائد اور عبادات میں غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، ان جیسا عقیدہ رکھنا، یا جیسے وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ بھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے، وہ جس چیز کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی پوجا کرنے لگے؛ یہ تو کفر ہے۔

اور اگر ان کا شعار اختیار کرتا ہے؛ تو حرام ہے، مثلاً مجوسیوں کی مخصوص اٹوپی پہن لی۔ یا ہندو اور مشرک لوگ زُنار اور جنونی (کالا جا) باندھتے ہیں، اس نے بھی اپنے جسم پر جنونی (کالا جا) لیکالی۔ یا وہ اپنے قومی لباس کے طور پر دھوتی پہنتے ہیں، تو مسلمان کے لیے دھوتی پہننا حرام ہے۔ (دھوتی کا تعلق مذہبی لباس سے نہیں ہے، قومی لباس سے ہے۔)

قومی اور مذہبی شعارات میں فرق

دیکھو! دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مذہبی شعار ہوتا ہے اور ایک قومی شعار ہوتا ہے، زنان اور جنوبی مذہبی شعارات ہے، دھوپی مذہبی شعارات نہیں، بلکہ قومی شعارات ہے، یعنی یہ عام طور پر غیر قوم کا لباس سمجھا گیا ہے۔ مذہبی شعار بھی حرام ہے اور قومی شعار بھی حرام ہے، لیکن مذہبی شعارات میں حرمت زیادہ ہے۔ لہذا قومی شعارات میں کافروں، فاسقوں اور فاجروں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے جیسے عام طور پر آج کل نوجوان فلموں میں کام کرنے والے ایکٹروں جیسا لباس بناتے ہیں، انہی جیسے بالوں کی تراش و خراش بنواتے ہیں، جو تے بھی انہی کی طرح کے پہننے ہیں، چہرہ مہر بھی ویسا ہی بنواتے ہیں، اور نیت یہی ہوتی ہے کہ ہم بھی ویسے ہی نظر آؤیں۔ یا لڑکیاں فلموں میں کام کرنے والی ایکٹریس (Actress) کی طرح لباس پہننیں اور یوں چاہیں کہ ہم بھی ویسی ہی نظر آؤیں؛ تو یہ تشبہ ہوا یعنی پہننے وقت ہی خود کو اس جیسا بنانے کا ارادہ ہے، اس پر یہ وعدید آئی ہے ”مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے وہ ان میں سے ہے۔

عام عادات میں تشبہ

خلاصہ یہ ہوا کہ عقائد و عادات میں تشبہ سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر قومی یا مذہبی شعارات میں تشبہ اختیار کیا ہے، تو یہ حرام ہے۔ اور حرمت کی شدت ایک میں زیادہ ہے اور ایک میں کم ہے۔ اور عام عادات میں اگر آدمی انہی جیسا بننے کی نیت سے مشابہت اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی تشبہ ہے؛ اور یہ نکروہ تحریکی ہے، یعنی یہ بھی حرام کے قریب گناہ ہے۔ اور اگر ان جیسا بننے کی نیت اور ارادہ نہیں ہے، لیکن ان کے جیسا

لباس پہن لیا، تو یہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، لیکن تحریکی نہیں۔ یہ تشبہ نہیں، بلکہ مشاہدہ کھلاتی ہے۔

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تشبہ سے شریعت نے منع کیا ہے اور نبی کریم ﷺ نے خاص طور پر اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ علامہ ابن تیمیہ رضی اللہ عنہ کی مستقل ایک کتاب ہے: «اقتضاء الصراط المستقيم و مخالفۃ اصحاب الجحیم» جس میں غیر وہ کے ساتھ مشاہدہ کے سلسلہ میں جو باتیں ہیں وہ بڑی تفصیل سے بتلاتی ہیں۔ اور اردو میں حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب دو حصوں میں «التشبیه فی الإسلام» ہے۔ اہل علم کے لیے بڑی مفید ہے، اس میں تفصیل سے اس مسئلہ کا جائزہ لیا ہے۔

لا! میں تجھے رنگ دوں

تشبہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہی آدمی کو کفر تک لے جانے والی ہے، اس لیے کہ حضور اکرم ﷺ نے جو فرمایا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشاہدہ اختیار کی وہ ان میں سے ہے، گویا اسی میں اس کا شمار کیا جائے گا۔

چنانچہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے آپ بیتی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ صفت نیک آدمی تھے، ایک مرتبہ ہولی کے دن جا رہے تھے، پان کھایا ہوا تھا، ایک مریل قسم کے گدھے کو دیکھا تو مزاحیہ یہ کہتے ہوئے پان کی پیک اس پر ڈالی کہ آج تجھے کسی نے نہیں رنگا، لا! میں تجھے رنگ دوں۔ انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا کہ بہت اچھی حالت میں ہیں، لیکن ان کے ہونٹوں کے اوپر ایک چھوٹا سا سانپ رینگ رہا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا: ہونٹ کے اوپر یہ سانپ کیا؟ تو

انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور میں نے یہ جملہ کہتے ہوئے اس گدھے پر پان کی پیک ڈالی تھی، اس کی وجہ سے مجھے یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔

باؤ جو دل توجہ کے وہ ظلمت دور نہیں ہوئی

حضرت شیخ الشیعی نے آپ بیتی ہی میں ایک اور قصہ لکھا ہے، حضرت مجدد الف ثانی الشیعی نے ایک آدمی کے متعلق فرمایا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے ساتھ تھا، اور اس کے دل میں ان کی محبت تھی تو انتقال کے وقت اس کی زبان کے اوپر کلمہ نہیں آ رہا تھا۔ حضرت مجدد صاحب الشیعی فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی توجہ اور کوشش کی کہ اس کے دل پر جواندھیرا ہے وہ دور ہو، لیکن باؤ جو دل توجہ اور کوشش کے وہ ظلمت دور نہیں ہوئی، اور بغیر کلمہ کے وہ آدمی دنیا سے گیا۔

ایک عبرت ناک واقعہ

حضرت گنگوہی الشیعی کی سوانح تذكرة الرشید میں حضرت کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، انتقال کے بعد ان کو دفن کیا گیا، پھر کسی وجہ سے ان کی قبر کھولنے کی ضرورت پیش آئی۔ جب قبر کھودی گئی، تو اس میں وہ نہیں تھے بلکہ ایک لیڈی یعنی انگریز عورت تھی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ کیسی بات ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ عورت خفیہ طور پر اسلام لے آئی تھی اور اس کے انتقال پر اس کے مذہب والوں نے تو اس کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا، لیکن یہ مولوی صاحب کبھی کبھار بولا کرتے تھے کہ عیسائیوں میں یہ بہت اچھا ہے کہ ان کے یہاں غسلِ جنا بت نہیں ہے۔ اس جملہ کا یہ اثر ہوا کہ ان کی جگہ پر اس لیڈی کی لاش تھی اور جب اس لیڈی کی قبر کو کھولا گیا تو اس کی جگہ پر ان مولوی صاحب کی لاش تھی۔

تو تشبہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے آدمی کو لباس کے معاملہ میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے، اور غیر وہ کسی بھی ساتھ کسی بھی معاملہ میں تشبہ سے بچنے کی نبی کریم ﷺ نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ لہذا اگر ارادہ کر کے کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو یہ تو بہت خطرناک ہے، اور اگر ارادہ کے بغیر ہے تب بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔

کوٹ پتلون کا مسئلہ

اب رہا کوٹ پتلون کا مسئلہ! تو کسی زمانہ میں کوٹ پتلون انگریزوں کا مخصوص لباس سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وہ بات نہیں رہی، اس لیے اس کو مکروہ تحریکی تونہیں کہیں گے۔ اس پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بھی مسئلے بدلتے رہتے ہیں۔ تو ایک بات یاد رہے کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی زمانہ میں کوٹ پتلون انگریزوں کا مخصوص قومی لباس، قومی نشان و شعار تھا، مذہبی نہیں۔ تو قومی نشان ہونے کی وجہ سے اس جیسا لباس پہننے کو مکروہ تحریکی قرار دیا گیا تھا، لیکن پھر اس کی اتنی کثرت ہوئی کہ یہ ان کا قومی نشان و شعار اور قومی لباس نہیں رہا، بلکہ سب لوگ پہننے لگے اور انگریزوں کی خصوصیت نہیں رہی، اس لیے اس کو مکروہ بھی نہیں کہیں گے۔

لیکن ایک بات یاد رہے کہ شرط یہ ہے کہ وہ پتلون تنگ نہ ہو، اگر اتنی تنگ ہے کہ اعضاء کی ساخت نظر آتی ہے، تو وہ منوع ہو گی جیسا کہ میں نے شروع میں اصول بتلا دیا۔ دوسرا یہ کہ وہ پتلون ٹخنوں سے اوپھی ہو، اگر ٹخنوں سے پچی ہے، تو ناجائز ہے۔ کیوں کہ مردوں کے لباس کے لئے شریعت نے ایک اصول یہ بھی بتلا دیا ہے کہ وہ ٹخنوں سے اوپھا ہونا چاہیے۔ یہ اصول عورتوں کے واسطے نہیں ہے، مردوں کے لئے ضروری

ہے کہ ان کا لباس ٹخنوں کو ڈھانپنے والا نہ ہو، اگر ٹخنوں کے نیچے لکھتا ہے تو اس پر ممانعت آئی ہے۔ لہذا اگر پتلوں میں یہ دو باتیں نہیں ہیں، تو اس کو مکروہ بھی نہیں کہیں گے، اور اس کو پہننے کی اجازت ہے، اگرچہ اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا ہے، اس لیے کہ صلحاء اور نیک لوگوں کا لباس نہیں ہے، اور ہر زمانہ میں نیک لوگ جو لباس پہنا کرتے ہیں اس کو اختیار کرنا پسند کیا گیا ہے۔

لباس کے اصول

بہر حال! لباس کے سلسلہ میں چند اصول میں نے بتلانے:-

[۱]: - ساتر ہو۔ یعنی ستر کو چھپانے والا ہونا چاہیے، اور ساتراہی وقت ہو گا جب اس میں وہ تین باتیں پائی جائیں جو اور پر تفصیل سے بیان ہوئیں۔

[۲]: - اس لباس کو پہن کر آدمی خخر و مبارات، غرور اور دکھلوے میں مبتلانہ ہو۔ اگر دکھلوے کے لئے پہنا ہے، یا اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے؛ تو یہ ناجائز اور ممنوع ہے، اور اس کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔

یا اسراف اور فضول خرچی ہوتی ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ کا پہننا ہے تب بھی اس کی اجازت نہیں، گناہ ہے۔

[۳]: - تیسرا یہ کہ مرد کے لیے ایسا لباس پہنانا جس میں عورت کی مشابہت رنگ اور تراش خراش (کٹنگ) کے اعتبار سے لازم آتی ہو؛ تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔

ریشم اور آرٹ سلک کا حکم

ریشمی لباس مرد کے لئے جائز نہیں، البتہ عورتوں کے لئے اجازت ہے۔ آج کل جو بناؤی ریشم ہوتا ہے، جس کو آرٹ سلک کہا جاتا ہے، اس کی تومرد کے لئے بھی

اجازت ہے حقیقی ریشم مرد کے لئے من nou ہے، بناؤ ٹی ریشم حقیقی ریشم کے حکم میں نہیں ہے، پھر بھی وہ صلحاء کے لئے پسندیدہ نہیں ہے، اس لئے آدمی کو اپنے مناسب حال لباس اختیار کرنا چاہیے۔

سرخ رنگ کا لباس مردوں کے واسطے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ویسے نبی کریم ﷺ کا حال آگے روایت میں آئے گا کہ آپ نے سرخ جوڑا پہنان تھا۔ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ وہ خالص سرخ رنگ نہیں تھا، خالص سرخ رنگ ہوتا وہ مکروہ ہے، اگر سرخ رنگ میں دوسرے رنگ کی ملاوٹ ہے، جیسے سرخ رنگ کی دھاری کی اجازت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے بھی جو لباس پہنان تھا وہ سرخ دھاری والا تھا۔ البتہ خالص سرخ ہو تو اس کو احناف کے یہاں مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

اور اس میں غیر دل کی مشاہدہ لازم آتی ہو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔

کیا اونچا پائی چاماہ عیب ہے؟

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اونچا پائی چاماہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلح حدیبیہ کے موقعہ کا قصہ پہلے بھی کہیں گزر چکا ہے کہ نبی کریم ﷺ عمرہ کے ارادہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر جب نکلے تو مشرکین مکہ نے یہ طے کر لیا کہ ان کو عمرہ کے لئے جانے نہیں دیں گے، پھر صلح کی گفتگو ہوئی، اس موقعہ پر نبی کریم ﷺ نے اپنا پیغام لے کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں کے پاس بھیجا تھا کہ ہم لڑنے کے واسطے نہیں آئے ہیں، ہم تو بیت اللہ کی زیارت کے لئے آئے ہیں، ہم کو زیارت کر لیں دو، پھر ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام بھیجا نے کے لئے پہلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ حبانتے ہیں کہ ان مشرکین کو

میرے ساتھ کسی دشمنی ہے، اس کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مناسب ہیں۔

بہر حال! حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا، جب وہ روانہ ہوئے تو مکہ میں پتہ چل گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرہے ہیں، تو ان کے خاندان کے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لئے باقاعدہ شہر سے باہر آئے اور اپنے ساتھ لے گئے اور کہا کہ آپ کو کوئی نگی بھی نہیں لگا سکتا، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ جس مقصد کے لئے آئے ہیں وہ پورا کیجئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم ﷺ کا پیغام جو مشرکین کے نام تھا وہ پہنچایا، اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لئگی لٹخنوں سے اوپنجی تھی اور مکہ والے لٹخنوں سے نیچا لباس پہنتے تھے، بلکہ ایسا لباس جو زمین سے گھستتا ہو، اور اس سے زمین پر نشان بنتا چلا جائے، اس کو اپنے لئے فخر سمجھتے تھے۔ تو ان کے خاندان کے کسی آدمی نے ان سے یوں کہا کہ آپ اپنا خونہ ڈھانپ لیجئے، اور اپنی لسنگی ذرا پنجی کر لیجئے، بیہاں کے لوگ اس کو عیوب سمجھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: «هَكَذَا إِزْرَأْتُ صَاحِبِنَا» (مصنف ابن أبي شيبة، مزواد الحدیثیة)، میرے حبیب ﷺ کی لئگی اسی طرح اوپنجی رہتی ہے، میں اپنی لئگی پنجی نہیں کروں گا۔ ہر مسلمان کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ یہ نبی کریم ﷺ کا طریقہ ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سوسائٹی اور معاشرہ کے اندر رہنا ہے، ہم اگر ایسا لباس پہننیں گے تو لوگ طعنہ دیں گے۔ تو بھائی! ان طعنوں کو کب تک دیکھتے رہو گے؟

ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے * زمانہ تم پر ہنستا ہی رہے گا
 دوسروں کے طعنوں کی وجہ سے ہم اپنا حال کیوں بدل لیں۔ تو لباس کے سلسلہ میں جو اصولی باتیں تھیں وہ عرض کر دیں، ان کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے۔

لباس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے

ایک اور آیت پیش کی ہے: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيْكُمْ بَأَسْكُنْهُ﴾ (النحل: ۸) اس آیت میں باری تعالیٰ نے لباس کو اپنے احسان کے طور پر ذکر کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے قیص بنائے جو تم کو گرمی سے بچاتے ہیں (چوں کہ وہاں عام طور پر موسم گرم رہتا تھا اس لئے اس کا ذکر کیا، ورنہ لباس جس طرح آدمی کو گرمی اور دھوپ سے بچاتا ہے، اسی طرح سردی سے بھی بچاتا ہے۔) اور ایسے قیص بھی بنائے جو تم کو آپس کی گرفت اور ایک دوسرے کی تکلیف سے بچاتے ہیں (جنگ کے موقع پر آدمی زرہ پہنتا ہے جو لو ہے کی بنی ہوئی قیص ہوا کرتی ہے) تو ان دونوں قمیصوں یعنی کپڑے کی بنی ہوئی اور لو ہے کی بنی ہوئی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ان لباسوں کو اپنے احسان کے طور پر ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس سلسلہ میں مجیٰ کریم ﷺ نے جو ہدایت دی اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔

انگریز کے کہنے سے گھٹنے بھی کھول دیے

حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ یاد آیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول ﷺ کے کہنے سے ایک مسلمان اپنے ٹخنے بھی کھولنے کے لئے تیار نہیں، اور انگریز کے کہنے سے گھٹنے بھی کھول دئے، نیکریں پہن لیں۔ انگریز کی اتباع میں لوگوں نے نیکر پہن کر گھٹنے تک کھول دئے اور اللہ کے رسول ﷺ کی اتباع میں ٹخنے کھولنے کو تیار نہیں ہوتے۔

کیا میری ذات میں نمونہ موجود نہیں؟

مجیٰ کریم ﷺ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کی لگنگی ٹخنے سے پچی ہے تو ان سے

کہا: اَرْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنَّهُ أَنْقَى وَأَبْقَى۔ اپنی لگنگی او نچی کرو کہ یہ زیادہ پا کیزہ طریقہ ہے اور کپڑے کو دیر تک باقی رکھنے والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! معمولی سی دوپیسے کی تو لگنگی ہے، اس کے ٹخنے سے نچی ہونے سے کیا ہو گا؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا میری ذات میں تمہارے لئے نمونہ موجود نہیں ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو نبی کریم ﷺ کی لگنگی آدمی پنڈلی تک تھی۔ (شماں ترمذی باب ماجاء فی صفةِ إِزار رسول اللہ ﷺ) اس لئے آدمی پنڈلی تک ہوتا چھا اور سنت ہے۔

سنن طریقہ اور اس کی قسمیں

دیکھو! سنن کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ جو دین کے اندر پسندیدہ اور راجح ہو، چاہے وہ فرض اور واجب نہ ہو، لیکن نبی کریم ﷺ نے اور آپ کے بعد خلفاء راشدین نے اس کے اوپر مواظبت کی ہو۔ سنن کی دو قسمیں ہیں: سنن بدیٰ اور سنن زواند۔ سنن بدیٰ: وہ طریقے ہیں جو نبی کریم ﷺ نے کر کے بتلائے، تاکہ امت اس کا اتباع کرے۔ جیسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اذان، اقامۃ، نیزو وہ طریقے جن کی آپ ﷺ نے تاکید فرمائی ہے؛ ان کو سنن مؤکدہ بھی کہتے ہیں۔ جوان کو چھوڑے گا وہ قابلِ ملامت ہے اور اس کا چھوڑنا برا ہے۔

سنن زواند جن کو سنن عادیہ بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو کام نبی کریم ﷺ نے عادت کے طور پر کئے۔ جیسے آپ ﷺ نے عمائد استعمال فرمایا، مخصوص کرتے استعمال فرمایا، مخصوص لگنگی استعمال فرمائی، یا آپ کی گریبان سینہ کے اوپر تھی۔ کوئی آدمی اگر ان طریقوں کی اتباع حضور ﷺ کی سنن کی پیروی ہی کی نیت سے کرتا ہے تو وہ باعثِ ثواب ہے۔ اگر اتباع کی نیت نہیں ہو گی تو اس صورت میں ثواب نہیں ملے گا۔ یہ چونکہ

سنن عادیہ کے قبل سے ہیں، اس لئے اگر کوئی آدمی ان طریقوں کو اختیار نہ بھی کرے تو وہ قابلِ ملامت نہیں۔

مسنون لباس کا اصول

خلاصہ یہ ہوا کہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول کو مددِ نظر رکھتے ہوئے شرعی حدود میں جو لباس پہنانا جائے وہ مسنون لباس کہلانے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت لباس وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال فرمایا، یا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، جو طرز و طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتالیا ہے۔

باب کا عنوان

لباس کے سلسلہ میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا تھا سفید کپڑے کا مستحب اور پسندیدہ ہونا۔ ویسے تو ہر رنگ کا کپڑا اپہن سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف رنگ کے کپڑے بوقتِ ضرورت یا موقعِ بموقعہ استعمال فرمائے ہیں، لیکن سفید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور اکثر ویشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سفید ہی ہوا کرتا تھا۔ اس لئے فرمایا ”احمر“، یعنی ایسا سرخ لباس جو دوسرے رنگ کی ملاوط والا ہو، سبز، پیلا، کالا؛ یہ سب رنگ کے لباس پہنانا بھی جائز ہے۔ اسی طرح ”قطلن“، یعنی سوتی لباس، کتان، بال اور اون کا لباس پہنانا بھی جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مختلف طریقے کے لباس (جیسے آج کل کی نئی ایجادات کی وجہ سے جو کپڑے بنائے جاتے ہیں جیسے نائلوں، ٹیف لوں اور مختلف معدنیات سے جو چیزیں بنتی ہیں) استعمال کرنا جائز ہے، سوائے ریشم کے۔ اور ریشم کے متعلق بھی جیسا کہ اوپر میں نے بتایا کہ اصلی ریشم حرام ہے، لیکن بناؤں ریشم جس کو آرٹ سلک کہا جاتا ہے وہ جائز ہے، لیکن اس سے بھی بچنا اچھا ہے۔

پسندیدہ رنگ کون سا؟

۷۷:- وَعَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَسُوْا مِنْ زَيَادَةِ الْبَيَاضِ؛ فَإِنَّهَا مِنْ حَيْرَتِي إِذَا كُلْمَ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَانِكُمْ.

(رواہ أبو داود والترمذی. وقال: حدیث حسن صحيح)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے کپڑوں میں سفید لباس پہنو، اس لئے کہ یہ اچھا لباس ہے۔ اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو بھی کفن دو۔

۷۸:- وَعَنْ سَمْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَسُوْا الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْتَانِكُمْ.

(رواہ النسائی والحاکم. وقال: حدیث صحيح)

ترجمہ:- حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سفید لباس پہنو، اس لئے کہ وہ زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔

لیکن تو چیزے دیگری

۷۹:- وَعَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءً مَا رَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ میانہ قد تھے (نہ لانے تھے اور نہ پستہ قد تھے، لیکن درمیانی قد کے ہونے کے باوجود آپ ﷺ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ جب آپ مجھ میں چلتے تھے تو آپ اونچے نظر آتے تھے، یہ حضور اکرم ﷺ کا مجزہ تھا) اور ایک مرتبہ میں نے آپ ﷺ کو سرخ جوڑے میں دیکھا تو آپ سے زیادہ حسین کسی اور کوئی نہیں پایا۔

آفاقہاً گردیدہ ام، مہربتائی ورزیدہ ام بُسِیار خوباب دیدہ ام، لیکن تو چیزے دیگری

افادات:- گویا نبی کریم ﷺ سفید لباس کی تاکید فرمائے ہیں، اس لئے یہ رنگ مستحب، اچھا اور پسندیدہ ہے، اس کو عام حالات میں آدمی اختیار کرے، اور سفر یا کسی دوسری ضرورت کی وجہ سے رنگین لباس استعمال کرتا ہے تو نبی کریم ﷺ سے یہ بھی ثابت ہے۔ یا بلا ضرورت بھی رنگین لباس استعمال کرتا ہے تو جائز ہے، منوع نہیں ہے۔ اور کفن بھی سفید ہو تو اچھا ہے، ویسے رنگین کفن بھی دیا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ رنگ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص سمجھے جاتے ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے آج کل پرنٹنگ ہوتی ہے تو بعض پرنٹ ایسی ہوتی ہے جو عورتوں ہی کے لئے مخصوص ہوتی ہیں، تو ایسی مخصوص پرنٹ کا لباس بھی اگر مرد استعمال کرے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔

اور تیسری روایت میں سرخ سے مراد علماء اور شریح نے لکھا ہے کہ حنالص سرخ نہیں تھا، بلکہ اس زمانہ میں یمن سے جو چادریں آتی تھیں اس کے اوپر سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

علامہ نووی رض نے پچھلی مجلس میں ایک نیا عنوان ”کتاب اللباس“ شروع کیا تھا، اس سلسلہ میں جو اصولی اور بنیادی بدایات تھیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں، اسی کے متعلق روایات کو پیش کیا جا رہا ہے۔

حضرور اکرم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا سرخ جوڑا پہننا

۸۲: - وَعَنْ أَبِي حُيَيْفَةَ وَهُبَّ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قَبَّةِ الْمَكَّةِ حَمَّرًا مِّنْ أَدْمٍ، فَتَرَجَّعَ بِلَائِلٍ بِوَضُوئِهِ، فَمَنْ تَأْتِيهِ وَقَائِلٌ، فَتَرَجَّعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءٌ، كَمَا يُنْظَرُ إِلَيْهِ بِيَاضِ سَاقِيهِ، فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَائِلٍ، فَجَعَلْتُ أَتَتَّبِعُ فَآهَاهُنَا وَهَاهُنَا، يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا: حَمَّرٌ عَلَى الصَّلَاةِ، حَمَّرٌ عَلَى الْفَلَاجِ، ثُمَّ رُكِّزَتْ لَهُ عَنْزَةٌ، فَتَنَقَّدَ مَفْصِلٌ يَمْرُبُّ يَدِيهِ الْكَلْبُ وَالْجِمَارُ لَا يُمْتَنَعُ.

(متفقٌ عَلَيْهِ) .

((العنزة)) بفتح النون: نحو العكازة.

ترجمہ مع تشریح: - حضرت ابو حیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کو مکرمہ، بلطخاء میں دیکھا کہ آپ چڑھے کے بنے ہوئے سرخ خیمے میں قیام پذیر تھے (یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ جب نماز کا وقت ہوا) تو حضرت بلال رض وضو کا پانی لے کر آئے، آپ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے وضو فرمایا، کچھ لوگ جن کو وہ پانی ہاتھ لگ کیا، انہوں نے اس کو اپنے بدن پر مل لیا، اور جن کو ہاتھ نہیں لگا انہوں نے ان کے بدن کو ہاتھ لگا کر اپنے بدن پر ملا۔ (اس لیے کہ نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام رض اس پانی کو لے کر بطور برکت اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔) پھر (جب نماز کا وقت آیا تو) نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ کے جسم پر

سرخ جوڑا تھا (اور آپ ﷺ کی لئگی اتنی اوپنی تھی کہ) میں نبی کریم ﷺ کی پنڈلی کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا (اس سے لباس کے دوسرے ادب کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے جیسا کہ آگے صراحتاً آئے گا کہ لئگی وغیرہ میں نبی کریم ﷺ کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ آپ آدمی پنڈلی تک پہنا کرتے تھے، اور آپ نے اس کی تاکید بھی فرمائی) پھر نبی کریم ﷺ نے وضو فرمایا، حضرت بلاں ؓ نے اذان دی، اور میں حضرت بلاں کے منہ کو ادھر ادھر گومتا ہوا دیکھ رہا تھا، یعنی حی علی الصلوٰۃ کہتے وقت دائیں طرف چہرہ پھیر رہے تھے، اور حی علی الغلاح کہتے وقت بائیں طرف پھیر رہے تھے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا نیزہ (جو آدمی کی کمر تک آجائے) نبی کریم ﷺ کے سامنے سترہ کے لئے گاڑا گیا (یہ بھی نماز کے آداب میں سے ہے کہ کوئی آدمی کھلی جگہ نماز ادا کر رہا ہوا اور سامنے سے لوگوں کے گزر نے کامکان ہو تو اس صورت میں اپنے سامنے کوئی لکڑی یا اور کوئی چیز گاڑ دے جو سترہ کا کام دے) چنان چہ نبی کریم ﷺ آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی، اور آپ کے سامنے (سترہ کے آگے) سے کتا اور گدھا گزر رہا تھا لیکن ان کو گزر نے سے روکا نہیں جا رہا تھا۔

افادات:- چنان چہ حدیبیہ والے قصہ میں بھی مذکور ہے کہ حضرت ابو مسعود شفقی جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، وہ جب نبی کریم ﷺ کے پاس مشرکین کی طرف سے گفتگو کرنے کے لئے آئے، پھر واپس جا کر انہوں نے صحابہ کرام رض کا نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت والا جو علق دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا، اس میں یہ بھی بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ جب حضور اکرم ﷺ وضو کرتے ہیں تو آپ کے اعضاء مبارک سے گرنے والے پانی کو لینے کے لیے صحابہ آپس میں لڑتے ہیں، جن کے ہاتھ لگ گیا وہ اپنے بدن پر نلتا ہے، اور جن کے ہاتھ نہیں لگا وہ اس سے لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس روایت میں بھی اسی بات کو بتالا یا گیا ہے۔

بس! یہاں تو یہ روایت اسی چیز کو بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ عنوان میں یہ بھی تھا کہ مختلف رنگ کا لباس آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ اور پچھلی مجلس میں بھی حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت کے تحت بتلا دیا تھا کہ جو سرخ جوڑے کا تذکرہ ہے تو وہ خالص سرخ رنگ کا نہیں تھا بلکہ اس زمانہ میں یمن سے ایسی چادریں بن کر آیا کرتی تھیں جن میں سرخ رنگ کی دھاریاں ہوا کرتی تھیں، باقی سفید کپڑا ہوتا تھا، اسی ملے جملے رنگ کے کپڑے سے آپ کے لئے جوڑا اتیار کیا گیا تھا۔ جیسے آج کل بھی رومال آتے ہیں جن میں سفید اور سرخ رنگ ملا جلا ہوتا ہے لیکن اس کو سرخ رومال ہی کہا جاتا ہے۔ مسئلہ بتلا چکا ہوں کہ احناف کے نزد یک مردوں کے لئے خالص سرخ رنگ کا لباس مکروہ ہے۔ ہاں! اگر دوسرا رنگ کی ملاوٹ ہے جیسا نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ کا جوڑا اتحاد تو اس میں کراہت نہیں۔

”اور آپ کے سامنے (سُترہ کے آگے) سے کتنا اور گلدھا گزر رہا تھا لیکن ان کو گزرنے سے روکا نہیں جا رہا تھا۔“ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آدمی اگر سترہ لگا کر نماز ادا کر رہا ہو اور سترہ کے آگے سے گزرنے والے گزریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی وجہ سے نہ تو نماز پر کوئی زد پڑتی ہے اور نہ گزرنے والے گندہ گار قرار دئے جاتے ہیں۔ سترہ لگانے کا مقصد ہی یہ ہے۔

یہاں تو اس روایت کو لانے سے علامہ نووی رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد بھی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ کے لباس کے رنگ کو بتلانا ہے کہ آپ نے سرخ رنگ کی دھاری والا لباس زیب تن فرمایا ہے۔

حضورا کرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہُ وَسَلَّمَ کا سبز جوڑا پہننا

۸۳:- وَعَنْ أَبِي رَمْثَةَ رَفَاعَةَ الْتَّمَّيِّيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وعلیہ ثوابِ انْحُضُرَانَ۔ (رواہ أبو داود والترمذی بیان صدیق)

ترجمہ:- حضرت ابو منیر رفاقِ عالم تبی نبی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ نے سبز رنگ کا کوایسی حالت میں دیکھا کہ آپ کے جسم پر سبز رنگ کے دو کپڑے تھے۔

افادات:- اس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سبز رنگ کا لباس بھی زیب تن فرمایا ہے۔ اور پہلے بتلا چکا ہوں کہ سفید کے علاوہ دوسرے رنگ کا لباس۔ بشرطیکہ وہ رنگ عورتوں کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ بھی پہن سکتے ہیں۔

حضرور اکرم ﷺ کے عمامہ کارنگ

۸۷:- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ

وَعَلَيْهِ عَمَّامَةُ سَوْدَاءً۔ (رواہ مسلم)

۸۵:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ عُمَرُ وَبْنَ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْ

رسول اللہ ﷺ وعلیہ عمامۃ سواداً، قَدْ أَرَخَنِي طَرِيقَهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ۔ (رواہ مسلم)

وفی روایةٍ لَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ، وَعَلَيْهِ عَمَّامَةُ

سواداً۔

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ فتح مکہ کے دن مکہ

مکرمہ میں ایسی حالت میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔

دوسری روایت حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائے ہیں جس میں یہ ہے کہ وہ منظر اس

وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، گویا میں اس وقت حضرور اکرم ﷺ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ

کے سر مبارک پر سیاہ رنگ کا عمامہ ہے اور اس کے دونوں کناروں کو نبی کریم ﷺ نے اپنے

کندھوں کے درمیان ڈال رکھا ہے۔

افادات: - عمامہ جب باندھا جاتا ہے تو ایک کونہ شملہ والا ہوتا ہے اور دوسرا اوپر سے نکالا جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے آپ ﷺ کے عمامہ کے رنگ کا سیاہ ہونا معلوم ہوا۔ ویسے آپ ﷺ سے سفید، سیاہ اور سبز رنگ کا عمامہ ثابت ہے۔

حضرور اکرم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا کفن اور اس کا رنگ

۸۶: - وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: كُفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أُتُّوَابِ بِيَضِّ سَحْوَلِيَّةٍ مِّنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ) ((السَّحْوَلِيَّة)) بفتح السين وضمها وضم الحاء المهملتين: ثيَابٌ تُنْسَبُ إِلَى سَحْوَلٍ: قَرْيَةٌ بِالْيَمِينِ ((وَالكُرْسُف)) : القُطْلُونَ۔

ترجمہ: - حضرت عائشہ زین العابدین فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو تین سفید کپڑوں میں کفن دیا گیا جو مقام سحول کے سوتی کپڑے تھے، جن میں نہ قمیص تھا اور نہ عمامہ تھا۔

افادات: - ”سحول“ کی وضاحت علامہ نووی رضی اللہ عنہ نے خود فرمائی ہے کہ یمن میں ایک آبادی کا نام ہے جہاں کاسوتی کپڑے اس زمانہ میں لوگوں میں مشہور تھا اور لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اور سفید کپڑوں ہی میں کفن دینا سنت ہے، اس روایت سے آپ ﷺ کے کفن کا سفید ہونا بتلانا مقصود ہے۔

حضرور اکرم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا (Printed) منقش چادر استعمال کرنا

۸۷: - وَعَنْهَا، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ مِرْطُ مَرَّحَلٌ مِّنْ شَعِيرٍ أَسْوَدٍ۔ (رواۃ مسلم). ((المِرْط)) بکسر الميم: وَهُوَ كَسَاءٌ وَ((المرّحل)) بالحاء المهملة: هُوَ الَّذِي فِيهِ صُورَةُ رَحَالِ الْإِبْلِ، وَهِيَ الْأَكْوَارُ۔

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ ایک روز صبح کے وقت باہر تشریف لائے ایسی حالت میں کہ آپ کے جسم مبارک کے اوپر کالے بالوں سے بنی ہوئی ایسی چادر تھی جس کے اوپر اونٹ کے کجاوے کے نقش بنے ہوئے تھے۔

افنادات:- معلوم ہوا کہ کپڑوں کے اوپر کسی غیر ذی روح یعنی غیر جاندار کی تصویر بنی ہوئی ہو، جیسے چاند، تارے وغیرہ؛ تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

حضورا کرم ﷺ کا اونی لباس

۸۸: - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله تعالى عنه قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي: ((أَمَعَكَ مَا جُنُاحُ؟)) قَلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَّلَ عَنِّي رَاحِلَتِهِ فَمَسَّنِي حَتَّى تَوَارَى فِي سَوَادِ اللَّيلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْإِذَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ. فَلَمْ يُسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذَرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَ جَهْنَمَ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذَرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لَأَنْزَعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: ((دَعْهُمَا فِي أَذْخَلْنَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ)) وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. (متفق عَلَيْهِ).

وفي رواية: وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيْقَةُ الْكَيْنِينِ.

وفي رواية: أَنَّ هَذِهِ الْقَضِيَّةَ كَانَتْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.

ترجمہ:- حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ایک سفر میں رات کے وقت میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھا (علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے دوسری روایت کا حوالہ دیا کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا ہے) نبی کریم ﷺ نے مجھ سے پوچھا: کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! چنانچہ نبی کریم ﷺ اپنی سواری سے اترے اور چل کر اتنی دور پہنچ کر رات کی اندر ہیری میں نگاہوں سے اوچھل ہو گئے (اس سے معلوم ہوا کہ آدمی قضاۓ

حاجت کے لئے ایسی جگہ جائے کہ لوگوں کی نظروں میں نہ آئے) جب واپس تشریف لائے تو میں نے (آپ کو وضو کرنے کے لئے) برلن میں سے پانی ڈالنا شروع کیا، آپ نے اپنا چہرہ مبارک دھویا (اور ہاتھ دھونے کا وقت آیا تو چوں کہ) آپ ﷺ اون کا جب پہنے ہوئے تھے (جس کی آستین تنگ ہونے کی وجہ سے اوپر چڑھنے سکیں اور) آپ ﷺ اپنی دونوں کلائیں کھول نہ سکتے تو آپ ﷺ نے دونوں ہاتھا پنے جبکے نیچے سے نکال کر دھوئے، پھر سر کا مسح فرمایا (جب پاؤں دھونے کا وقت آیا تو) میں نے ہاتھ بڑھائے تاکہ آپ ﷺ کے پیر سے چھڑے کے موزے نکالوں (اور آپ ﷺ پیر دھو سکیں) تو حضور ﷺ نے فرمایا: ان کو چھوڑ دو (موزے نہ نکالو) اس لئے کہ میں نے یہ دونوں پاؤں پاک ہونے کی حالت میں موزوں کے اندر ڈالے تھے (اس سے معلوم ہوا کہ موزے باوضو ہونے کی حالت میں پہنے ہوں تب ہی ان پر مسح کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں) اور پھر آپ ﷺ نے ان موزوں پر ہی مسح فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ تنگ آستین والا شامی جبزیب تر فرمائے ہوئے تھے۔

افادات:- اس روایت کو لا کر دو چیزیں بتانا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ ﷺ کا جبہ اون کا بنا ہوا تھا۔ باب کے عنوان میں تھا کہ لباس سوتی ہو، یا اونی، یا بالوں کا بنا ہوا؛ سب پہن سکتے ہیں۔ تو یہ جب اون کا بنا ہوا تھا۔ اور دوسرا بات یہ کہ سفر کی ضرورت کی وجہ سے آپ ﷺ نے تنگ آستین والا جبہ زیب تر فرمایا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر کی ضرورتوں کے پیش نظر اپنی سہولت کے لیے اس کے مناسب رنگ یا بناؤٹ کا کوئی لباس آدمی پہنے؛ تو اس کی اجازت ہے۔

چھڑے کے موزوں پر مسح کا مسئلہ

اگر کوئی آدمی چھڑے کے موزے پہنے ہوئے ہو اور موزوں پر مسح کرنے

کے لئے جو شرطیں ضروری ہیں ان کی رعایت کی گئی ہو، یعنی وہ موزے اُس نوع کے ہوں، اور پورا وضو کرنے کے پہنچے ہوں اور اس کے بعد وضو ٹھاہو، تو جب دوبارہ وضو کرنے لگے، اس وقت پاؤں دھونے کے بجائے چھڑے کے موزوں پر صرف مسح کر لینا کافی ہے۔

خلاصہ باب

پورے باب میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ دو چیزیں بتانا چاہتے تھے۔ ایک تو لباس کا رنگ کیسا ہو؟ تو بتلا یا کہ ہر رنگ کا لباس آدمی استعمال کر سکتا ہے، ہاں! سفید لباس مستحب اور پسندیدہ ہے، اور اس سلسلہ میں شروع میں روایتیں بھی پیش کیں۔ دوسرایہ کہ ریشم کو چھوڑ کر باقی ہر لباس؛ چاہے سوتی ہو، اوپنی ہو، ٹاط کا بنا ہوا ہو بال کا بنا ہوا ہو، یا آج کل کے مصنوعی لباس ہوں؛ سب ہی استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

بَابِ إِسْتِحْبَابِ الْقَيْصِ
کُرتے کا استعمال پسندیدہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جسم ڈھانپنے کی دو شکلیں

جسم کو ڈھانپنے کی دو شکلیں ہیں اور اس زمانہ میں دونوں طریقے رائج تھے، بعض لوگ کھلا جوڑا پہنتے تھے یعنی جسم کا نچلا حصہ چھپانے کے لئے ایک چادر لگنگی کے طور پر استعمال کی جاتی تھی جو سلی ہوئی نہیں ہوتی تھی، جیسی احرام کی چادر ہوتی ہے۔ اور اپر والا حصہ ڈھانپنے کے لئے بھی ایسی ہی ایک چادر الگ سے ہوتی تھی جس سے جسم کا اوپر والا حصہ ڈھانپا جاتا تھا۔ اور واں حصے کو ڈھانپنے کے لئے جو کپڑا استعمال کیا جاتا تھا؛ اس کو عربی میں ”رداء“ کہتے ہیں، اور نچلا حصہ ڈھانپنے کے لئے جو کپڑا استعمال کیا جاتا تھا؛ اس کو ”ازار“ کہتے ہیں۔ ان دونوں کی بناؤٹ اور ساخت میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا استعمال کے فرق کی وجہ سے نام میں فرق ہو گیا ہے۔ تو لباس کے استعمال کا ایک طریقہ کھلے ہوئے لباس کا تھا، جیسے: احرام میں ہوا کرتا ہے، اور حضور اکرم ﷺ بھی اس طرح کالباس استعمال فرماتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی تھا کہ اوپر والا حصہ ڈھانپنے کے لئے سلا ہوا لباس استعمال کرتے تھے، جیسے: کرتا۔ اور نچلا حصہ ڈھانپنے کے لئے بھی سلا ہوا لباس استعمال کرتے تھے؛ جس کو ہم ”پاجامہ“ کہتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے جسم اطہر کے اوپر واں حصے کو ڈھانپنے کے لئے تو سلا ہوا لباس یعنی کرتہ استعمال کیا ہے، جس کو عربی میں ”قمیص“ کہتے ہیں، اور یہ روایتوں سے ثابت ہے۔

قمیص سے کیا مراد ہے؟

اردو یا گجراتی زبان میں لفظ ”قمیص“ بولتے ہیں اس سے مراد ایک مخصوص طرز کا بنا ہوا لباس ہوتا ہے جو آدھی کرتک سلا ہوا ہوتا ہے (جس کو شرٹ کہا جاتا ہے) عربی

کے لفظ ”قیص“ سے وہ مراد نہیں ہے، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اصطلاحات اور زبان کے بد لئے کی وجہ سے الفاظ کے معانی میں فرق پڑ جاتا ہے ایک لفظ ”قیص“ عربی میں بولا جاتا ہے، اس سے ایک مخصوص لباس مراد ہوتا ہے جو آدمی پنڈلیوں تک ہوتا ہے، اور پورے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، جیسے: عربی کرتہ ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ ”قیص“ ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں، وہ ایک مخصوص طرز کا لباس ہے جو ہمارے یہاں بنتا اور استعمال ہوتا ہے (جس کو شرط کہا جاتا ہے)۔

جیسے: لفظ ”جیب“ ہے۔ عربی زبان میں بھی لفظ ”جیب“ بولا جاتا ہے، جس کا معنی گریبان ہوتا ہے، یعنی سلے ہوئے لباس میں سرڈا لئے کرنے سینے کے پاس جو کھلا ہوا اور کٹا ہوا حصہ رکھا جاتا ہے، اس کو عربی میں ”جیب“ کہتے ہیں، اور ہماری اردو میں جیب (کیس) ”جیب“ کو کہتے ہیں۔ یا جیسے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ ”خُف“ موزہ ہے۔ اس زمانہ میں جب ”خُف“ بولا جاتا تھا تو اس وقت نائلون کے موزے تو تھے بھی نہیں، اور نہ اس کا تصور تھا تو ”خُف“ بول کر چڑڑے کا بنا ہوا موزہ مراد لیا جاتا تھا۔ اور اب ”خُف“ بول کر ”بُرُاب“ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ”قیص“ سے کرتہ مراد ہے، اور اس کا مستحب ہونا بتلاتے ہیں۔

کرتہ زیادہ پسندیدہ ہے

در اصل بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جسم کا اوپر والا حصہ ڈھانپنے کے لئے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کھلی ہوئی چادر استعمال کرتے ہوئے اوپر والے حصے کو ڈھانپ لیں اور نبی کریم ﷺ سے یہ ثابت ہے۔ دوسری شکل یہ ہے اس مقصد کے لئے مخصوص طرز سے بنا ہوا کپڑا استعمال کریں؛ جس کو کرتہ کہا جاتا ہے۔ اس باب میں یہ بتلانا

چاہتے ہیں کہ کھلی ہوئی چادر کے مقابلہ میں کرتہ استعمال کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آدمی آزاد رہتا ہے، یعنی اوپر والے حصہ کو چھپانے کے لئے اگر چادر جسم پر ڈالیں گے تو اس کو سنبھالنے کی آپ کو فکر کرتے رہنا پڑے گی، جبکہ سلا ہوا کپڑا ایک مرتبہ پہننے کے بعد آپ کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے، یعنی آدمی "Free" اور آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ یہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں چادر کے مقابلہ میں زینت بھی زیادہ ہے، اور ستر کے کھلنے کا بھی اندیشہ نہیں رہتا۔ اس لئے ان وجوہات کے پیش نظر نبی کریم ﷺ کرتہ کو چادر کے مقابلہ میں زیادہ پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ روایت پیش کرتے ہیں۔

کیا آپ ﷺ سے پائجامہ پہننا ثابت ہے؟

۸۹- عن أُمِّ سَلَمَةَ بْنِي شَبَابَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ الْشَّيْءِ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْقَيْصِ. (رواہ أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت اُم سلمہ بنت شباب فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو کپڑوں میں زیادہ پسندیدہ کرتے تھا (انہی وجوہات کی بناء پر جواب پر بتالا گئیں)۔

افادات:- اب رہا پائجامہ کا مسئلہ! تو روایتوں سے اتنی بات تو ثابت

ہے کہ نبی کریم ﷺ بازار تشریف لے گئے، پائجامہ پسند فرمایا اور خریدا، لیکن نبی کریم ﷺ نے پہنا بھی ہے یا نہیں؟ تو یہ چیز اہل سیر (سوائخ نگاران) کے درمیان مختلف فیہ ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ خریدا اسی لئے تھا کہ پہننی تو پہنا بھی ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہننے کی الگ سے کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ بہر حال! یہ دونوں باتیں کہی گئی ہیں، لیکن پسند فرمانا محقق ہے۔

بَاب صفة طُول الْقَمِيص وَالْكُمْ
وَالْإِزار وَظَرْفِ الْعِنَامَةِ
وَتَحْرِيمِ اسْبَالِ شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ عَلَى
سَبِيلِ الْخُيَلَاءِ،
وَكَراهَتِهِ مِنْ غَيْرِ خُيَلَاءٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لباس کی لمبائی کتنی ہو؟

اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ:-

۱:- کرتہ، آستین، لگکی اور ازار کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے؟

۲:- عمامہ کا کنارہ کہاں تک لٹکا سکتے ہیں؟ کیا اتنا لمبا بھی رکھ سکتے ہیں کہ پیچھے سے زمین پر گھستا رہے؟ جس کو ”شملہ بقدر علم“، کہا جاتا ہے۔ پہلے کسی زمانہ میں یہ بھی ایک فیشن چلا تھا کہ شملہ اتنا مبارکت ہتھے تھے کہ وہ زمین پر گھستتا تھا، حالاں کہ یہ مکروہ ہے۔

۳:- اور ان میں سے کسی بھی چیز کو بطور تکبر اتنا لٹکانا کہ ٹخنوں سے نیچے یا ٹخنوں تک پہنچ جائے تو یہ حرام ہے۔

۴:- اور اگر بغیر تکبر کے ہو تو مکروہ ہے۔

لباس کے اصول میں ایک اصول یہ ہے کہ ایسا لباس جو ٹخنوں کو ڈھانپنے والا یا ٹخنوں سے نیچے جانے والا ہو؛ اس کا استعمال مردوں کے لئے جائز نہیں ہے، عورتوں کو تو ستر ڈھانپنے کی وجہ سے پہننا ہی ہے۔

ٹخن ڈھپ جانے والا مسئلہ صرف پائچا مہ اور لگکی سے متعلق نہیں ہے، اس باب کے عنوان میں علامہ نووی رضی خان نے بتا دیا کہ اس لمبائی میں سب چیزیں آجاتی ہیں صرف پائچا مہ لگکی اور پتلوں ہی نہیں، کرتہ بھی اگر اتنا لمبا ہے جس سے آپ کے ٹخن ڈھپ جاتے ہیں، اور ٹخنوں سے نیچے تک چلا جاتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام والے حکم میں داخل ہے۔

عربی کرتہ کے شوقین متوجہ ہوں

ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ شوق میں عربی کرتہ استعمال کرتے ہیں جو اتنا مبارہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈھ پ جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا کہ ٹھنڈھ پنے والا حکم صرف پائچا مامہ، لئے اور پتوں کے بارے میں ہے؛ یہ خیال درست نہیں ہے۔ کرتہ بھی اگر اتنا مبارہ ہو جس سے ٹھنڈھ پ جائیں؛ تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے عرب میں ایسا دیکھا ہو تو یہ غلط رواج ہے، وہ لوگ اس کو فیشن کے طور پر لمبارکہ رہا تھے میں لے کر چلتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں بتلاچکا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں اتنی لمبی حپادر رکھتے تھے کہ چلتے وقت گھستی تھی، اور زمین پر اس کے نشان پڑتے تھے۔ دیوان حماسہ میں قیس کے شعر کا ایک مرصع ہے:-

إِذَا مَا أَصْطَبَحْتُ أَزْبَعًا حَطَّ مِئُرِّي

میں نے آج صح کے وقت چار گلاس شراب کے چڑھائے اور پھر اس شان سے باہر نکلا کہ میرے پائچا مامہ کے زمین کے اوپر نشان پڑ رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو فخر کی چیز سمجھتے تھے۔ آج کل بعض عرب بھی ایسا کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عمامہ کا شملہ بھی کسی نے اتنا مبارکہ ہوا کہ وہ ٹھنڈوں تک پہنچ جائے تو یہ بھی ممنوع ہے۔

اگر ٹھنڈھ انکنا تکبر سے نہ ہو تو؟

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ کہی ہے: ”تحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء و كراحته من غير خيلاء“، ٹھنڈوں کو ڈھانپنے کے سلسلہ میں جو روایتیں آرہی ہیں ان میں سے بہت ساری روایتیں وہ ہیں جن میں یہ لفظ آتا ہے کہ جو

آدمی اپنی لشگی یا پائچمامہ کو ڈھیلا چھوڑ دے، جس کی وجہ سے ”بطورِ تکبر“، ٹخنے ڈھپ جائیں تو اس کے لئے یہ عید ہے کہ اس کا وہ حصہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اس قید کی وجہ سے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر تکبر کے طور پر کوئی بھی لباس ایسا رکھتا ہے جو ٹخنے کے نیچے تک چلا جائے جس کی وجہ ٹخنے ڈھپ جائیں؛ تو یہ حرام ہے۔ اور تکبر کی وجہ سے نہ ہو تو مکروہ تزییہ ہے۔ لیکن محققین اس طرف گئے ہیں کہ چاہے تکبر ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں مکروہ تحریر کی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی (رحمۃ اللہ علیہ) کی حقیقت یہی ہے، اور ہمارے اکابر بھی اسی کے قاتل ہیں۔ حضرت شاہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں محدثین لباس کے باب میں لاتے ہیں۔

اور تکبر خود اپنی جگہ پر بہت بڑا گناہ اور حرام ہے، چاہے پائچمامہ ڈھیلا اور نیچا رکھے یا نہ رکھے۔ اگر کوئی آدمی پائچمامہ اونچا رکھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو بھی گناہ ہے۔ معلوم ہوا کہ پائچمامہ کا نیچا رکھنا مستقل ایک گناہ ہے اس لئے محققین کہتے ہیں کہ پائچمامہ نیچا رکھنا دونوں صورتوں میں حرام ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ تکبر کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اس کی شدت اور حرمت کا پاؤ بڑھ جائے گا، اور اگر تکبر نہیں ہے تو اس کی شدت کم ہوگی۔ ہاں! اگر بلا ارادہ، بے خبری میں آدمی کا پائچمامہ ڈھیلا ہو کر ٹخنوں تک پہنچ جائے؛ تو اس کو حرام نہیں کہیں گے۔

حضرت مولانا بدر عالم صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے ”فیض الباری“ کے حاشیہ میں، اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم نے ”تکملہ فتح الہم“ میں لکھا ہے کہ: یہاں صاحبِ شریعت نے لباس کو ٹخنوں کے نیچے لے جانے ہی کو تکبر کی علامت قرار دیا ہے، جیسے شریعت نے سفر کے اندر قصر کی اجازت دی ہے، یا رمضان میں سفر

کرنے تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے کہ بعد میں اس کی قضاء کر لے؛ تو وہاں خود سفر ہی کو مشقت کی علامت قرار دے دیا گیا۔ آدمی کا سفر میں انکنا یہ خود ایک مشقت کی چیز ہے، چاہے ایرکنڈ یشنڈ گارٹی (راجدھانی اور شتابدی) میں سفر کرے، یا ہوائی جہاز میں سفر کرے۔ اس لئے کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ راجدھانی میں سفر کریں یا ہوائی جہاز میں، وہ مشقت سے خالی نہیں ہوتا، جو لوگ سفر نہیں کرتے ان کو اس کا اندازہ نہیں۔ تو سفر خود مشقت کی علامت ہے، اسی طرح آدمی کا اپنے لباس کو اس طرح پہنانا کہ ٹੱخنے ڈھپ جائیں، یہی کبر کی علامت سمجھی جائے گی؛ اس لئے یہ منوع ہے۔ ہاں اگر غیر اختیاری طور پر کسی سے ایسا ہو گیا تو اس کو معدور سمجھا جائے گا۔

حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَّهُ وَسَلَّمَ کی آستین کی لمبائی

۶۰:- عن أسماء بنت يزيد الأنصاريَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ كُلُّ قَمِيص

رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَّهُ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسُخِ۔ (رواہ أبو داود الترمذی و قال: ((حدیث حسن))

ترجمہ:- حضرت اسماء بنت یزید انصاریہؓ فرماتی ہیں کہ: مجی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَّهُ وَسَلَّمَ کے کرتے کی آستین گھٹوں تک ہوتی تھی۔

افادات:- کرتے کی آستین گھٹوں تک رکھنی چاہئے، اگر اس سے چھوٹی ہو گی تو مرد کے لئے تو جائز ہے، لیکن عورتیں اس سے چھوٹی نہیں رکھ سکتیں، اس لئے کہ ان کا ستر کھل جائے گا، جیسا کہ پہلے بتلا چکا ہوں۔

نظرِ رحمت سے محروم

۶۱:- وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَرَّ تُوبَةً خَيْلَةً لَمْ

يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ إِذْارِي يَسْتَرِّخُ

إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ لَسْتَ هُنَّ يَفْعَلُهُ خُلَيْلًا.

(رواہ البخاری وروی مسلم بعضہ)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس آدمی نے اپنا لباس تکبر کی وجہ سے ڈھیلار کھا (جس سے ٹخنے ڈھپ گئے) تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ابو بکر صداقؑ نبی ﷺ کے عہد نے عرض کیا: اللہ کے رسول! میری لنگی بہت ڈھیلی رہتی ہے مگر یہ کہ میں اس کا بہت دھیان رکھوں (حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جسم کی ساخت ایسی تھی کہ اگر دھیان نہ رکھا جائے تو لسنگی ڈھیلی ہو کر نیچے اتر جایا کرتی تھی اور اس کی وجہ سے کبھی ٹخنے ڈھپ جاتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی یہ معدود ری بیان کی) تو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم ان لوگوں میں نہیں ہو جو یہ کام تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔

۷۹۲: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ حَزَّ إِذَا رَأَهُ بَطَرًا۔ (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے جس نے تکبر کی وجہ سے اپنی لنگی کو ڈھیلا چھوڑا (یعنی اتنا کہ ٹخنے ڈھپ گئے)۔

افنادات:- انہیں روایتوں کی وجہ سے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے نہ ہو، تو مکروہ و تنزیہ ہی ہے۔ لیکن محققین کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی لنگی بے خبری میں بلا قصد نیچے اتر جاتی تھی، وہ اپنے ارادہ سے اس کو ڈھیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ اور میں بتلاچکا ہوں کہ بے خبری میں اگر ایسا ہو گیا ہو، تو عدم جواز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور وہاں تکبر کی بھی بات نہیں پائی جاسکتی،

تکبر کا سوال تو وہیں پیدا ہوگا جہاں آدمی جان بوجھ کر ٹھنے چھپائے۔

..... وہ جہنم میں ہے

۷۹۳:- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ

الْأَرْضِ فِي النَّارِ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: لئگی، پا جامہ یا لباس کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو؛ وہ جہنم میں ہے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ وہ عضو جہنم میں جائے گا، اور ایسا تو ہو گا نہیں

کہ اتنا عضو کاٹ کر صرف اسی کو جہنم میں بھیجا جائے، بلکہ اس کی وجہ سے صاحب عضو بھی جہنم میں جائے گا اور عذاب بھگتے گا۔

بعضوں نے کہا: مقصود یہ ہے کہ وہ لباس بھی ساتھ جہنم میں بھیجا جائے گا کہ

تمہارا یہ لباس جسے تم تکبر سے ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر استعمال کرتے تھے، اور اس کو اپنے

لئے خوبی کی چیز سمجھتے تھے؛ لو! آج یہی لباس تم کو جہنم میں لے گیا اور خود بھی جہنم میں پہنچا

اس طرح گویا مزید اس کو سوا کرنا مقصود ہوگا۔ جیسے کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اس کی

ہلاکت ہوئی ہو، ساتھ میں اس چیز کو رکھا جاتا ہے، مثلاً کفار جن بتوں کی پوچا کرتے ہیں

قیامت کے روز ان کفار سے کہا جائے گا: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾

حصب جہنم﴾ تم اور اللہ کے سوا جو تمہارے معبد تھے وہ سب جہنم کا ایندھن ہیں۔

یعنی ان بتوں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، حالاں کہ بت تو پتھر یا لکڑی کے ہیں اور

بظاہر ان کا کوئی تصور نہیں ہے لیکن ان کو اس لئے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ ان کفار کو

مزید حسرت ہو کہ؛ جن کی ہم عبادت کرتے تھے وہ خود ہی اپنے آپ کو جہنم میں جانے

سے نہیں بچا سکے، تو ہمیں کیا بچائیں گے؟

ناکام و نامراد لوگ

۷۹۲:- وَعَنْ أَبِي ذِرٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ حُدُودًا كَيْمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مِرَارٍ، قَالَ أَبُو ذِرٍ: خَابُوا وَخَسِيرٌ. وَ! مَنْ هُمْ يَأْرِسُولُ اللَّهَ؟ قَالَ: الْمُسِيْلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفَقُ سُلْعَتَهُ بِالْحَلِيفِ الْكَاذِبِ. (رواہ مسلم)

وَفِي رَوْاْيَةِ لَهُ: الْمُسِيْلُ إِزَارَهُ.

ترجمہ:- حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقول ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اور ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے (یعنی معاف نہیں کریں گے) اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم ﷺ نے یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ لوگ تو بڑے خسارے اور گھاٹے میں ہیں؛ کون ہیں یہ؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: لباس کو ٹخنوں سے نیچر کھنے والا۔ احسان کر کے جتلانے والا۔ اور تیسرا وہ آدمی جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعہ چلانے اور نیچر۔

۷۹۵:- وَعَنْ أَبْنَعْمَرِ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ، وَالْقَمِيصِ، وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يُنْظَرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواہ أبو داود و النساء بسناد صحيح)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی لੱگی، پائچا مہ، کرتہ اور عمامہ کو تکبر سے لٹکائے گا؛ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی

طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔

طعن و تشنیع سے نہ ڈریں

افادات: - غور کرو کہ پہلا گناہ کتنا بڑا ہے! بہت سے لوگ محض فیشن کے نام پر ٹخنوں سے بیچا لباس پہنتے ہیں، ان کو اگر سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب! کیا کریں؟ ہمیں اسی سوسائٹی میں رہنا ہے، اگر اونچا پہنتے ہیں تو لوگ ہمیں شرمندگی میں ڈلتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، عار دلاتے ہیں۔ اے بھائی! اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو طعن و تشنیع تو ہو گی ہی۔ حضرات انبیاء کرام پر بھی طعن و تشنیع کی گئی، اور ان کے جو حقیقی تبعین اور پیر و کارتھے ان پر بھی طعن و تشنیع کی گئی۔ اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو آپ پر بھی طعن و تشنیع کرنے والے کریں گے، آپ کب تک ایسی باتوں کا خیال کرتے رہیں گے؟ اسی سوسائٹی اور تہذیب کے نام سے اگر فیشن کو اختیار کریں گے تو کل قیامت میں جب عذاب ہو گا تو سوسائٹی کے وہ لوگ بچانے کے لیے آنے والے نہیں ہیں؛ اس لیے ایسوں کی باتوں پر دھیان و توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اور لوگوں کا یہ بھی عجیب مزاج بنتا جا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی شریعت پر چلنے کا اہتمام اور شریعت کے احکام کی پابندی کرتا ہے، تو لوگ اس کو کوئی ایسا لقب دیتے ہیں کہ جس سے اس کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، جیسے: کوئی آدمی ملازمت میں نہ رشوت لیتا ہے، نہ غلط کاموں میں حصہ لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ: دیکھو! پاگل معلوم ہوتا ہے، اس بیسویں صدی میں اس طرح تو کہیں زندہ رہا جاتا ہے؟ میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب لوگ اس طرح پاگل کہیں تو اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ تو ہمارے

اس امتحان میں کامیاب ہونے کی علامت ہے؛ نہ کہ برآمنے کی چیز ہے۔

فیشن؛ ذہنیت کو مرعوب کرنے کا طریقہ

اور فیشن کا بھی عجیب جنون ہے کہ دلکش کر حیرت ہوتی ہے، پھٹا ہوا پائچا جامہ ہوتا ہے، اس میں الگ الگ رنگ کے پیوند لگے ہوئے ہیں، اور ڈورے لٹک رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا کہ پاگل ہوں۔ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں ایک طالب علم کو دیکھا کہ ایسا ہی پائچا جامہ پہن کر آیا تھا، تو میں نے اس کو بلا یا اور کہا: بیٹا! یہ کیا پہن رکھا ہے؟ جاؤ! بدل کر آؤ۔ فیشن کے نام پر ان سے جو چاہو کام کروالو؛ وہ خوشی خوشی کر لیں گے۔ اور فیشن کیا ہے؟ فلموں میں کام کرنے والے اور کھیلوں کے اندر آگے رہنے والے اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پیسے دے کر لوگوں کی ذہنیت کو مرعوب کیا جاتا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ دار مختلف طریقوں سے لوگوں کے پیسوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کی ساری شکلیں اختیار کرتے ہیں کہ دیکھو! فلاں نے بھی اپنے لئے اس چیز کو تجویز کیا ہے، پھر لوگ بھی انہیں کے پیچے چل پڑتے ہیں۔

ہر وقت گناہ جاری رہتا ہے

حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا ایک رسالہ ہے ”ڈاڑھی کا واجب“، اس میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت آدمی وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اسی وقت اس میں بتلا ہوتا ہے، جیسے آدمی زنا کرتا ہے تو جب تک زنا کر رہا ہے وہاں تک اس میں بتلا ہے، اب اس زنا کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں رہے گا، لیکن زنا کے ختم ہو جانے کے بعد وہ زنا میں بتلا نہیں ہے۔ اسی طرح شراب پینے والا ہے، جب تک اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس ہے اور شراب منھ میں ڈال رہا ہے، وہاں تک گناہ

میں بتلا ہے، اب اس کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ہے، لیکن پیچنے کے بعد وہ اس گناہ میں بتلانہ نہیں ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جو چوبیں گھنٹے برابر جاری رہتے ہیں، جیسے: ڈاڑھی کا موڈنا۔ اگر ڈاڑھی موڈنی ہے، تو ڈاڑھی کا موڈنا ہوا ہونا؛ یہ مستقل الگ گناہ ہے، اگر وہ سورہ ہے تب بھی گناہ میں ہے، نماز میں ہے تب بھی گناہ میں ہے۔ تو یہ گناہ ایسا ہے جو ہر وقت برابر چل رہا ہے۔ ٹخنوں سے نیچے جو لباس ہوتا ہے اس کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا گناہ بھی ہر وقت چل رہا ہے۔ اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے؛ تب بھی ایک حرام کام میں بتلا ہے۔

لينے کے دینے

”وَالْمَنَّانٌ“ دوسرا آدمی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات نہیں کریں گے اور جس کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور جس کے گناہ معاف کر کے پاک صاف نہیں کریں گے؛ وہ احسان کر کے جتلانے والا ہے۔ آج کل اس کا عام روانج ہو گیا ہے۔ صلہ رحمی کا بیان آیا تھا وہاں بھی بتایا تھا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کچھ سلوک کرتے ہیں اور ان کی طرف سے ذرا سی کوئی بات پیش آئی تو جو احسان کیا ہوگا وہ زبان سے فوراً نکال دیتے ہیں ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمِنِّ وَالْأَذِي﴾ جو آدمی احسان کر کے جتلادیتا ہے اس کا ثواب بھی گیا اور اوپر سے مصیبت سر پڑی۔

تیسرا آدمی

”وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتُهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ“ جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کے ذریعہ چلارہا ہو اور نیچرہا ہو مثلاً؛ یہ سامان تو ایسا عمدہ ہے اور فلاں جگہ کا بننا ہوا ہے، اور ایک آدمی اس کو پانچ سو میں مانگ رہا تھا وغیرہ وغیرہ؛ اس کے لیے بھی اوپر والی

وعید ہے۔ تو یہ تین بڑے خطرناک گناہ ہیں۔

تو حیدر تو یہ ہے.....

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شب براءت میں جن لوگوں کو معاف نہیں کرتے ان میں ٹھنڈوں سے بچ لباس لٹکانے والا بھی ہے (شعب الایمان) اس لئے دیکھنے میں یہ معمولی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن کتنا بڑا گناہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں، اگر ذرا سال بس اوپر پہن لیں گے تو اس سے آپ کے ایسی کیٹ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے اور آپ کی تہذیب پر بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے، اور ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لے جائے گا۔ بس یہی بہت بڑی بات ہے:-

تو حیدر یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفایم رے لئے ہے لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاطر آدمی اپنی ہبیت درست بنالے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اور اصل خوشی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ دنیا میں لوگ خوش بھی ہو جائیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟

اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بتلا یا تھا کہ پائچا مامہ لئکی وغیرہ جس سے ٹھنے ڈھپ جائیں اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ آدھی پنڈلی تک رکھنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔

معاشرت کی اہم نصیحتیں

۶۹۶ - وَعَنْ أَبِي جُرَيْشٍ جَابِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَقَالَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَصُدُّ
النَّاسَ عَنْ رَأْيِهِ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرَ وَاعْنَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ. قُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ - مَرْتَيْنَ - قَالَ: (لَا تَقُلْ: عَلَيْكَ
السَّلَامُ، عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحْيَيَةُ الْمَوْتَىٰ)، قُلْ: السَّلَامُ عَلَيْكَ) قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ
رَسُولُ اللَّهِ، قَالَ: (أَنَا رَسُولُ اللَّهِ الَّذِي إِذَا أَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشْفَهَ عَنْكَ،
وَإِذَا أَصَابَكَ عَامٌ سَنَةٌ، فَدَعَوْتَهُ أَنْبَتَهُ عَلَيْكَ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضٍ قَفْرٍ أَوْ فَلَاءً
فَضَلَّتْ رَاحِلَتَكَ، فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ) قَالَ: قُلْتُ: اعْهُدْدِيلَكَ، قَالَ: (لَا تَسْأَئِنَّ
أَحَدًا) قَالَ: فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرَّاً، وَلَا عَنْدًا، وَلَا بَعِيرًا، وَلَا شَآةً، (وَلَا تَحْقِرَنَّ
مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبِسْطٌ إِلَيْهِ وَجْهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ
مِنَ الْمَعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزارَكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبِيَتْ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ،
وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمِخْيَلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمِخْيَلَةَ، وَإِنْ أَمْرُوا
شَتَّىكَ وَعَيْرَكَ، مَا يَعْلَمُ فِيكُمْ فَلَا تُعَيِّنُوكُمْ مَا تَعْلَمُ فِيهِ، فَإِنَّمَا وَبَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ).

(رواہ أبو داود والترمذی بیسناد صحیح، وقال الترمذی: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ: - حضرت جابر بن سلیمان ثنا شعال عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ ان کی باتوں کو قبول کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں لوگ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں، وہ جو کہہ

دیتے ہیں لوگ اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا: یہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں۔ میں نے ملاقات کی اور دو مرتبہ کہا: ”علیک السلام یا رسول اللہ“، حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”علیک السلام“، مت کہو، یہ مردوں کا سلام ہے (اس زمانہ میں شعراء اپنے اشعار اور قصیدوں میں جب مردوں کے لیے سلام کا صیغہ استعمال کرتے تھے تو اسی طرح کہا کرتے تھے کہ ”علیک“، کو مقدم کرتے تھے، اس لیے حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ) ”السلام علیک“ کہو۔ خیر! اس کے بعد انہوں نے کہا: کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ میں کریم ﷺ نے فرمایا: میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کوئی تکلیف پہنچے اور تم اس کو پکار تو اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دے۔ اگر تم کو قحط سالی پیش آئے اور تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو وہ تمہارے لیے کھیتی اور غلہ اگائے۔ اور جب تم کسی صحراء اور (۱) ۲۴ میں ہو، اور تمہاری سواری کا جانور گم ہو جائے اور تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے۔ میں نے میں کریم ﷺ سے کہا: آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو میں کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی کو گالی مت دینا، برآ جہلامت کہنا، کسی کو برے الفاظ سے مخاطب مت کرنا۔ فرماتے ہیں کہ میں کریم ﷺ کے اس نصیحت فرمانے کے بعد میں نے کبھی کسی کو برآ جہلانہیں کہا، نہ کسی آزاد کو، نہ کسی غلام کو، نہ اونٹ کو، نہ بکری کو۔ (پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا) ۲۵ نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا، ۲۶ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ایسی حالت میں بات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، مسکراتے اور بنتے چہرہ سے بات کرنا؛ یہ بھی نیکی کا کام ہے (اس سے سامنے والے کا بھی خوش ہو جاتا ہے اور ہمارا کچھ خرچ نہیں ہوتا) ۲۷ اپنی لنگی کو آدمی پنڈلی تک رکھنا نہیں چاہتے تو ٹخنوں سے اوپر اوپر تک رکھ سکتے ہو۔ اور لنگی یا پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لیجانے سے بچو، اس لیے کہ یہ تکبر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے۔ ۲۸ اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے، یا عار دلائے کسی ایسی بات پر جو تمہارے اندر موجود ہے، تو اب آپ کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو اس میں ہے؛ اُسے شرم ملت

دلاو، اس لیے کہ اس نے جو حرکت کی ہے اس کا گناہ اور و بال اُس پر ہے۔
تو گفتار؛ وہ کردار

افنادات:— یہ حضرات صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفت تھی کہ اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تو آپ ہمیں کوئی نصیحت فرمائیے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم از خود کسی بات پر ان کو تنبیہ فرماتے تو بس! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ارشاد فرمادیا ان کی زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ یہاں دیکھو! انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا: کسی کو گالی مت دینا تو اس کو انہوں نے ایسا پلے باندھ لیا کہ انسان تو انسان؛ جانور تک کوئی بھی گالی نہیں دی۔ بقول اقبال:

تجھے آباء سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی	کہ تو گفتار؛ وہ کردار، تو ثابت؛ وہ سیڑا را
--	--

نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا

”نیکی کے کسی بھی کام کو معمولی مت سمجھنا۔“ عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اور اس کو عملی جامہ نہیں پہننا تا۔ گویا اس کام کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ نیکی کا کام تو کرنا ہی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، یا بڑا؛ اس لیے کہ پتہ نہیں کونسی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقولہ ہے: نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ و مت، اور گناہ کے کام کو چھوٹا سمجھ کر کرو و مت؛ پتہ نہیں کونسی نیکی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے اور پتہ نہیں کونسا گناہ ہلاکت کا سبب بن جائے۔

پاعجمہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، ہی تکبر کی علامت ہے
 یہاں تو یہ روایت اسی مقصد کے لیے لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی

کو جو نصیحتیں فرمائیں ان میں یہ بھی تاکید فرمائی کہ لئنگی آدمی پنڈلی تک رکھو۔ اور اگر آدمی پنڈلی تک رکھنا نہیں چاہتے تو ٹخنوں سے اوپر اور پر تک رکھ سکتے ہو، ٹخنے والے ہکنے نہیں چاہتے لیکن لپسندیدہ بات یہ ہے کہ آدمی پنڈلی تک ہو، نبی کریم ﷺ کا طریقہ یہی تھا۔

”اور لئنگی یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تک لے جانے سے پھو، اس لیے کہ یہ تکبر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتے“ دیکھو! اس روایت میں پاجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لے جانے ہی کوتکبر کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ اور گزشتہ درس میں میں نے بتلا یا تھا کہ علماء محققین کارجوان اسی طرف ہے کہ: کوئی آدمی لئنگی، پاجامہ وغیرہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہے، تو یہ ہر حال میں مکروہ تحریکی ہے، چاہے تکبر سے ہو یا تکبر کے بغیر ہو؛ اس لیے کہ ٹخنوں سے نیچے پہننے ہی کو علامت کبر قرار دیا گیا ہے۔

تم ایسا مت کرو

نبی کریم ﷺ نے ایک اور نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی آدمی تمہیں گالی دے، یا کسی ایسی بات پر عار دلانے جو تمہارے اندر موجود ہے یعنی تمہارا کوئی عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے تمہیں شرم دلائی، تو اب آپ اس کے کسی ایسے عیب کی وجہ سے جو جانتے ہیں کہ اُس میں ہے؛ اُس کو شرم مت دلائیے۔ ہماری عادت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہماری کسی کمزوری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ہمیں شرمندہ کرنا چاہے تو ہم فوراً اس کی کسی بات کو ظاہر کر کے کہتے ہیں کہ تو بھی تو ایسا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے نصیحت فرمائی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ایسا کرے تو اگر تم اس کے کسی عیب سے واقف ہو، تو اس کو عار مت دلاؤ؛ اس لیے کہ اس نے یہ جو حرکت کی ہے اس کا گناہ اس پر ہے۔

ٹخنوں سے بچ کپڑا لٹکانے والے کی نماز

اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے

۶۷:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلٌ إِذَا رَأَهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ: ((اَذْهَبْ فَتَوَضَّأْ)) فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: ((اَذْهَبْ فَتَوَضَّأْ)) فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَالِكَ أَمْرَتْهُ أَنْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ سَكَّتَ عَنْهُ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِذَا رَأَهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبُلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ۔ (رواہ أبو داود بیان داد صحیح علی شرط مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک آدمی ایسی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی لگنگی، یا پانچ ماہم ٹخنوں سے بچ لکھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا: جاؤ! وضو کر کے آؤ۔ وہ گیا، وضو کر کے آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا: جاؤ! وضو کر کے آؤ۔ اس پر ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا بات ہے کہ آپ نے اس کو وضو لوٹانے کی تاکید فرمائی، پھر خاموش ہو گئے؟ (یعنی وضو لوٹانے کے بعد نماز لوتانے کا حکم نہیں دیا) تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ آدمی ٹخنوں سے بچ لگنگی رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا اور ایسے آدمی کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔

افادات:- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو لوٹانے کی تاکید اس لیے فرمائی تھی تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔

کوئی ایسی بات کہتے جائیے!

۶۸:- وَعَنْ قَيْسِ بْنِ بَشْرِ التَّغْلِيْبِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي - وَكَانَ جَلِيسًا

لَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كَانَ بِدمَشْقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَالُ لَهُ سَهْلُ
بْنُ الْخَنْضُلِيَّةِ وَكَانَ رَجُلًا مُتَوَحِّدًا قَلَمَابِيًّا يُجَاهِ الْمُسْكَنَاتِ إِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ فَإِذَا
فَرَغَ فَإِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ وَتَكْبِيرٌ حَتَّى يَأْتِي أَهْلَهُ.

فَمَرَّ بِهَا وَتَخَنَّعَ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا
وَلَا تَضُرُّكَ قَالَ: بَعْثَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِيمَتُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَجَلَسَ
فِي الْمَجْلِسِ الَّذِي يَجْلِسُ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ إِلَى جَنِينِهِ: لَوْ
رَأَيْتَنَا حِينَ التَّقِيَّةِ نَحْنُ وَالْعَدُوُّ فَحَمَلَ فُلَانٌ وَطَعَنَ فَقَالَ: خُذْهَا مِنِّي، وَأَنَا
الْغَلَامُ الْغَفَارِيُّ كَيْفَ تَرَى فِي قَوْلِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلَّا قَدْ بَطَلَ أَجْرُهُ فَسَمِيعَ
بِذِلِكَ آخَرُ فَقَالَ: مَا أَرَى بِذِلِكَ بَأْسًا فَتَنَازَعَ عَلَى حَتَّى سَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ؛ لَا يَسْأَلُ أَنْ يُؤْجَرُ وَيُحْمَدُ)) فَرَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءَ سُرَّ بِذِلِكَ
وَجَعَلَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَيَقُولُ: أَنْتَ سَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
فَيَقُولُ: نَعَمْ فَمَا زَالْ يُعِيدُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا قُولَ لَيْبِرَكَنَ عَلَى رُجْبِتَيْهِ.

قَالَ: فَمَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ
قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَقْبُضُهَا
ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ الرَّجُلُ خَرِيمُ الْأَسْدِيُّ لَوْلَا طُولُ جُمَيْهِ
وَإِسْبَالُ إِزَارِهِ! فَبَلَغَ ذَلِكَ خُرِيمًا فَعَجَلَ فَأَخْدَشَ شَفَرَةً فَقَطَعَ بِهَا جَمَيْهَ إِلَى أُذْنَيْهِ
وَرَفَعَ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ.

ثُمَّ مَرَّ بِنَا يَوْمًا آخَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةً تَنْفَعُنَا وَلَا تَضُرُّكَ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّكُمْ قَادُمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ فَاصْلِحُوا

رِحَالُكُمْ، وَأَصْلِحُوا الْبَاسِكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَانَكُمْ شَامِمَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفْحَشَ.

(رواہ أبو داؤد بر اسناد حسن، إلأقیس بن بشر فاختلفوا في توثيقه و تضعيفه . وقد روی لَهُ مسلم)

ترجمہ مع تشریح: - حضرت قیس بن بشیر غلبی کہتے ہیں کہ ان کے والد

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں نبی کریم ﷺ کے ایک صحابی حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے جو تہائی پسند آدمی تھے، ان کو لوگوں سے ملنا جنماز یادہ پسند نہیں تھا (نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے تھے) جب نماز سے فارغ ہو جاتے تو سپسح و تکبیر میں مشغول ہو جاتے، یہاں تک کہ فارغ ہو کر گھر چلے جاتے۔ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے نہیں تھے۔

ایک روز ہم حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: کوئی ایسی بات کہتے جائیں جس میں ہمارا فائدہ ہو، اور آپ کا نقصان نہ ہو (جب حضرت ابوالدرداء جیسے صحابی نے یہ درخواست کی) تو فوراً انہوں نے فرمایا: ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لشکر کی ایک لکڑی بھیجی، جب وہ لوگ اپنی اس مہم کو سر کر کے والپس آئے تو اس لشکر کا ایک آدمی اس مجلس میں آ کر بیٹھا جس میں نبی کریم ﷺ بھی تشریف فرماتھے، اور اپنے پاس بیٹھنے والے ایک آدمی سے اس نے کہا: جب ہمارا مقابلہ دشمن کے ساتھ ہوا اس وقت اگر تم ہمیں دیکھتے تو ہمارے لشکر کی لکڑی میں سے فلاں آدمی نے دشمن پر حملہ کرتے ہوئے اور نیزہ چلاتے ہوئے یوں کہا کہ لو! میری طرف سے یہ وار قبول کرو، میں قبیلہ غفارکا بہادر نوجوان ہوں۔

(مطلوب یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ کے وقت اپنی بہادری کے اظہار کے لیے اس نے یہ جملہ کہا۔ ویسے تو کوئی ایسی بات اپنی زبان سے کہنا جس میں اپنی بڑائی ظاہر

ہوتی ہو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن بعض موقع میں کسی مصلحت کے پیش نظر اگر ضرورت ہو تو اس کی گنجائش دی گئی ہے، مثلاً دشمن کے مقابلہ میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے اور ان کے اوپر اپنارعب ڈالنے کے لیے ایسا کہنا کہ: آجاو! میرے مقابلہ میں، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ تو ایسا کہنے کی اجازت ہے۔

جنگِ اُحد کے موقع پر نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ تواریخ کا حق ادا کرنے کی شرط پر میرے پاس سے کون لے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو جانہ سماں بن حوشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگی اور وہاں سے بڑے اتراتے ہوئے اپنی بہادری کا تذکرہ کرتے ہوئے نکلے، جب نبی کریم ﷺ نے ان کو اس طرح اکٹر کر چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: ویسے تو یہ چال اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، مگر لڑائی کے میدان میں دشمن پر اپنارعب ڈالنے کے واسطے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ (بیره المصطفیٰ، سب خانہ مظہری، جلد ۲، ج ۶: ۱۹۳۔ کوالہ المداریہ انہیہ)

اس کا یہ جملہ نقل کرنے کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ: اس کا یہ جملہ تمہارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس کو ایسا کہنا چاہیے تھا؟ یہ اچھی بات ہوئی یا بُری بات ہوئی؟ اس نے کہا: میں تو یوں سمجھتا ہوں کہ اس کا ثواب اور اجر ضائع ہو گیا (یعنی اس نے اپنے کارنامہ کے لیے اپنی بڑائی کے الفاظ استعمال کیے، گویا اس نے یہ کام دکھلاؤے کے واسطے کیا، اس لیے اس کا ثواب ختم ہو گیا۔ اس آدمی نے اپنا تبصرہ اور "Review"، "پیش کیا) ایک اور آدمی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو کہا: میرے نزدیک تو ایسا کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دشمن کے مقابلہ میں ایسا کہنے کی اجازت ہے۔ ان دونوں میں بحث شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازی کریم ﷺ کے گوش مبارک میں پڑی، تو آپ ﷺ نے فرمایا: سجان اللہ؟ (یہ جملہ تحجب کے موقع پر کہا جاتا ہے، یعنی یہ بھی کوئی آپس میں لڑنے جھگڑنے کی چیز ہے؟) اس میں کیا حرج کی بات ہے کہ اپنی بہادری کی تعریف بھی کی جائے اور اس پر اللہ

تعالیٰ کی طرف سے اجر بھی ملے (مطلوب یہ ہے کہ جب دشمن کے مقابلہ میں اس نے یہ جملہ کہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی۔)

(بشر تغلیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت سہل بن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی یہ بات نقل فرمائی تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا کہ یہ سن کروہ بہت خوش ہوئے اور اپنا سرا وچکار کرتے ہوئے کہا: کیا تم نے خود حضور اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنائے؟ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: جی ہاں! حضور اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے میں نے خود سنائے۔ اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار یہ کہتے ہوئے کہ ”جی ہاں! میں نے خود سنائے“، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے قریب آگئے کہ مجھے یہ نیکاں ہوا کہ کہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنوں پر بیٹھ نہ جائیں۔

بشر تغلیٰ کہتے ہیں کہ پھر کسی اور دن حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: کوئی بات کہتے جائیے جس سے ہمارا کچھ فائدہ ہو اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس پر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ہم سے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی اپنے (اس) گھوڑے پر (جس کو جہاد میں شریک ہونے کے لیے پال رکھا ہے) جو کچھ خرچ کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کسی نے صدقہ کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کھول دیئے ہوں اور مسلسل صدقہ کئے جا رہا ہو (اُس کو جیسا ثواب ملتا ہے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے۔)

خُرُّیْمَ اَسْدِی اَچْحَدَ آدَمِی ہیں اگر.....

(بشر تغلیٰ کہتے ہیں کہ) پھر کسی اور دن حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا: کوئی بات کہتے جائیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچ اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اس پر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا:

ایک روز نبی کریم ﷺ نے اپنی مجلس میں فرمایا: حضرت خریم بن فاتک اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے آدمی ہیں اگر ان کے بال زیادہ لمبے نہ ہوتے اور ان کی لگنگی شخصیت سے پنجی نہ ہوتی۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے جملہ حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا اور نبی کریم ﷺ کی منشاء معلوم ہوئی تو فوراً اس پر عمل کر لیا کہ چاقولیا اور اپنے بالوں کو کاٹ دیا یہاں تک کہ کانوں کی لٹو تک کر لیے، اور اپنی لگنگی آدھی پنڈلی تک اوپنجی کر لی۔ (یہاں اس روایت کو اسی بات کو بتلانے کے لیے پیش کیا ہے)۔

اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے

(بشر تعلیٰ کہتے ہیں کہ) پھر کسی اور دن حضرت سہل بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے تو حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان سے کہا: کوئی بات کہتے جائیے جس سے ہمیں فائدہ پہنچا اور آپ کا کوئی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سننا کہ جب تم اپنے بھائیوں کے پاس پہنچنے والے ہو تو اپنے کجا ووں اور سورا یوں کو ٹھیک کرو اور اپنے لباس بھی درست کرو، یہاں تک کہ تمہارا حال ایسا ہو جائے جیسے جسم میں تل کا ہوا کرتا ہے (کسی حسین چہرے پر تل ہو تو اس تل کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہو جاتا ہے) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو پسند نہیں کرتے۔

پاعجمہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے

۹۹:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذْرَأْهُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّمَاءِ، وَلَا حَرْجَ - أَوْ لَا جُنَاحَ - فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجَارِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّذَارَةِ، وَمَنْ حَرَّ إِزَارَهُ بَطَرَ الْمَرْيَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَنْظُرُ.

(رواہ أبو داود یا سنسناد صحیح)

ترجمہ: - حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: مُؤْمِنٌ کی لَنگَی (یا پائچامہ) آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے (یہ پسندیدہ صورت ہے) اور اگر اس سے نیچے ٹخنوں سے اوپر ہو تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جس نے اپنی لَنگَی کو تکبر کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔

عبداللہ! اپنی لَنگَی اوپھی کرو

۸۰۰:- وَعَنْ أَبْنَى عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرِرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ وَفِي إِذْارِي اسْتَرْخَاءٍ, فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ, ازْفَعْ إِذْارَكَ. فَرَفَعْتُهُ ثُمَّ قَالَ: زِدْ. فَزِدْتُ, فَمَّا زِلْتُ أَتَحْزَأْهَا بَعْدُ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ. (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا اور میری لَنگَی نیچی تھی تو میری کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبد اللہ! اپنی لَنگَی اوپھی کرو۔ میں نے ذرا اوپھی کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور اوپھی کرو۔ تو میں نے اور اوپھی کر لی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بر اساس کا خیال رکھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا: لَنگَی کہاں تک ہونی چاہیے؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آدھی پنڈلی تک۔ (یہی مستحب اور پسندیدہ ہے۔)

عورتیں کیا کریں؟

۸۰۱:- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خَيْلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُرْبُولِهِنَّ؟ قَالَ: يُرْخِينَ شِبْرًا. قَالَتْ: إِذَا تُكَشِّفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: فَيَرْخِيَنَّهُ ذَرَاعًا لَا يَزِدُ دُنَ.

(رواہ أبو داود والترمذی۔ وقال: حدیث حسن صحيح)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی اپنا لباس (لگنی، پائچا مامہ، پتلون، کرتہ) تکبر کی وجہ سے شخصوں سے نیچار کھے گا، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! عورتیں کیا کریں؟ (کیا وہ بھی اونچار کھیں؟) تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: عورتیں (آدھی پنڈلی سے) ایک بالشت نیچار کھیں۔ انہوں نے عرض کیا: آدھی پنڈلی سے ایک بالشت نیچار کھنے میں تو پاؤں کھل جائیں گے۔ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تو پھر ایک ہاتھ نیچار کھیں، اس سے زیادہ نہیں۔

افادات:- یعنی اتنا نیچا نہیں کہ زمین کے ساتھ گھستنے لگے کہ اس صورت میں کپڑے ناپاک ہونے کا اندیشه رہتا ہے۔ ہاں! پورا پاؤں ڈھپ جائے؛ یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے۔

إِسْتِحْبَابُ تَرْكِ التَّرْفِعِ
فِي الْلِّبَاسِ تَوَاضِعًا
تَوَاضِعٌ وَانْسَارِيٌّ كَمُبَشِّرٍ نَظَرٌ
أوْ نَجْيٌّ أَوْ عَمَدَه لِبَاسٌ كَجَھوڑِ دِينَا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تواضع اور انکساری کے پیش نظر کسی آدمی کا اوپنے اور عمدہ لباس کو چھوڑ دینا، تاکہ طبیعت کے اندر بڑائی کا مادہ پیدا نہ ہو۔

پہلے بتلا دیا تھا کہ آدمی کو اپنی مالی حیثیت کے مطابق لباس استعمال کرنے کی اجازت ہے، بلکہ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ لباس پہننے کی صورت میں اگر یہ اندیشہ ہو کہ طبیعت کے اندر تکبر اور بڑائی پیدا ہو جائے گی، اس سے بچنے اور اپنی طبیعت میں تواضع و انکساری پیدا کرنے کے لیے اگر معمولی لباس پہنتا ہے تو یہ پسندیدہ ہے۔

قيامت کے روز ايمان کا جوڑا ملے گا

۸۰۲:- وَعَنْ مَعَاذِبِ أَنْسٍ شَيْءًا لَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْلِّبَاسَ تَوَاضَعًا لِلّٰهِ، وَهُوَ يَقْدِيرُ عَلَيْهِ، دَعَاهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى مُجِيزَرَهُ مِنْ أَمْيَّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبِسُهَا۔ (رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آدمی عمدہ لباس پہن سکتا تھا (لیکن) اللہ کے واسطے تواضع و انکساری اختیار کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا (اور معمولی لباس اختیار کیا) تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کیں گے، یہاں تک کہ اس کو اختیار دیں گے کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو سن پسند ہو پہن لو۔

افنادات:- کیوں کہ اس نے اپنی حیثیت اوپنی ہونے کے باوجود محض اللہ کے واسطے تواضع کے پیش نظر معمولی لباس اختیار کیا تھا۔ ایک تو شکل یہ ہے کہ حیثیت ہے اور معمولی لباس بخل کی وجہ سے پہنتا ہے؛ اس کی تواجذت نہیں ہے۔ پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ ایک آدمی کے جسم پر معمولی لباس دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ

تمہارے پاس مال ہے؟ کہا: ہے۔ پوچھا: کون سا ہے؟ کہا: ہر طرح کامال ہے۔ تو فرمایا: پھر تو اس کا اثر تمہارے جسم پر نظر آنا چاہیے۔ وہاں مجیٰ کریم ﷺ نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس آدمی نے عمدہ لباس پہننے کی قدرت ہونے کے باوجود معمولی لباس پر اکتفاء بخُل کی وجہ سے کیا ہے، تو اس پر کیا ثواب ملے گا؟ ہاں! اگر اللہ کے واسطے تواضع و انساری کے پیشِ نظر ایسا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینا ہے، تو پھر اس کے ساتھ انعام والا معاملہ کیا جائے گا۔

إِسْتِحْبَابُ التَّوْسُّطِ فِي الْلِّبَاسِ

وَلَا يُقْتَصِرُ عَلَى مَا يُرِدُ بِهِ
لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَقْصُودٍ شَرِعِيٍّ
لباس کے معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنا

اور

بَغْيَرَ كَسْيِ حاجَتِ اَوْ بَغْيَرَ كَسْيِ شَرِعِيِّ مَقْصِدِ كَ
ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے جو عیب کا ذریعہ ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لباس کے معاملہ میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ بہت اعلیٰ ہو، اور نہ بہت گھٹیا ہو؛ بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق پہنے۔ اور بغیر کسی حاجت اور بغیر کسی شرعی مقصد کے ایسا لباس نہیں پہنانا چاہیے جو عیب کا ذریعہ ہو کہ لوگ اس کی وجہ سے اس پر تقدیم کریں۔

پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو آدمی عمدہ لباس استعمال کرے۔ میں کریم ﷺ لباس کے معاملہ میں کوئی خاص اہتمام نہیں فرماتے تھے، جو میسر آگیا وہ پہن لیا کرتے تھے۔ عمدہ لباس بھی پہنا ہے، ایک مرتبہ ایک جوڑا دو ہزار دینار کی قیمت کا زیب تن فرمایا ہے () دینار سونے کا سکھ ہوتا ہے، گویا آج کل کے حساب سے نوے کیلو سونے کی قیمت ہوتی ہے، اتنا قیمتی لباس پہنانا بھی ثابت ہے۔

نعمت کا اثر بندہ پر دکھنا چاہیے

۸۰۳:- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَدِّهِ نَبْشَّالَعَنْدَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ

الله ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ أُنْ يُرَى أَنْرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ۔ (رواہ الترمذی و قال: حدیث حسن)

ترجمہ:- عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے نقل کرتے ہیں کہ میں کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر اس کے بندے کے اوپر نظر آئے۔

افرادات:- عمدہ لباس تکبر کی وجہ سے نہ پہنے، بلکہ اس نیت سے پہنے کہ اے اللہ! تو نے ایک نعمت دی ہے اس کی قدر دانی کرتے ہوئے میں پہن رہا ہوں۔ اگر عمدہ لباس پہن کر یہ سمجھے گا کہ میں بڑا بن گیا، تو گناہ کی بات ہو جائے گی۔ اور یہ

دونوں چیزیں الیٰ ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے آدمی اپنے دل کو ٹھوکر معلوم کر لے کہ جذبہ کیا ہے۔ جیسے: باپ اپنے بیٹے کو کھانے پینے میں ہر طرح کی وسعت دیتا ہو، اس کے باوجود بیٹا بھوکار ہتا ہو اور کمزور ہوتا جا رہا ہو، تو باپ کو اس کی یہ بات اچھی نہیں لگتی۔

بَاب تَحْرِيم لِبَاس الْحَرِير عَلَى الرِّجَال وَتَحْرِيم جُلوسِهِم عَلَيْهِ وَاسْتِنادُهُمْ إِلَيْهِ وَجُوازِ لِبْسِهِ لِلنِّسَاء

ریشمی لباس کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے
عورتوں کے لیے جائز ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جُودِ دُنْيَا مِنْ رِيشَمٍ پُهْنِي

٨٠٢:- عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تلبسو الحَرِيرَ، فَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبِسْهُ فِي الْآخِرَةِ . (متفق عليه)
ترجمہ:- حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ریشم
مت پہنو، جو آدمی دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔

٨٠٥:- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَأَخْلَاقَ لَهُ . وفي رواية للبغاري: مَنْ لَأَخْلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ .
قوله: ((مَنْ لَأَخْلَاقَ لَهُ)) أعنی: لَأَنْصِيبَ لَهُ .

ترجمہ:- حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سناء ریشم وہی مرد پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔

۸۰۲:- وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَمَنْ يَرِيدُ إِلَّا مَا لَيْسَ لِيْسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا إِلَّا يُلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دنیا میں جو آدمی ریشم پہنے گا، وہ آخرت میں نہیں پہن سکے گا۔

افنادات:- چوں کہ اس نے ریشم پہن کر ایک گناہ کا کام کیا، توجہ تک اس گناہ کی سزا نہ بھگت لے، جنت میں نہیں جائے گا۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنت میں جا کر بھی اس کی طبیعت میں قدرتی طور اس کا تقاضہ ہی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہ جنت کے بارے میں آتا ہے: «وَلَكُمْ فِيهَا مَا لَشَتَّهُنِي أَنْفُسُكُمْ» جو جی چاہے گا وہاں وہ ملے گا، اس لیے ایسا نہیں ہو گا کہ جی چاہے اور نہ ملے۔

میری امت کے مردوں پر یہ دونوں حرام ہیں

۸۰۷:- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى أَخْذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَذَهَبًاً، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمُّتِي۔ (رواہ أبو داود بسنۃ صحیح)

ترجمہ:- حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیا، اور سونے کو بائیں ہاتھ میں کپڑا، پھر (دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام کر دی ہیں۔

۸۰۸:- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأشْعَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ:

حُرِّمَ لِبَاسُ الْخَرِيرِ وَالْذَّهَبِ عَلَى ذُكُورٍ أَمْمَتِي، وَأَحَلَّ لِإِنْاثِهِمْ.

(رواہ الترمذی و قال حدیث حسن صحيح)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، اور ان کی عورتوں کے لیے اجازت دی گئی ہے۔

۸۰۹:- وَعَنْ حُذَيْفَةَ شَيْعَةَ عَنْ قَالَ: نَهَا نَا اللَّهُ بْنُ عَلَيْهِ الْأَنْبَيْرُ أَنَّ نَسَّرَتْ بَفِي آنِيَةِ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنَّ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لِبَسِ الْخَرِيرِ وَالْدِبَابَاجِ، وَأَنَّ نَجْلِسَ عَلَيْهِ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں منع کیا کہ ہم سونے چاندی کے برتوں میں کھائیں پیسیں۔ اور ریشم و دیباچ کو پہنیں اور اس پہنپیٹھیں۔
افادات:- ریشم اور سونے چاندی کے زیور عورتیں پہن سکتی ہیں، شریعت نے ان کی کمزوری پر حکم کیا کہ وہ صبر نہیں کر سکیں گی، اس لیے ان کو یہ دونوں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

جو از لبس الخریر لمن بہ حکمة

کسی عذر کی وجہ سے ریشم کا استعمال

جیسے کسی کو کھلی ہو گئی، اب اگر وہ سوتی لباس استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو اس کو ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بعض صحابہؓ غزوہ کے سفر میں تھے، وہاں اور کوئی تدبیر ممکن نہیں تھی، اور کھلی سے بچاؤ کے لیے

سوائے ریشمی کپڑے کے اور کوئی لباس استعمال کرنا مفید نہیں تھا، تو ضرورت کی وجہ سے ضرورت کی حد تک احجازت دی گئی۔

٨١٠:- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لليزبير وعبد الرحمن بن عوف في خلادتهما في الجحرة حكمة كانا ينثاها. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت انس بن مالک علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت زیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کو میں کریم ملائی تھا جو نے خارش کی وجہ سے ریشمی لباس پہننے کی اجازت دی تھی۔

النَّهْيُ عَنِ افْتِرَاشِ جَلْوَدِ النَّمُورِ وَالرَّكُوبِ عَلَيْهَا

چیتے کی کھال بچھا کر بیٹھنے کی ممانعت

ایک اور باب قائم کیا ہے کہ چیتے کی کھال بچھا کر اس پر بیٹھنا، یا چیتے کی کھال کو گھوڑے کی زین پر رکھ کر اس پر سواری کرنے کی ممانعت۔

یہ دراصل متکبر لوگوں کا طریقہ اور شیوه ہونے کی وجہ سے منع ہے، اس کے استعمال کی وجہ سے آدمی کے مزاج میں کبر پیدا ہوتا ہے، اس لیے نبی کریم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ یہ حکم حرمت کا نہیں ہے بلکہ کراہت کا ہے، یعنی مناسب نہیں ہے۔

۸۱۱:- عن معاویة بن اسقلان عن قاتل: قال رسول الله ﷺ: لَا تَرْكُبُوا الْخَزَّ،

وَلَا الْتَّمَارَ. (حدیث حسن، رواہ أبو داود وغیرہ بیسانہ حسن)

ترجمہ:- حضرت معاویہ بن اسقلان سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: ریشم بچھا کر اس پر سواری مت کرو، اور نہ چیتے کی کھال پر سواری کرو۔

۸۱۲:- عن أبي المليح، عن أبيه بنى اسقلان عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهْمَهَ عَنْ

جَلْوَدِ السِّبَاعِ. (رواہ أبو داود والترمذی والنمسائی بیسانہ حدیث صحاح)

وفی رواية للترمذی: تَهْمَهَ عَنْ جَلْوَدِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ.

ترجمہ:- ابو میخ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے درندوں کی

کھالوں (کو بچھا کر اس) پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

مَا يَقُول إِذَا لَبَسَ ثُوْبًا جَدِيدًا أَوْ

نَعْلًا أَوْ نِحْوَة

نیا کپڑا، نیا جوتا، وغیرہ پہننے وقت

کیا دعا پڑھے؟

نیا لباس پہننے کی دعا

لباس کے قبیل کی کوئی بھی نئی چیز پہنے، جیسے: نیا کرتہ، نیا پائچا مامہ، نئی صدری؛ تو
اس وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟

۸۱۳:- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
استَجَدَ ثوبًا سَمَّاهُ بِاسْمِهِ - عِمَامَةً، أَوْ قَمِيصًاً، أَوْ رِداءً - يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
أَنْتَ كَسُوتَنِي، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صَنَعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا
صَنَعَ لَهُ.

(رواها أبو داود والترمذى. وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب کوئی
نیا کپڑا پہننے تھے تو اس کا نام لیتے تھے، عمامہ ہوتا تو فرماتے عمامہ، کرتہ ہوتا تو فرماتے کرتہ، حپادر

ہوتی تو فرماتے چادر۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے: اے اللہ! تیری ہی تعریف ہے کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، اے اللہ! اس لباس کے اندر جو بھلائی رکھی گئی ہے اور جن اچھے مقاصد کے لیے یہ لباس بنایا گیا ہے (یعنی سترِ عورت، یا سردی و گرمی سے بچاؤ) اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور اے اللہ! اس لباس کی برائی اور جن برے مقاصد کے لیے یہ لباس استعمال کیا جاتا ہے، اس کی برائی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔

افرادات:— مثلاً بعض لوگ لباس پہن کر فخر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، تو اے اللہ! اس لباس کو پہن کر اترانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

ہر نئی چیز استعمال کرنے کی بھی دعا ہے

جب بھی کوئی نئی چیز آدمی کے ہاتھ میں آئے اور اس کا استعمال شروع کرے، اس موقع پر اس دعا کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ گویا اس طریقہ سے ہر کام میں بندہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم کرایا گیا ہے کہ کوئی نئی چیز آپ کے پاس آئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کبھی کبھی کہ اس نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کے اندر جو بھلائی رکھی گئی ہے اس کا سوال کبھی اور جو برائی رکھی گئی ہے اس سے پناہ طلب کبھی۔

جیسے: ہم نئی گاڑی لائے، تو ہمیں کبھی یاد نہیں رہتا کہ یہ دعا پڑھیں: اے اللہ! تو نے محض اپنے فضل سے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کے اندر جو خیر و بھلائی ہے اس کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس میں جو شر و برائی ہے اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اگر ہم اس دعا کا اہتمام کریں گے تو ان شاء اللہ اس کے ثرے سے حفاظت ہوگی۔

آداب النوم والاضطجاع

سونے اور لیٹنے کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

علامہ نووی صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے نیا عنوان قائم کیا ہے جس میں لیٹنے اور سونے کے آداب بیان کرنا چاہتے ہیں۔

حضرور اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم کی تعلیمات عین شفقت و محبت کا تقاضا

پہلے بھی بتالا یا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم کارو یہ اور سلوک اپنی امت کے ساتھ وہی ہے جو باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتے ہیں کہ بیٹا! کھانا اس طرح کھایا جاتا ہے، بات اس طرح کی جاتی ہے، لباس اس طرح پہنا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملاقات اس طرح کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم کے ارشادات اور تعلیمات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو گا کہ آدمی کی زندگی سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز، کوئی حالت اور کوئی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ایسی نہیں چھوڑی جس کے متعلق اپنی امت کی رہنمائی نہ کی ہو، ہر چیز کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے بتالا یا، جیسے: ایک شفیق باپ اپنی اولاد کو ہر چیز سکھاتا ہے۔ یہی تو وہ چیز تھی جو غیروں کے لئے موجب اعتراض بنی۔ بعض یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا تھا: (إِنَّ أَرْزِي صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ) (سنن ابن ماجہ/ کتاب الطہارۃ: ۳۲۶) تمہارے یہ ساختی (نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم) تم کو ہر چیز سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استخباء کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: جی ہاں! ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آله و سلم نے ہمیں یہ بھی ہدایت دی کہ ہم استخباء کے وقت قبلہ کی طرف چہرہ اور پیٹھ نہ کریں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ و آله و سلم کا ان طریقوں کو سکھانا تو عین شفقت اور محبت کا

تقاضا ہے، اور آپ ﷺ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لئے بھیجا ہے اسی کی تکمیل ہے۔

یہاں سونے اور لیٹنے کے متعلق آداب بتائے جا رہے ہیں۔

عجیب و غریب دعا

۸۱۳:- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَامَ عَلَى شِقْقَةِ الْأَمِينِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أُمْرِي إِلَيْكَ، وَأَجْأَتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأً وَلَا مُنْجَامِنَكَ إِلَّا إِلَيْكَ، أَمْنَتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أُنْزَلْتَ، وَنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ.

(رواہ البخاری بہذا اللفظ فی کتاب الأدب من صحیحه)

۸۱۵:- وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ مُضْوِءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقْقَكَ الْأَمِينِ، وَقُلْ (...)) وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَفِيهِ: ((وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ)) (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت براء بن عازب رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سونے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تھے تو اپنی داہنی کروٹ پر لیٹتے تھے، اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ دوسری روایت میں انہوں نے یہ بات بھی بتلائی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے باقاعدہ ان کو مخاطب بنانکر فرمایا: جب تم اپنی خواب گاہ میں آؤ، اپنے بستر پر پہنچو، یعنی سونے کا ارادہ کرو، تو پہلا کام تو یہ کرو کہ جیسانہ ماز کے لئے وضو کرتے ہیں ایسا وضو کرو، اور داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ، پھر یہ دعا پڑھو (یہ ایک طویل دعا ہے جو نبی کریم ﷺ نے سوتے وقت پڑھنے کے لئے بتلائی ہے) اس دعا کے عجیب و غریب الفاظ ہیں اور اس میں توکل اور تقویض کی عجیب شان پائی

جاتی ہے) ”اللَّهُمَّ أَسْلِمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ“ اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، میں نے اپنی جان کو تیرے تابع بنادیا ”وَجَهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ“ اور میں نے اپنا چہرہ اور اپنا رخ تیری طرف کر دیا ”وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ“ اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا ”وَأَجْأَثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ“ اور اپنی پشت کو میں نے تیری پناہ میں دے دیا۔ ”رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ“ اے اللہ! تجھے سے امید میں بھی وابستہ ہیں اور تیر اڑ رہا اور خوف بھی ہے ”لَا مُلْجَأً وَلَا مُنْجَأً إِلَّا إِلَيْكَ“ اے اللہ! پناہ اور نجات کی جگہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے ”أَمْنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِدِينِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ“ اے اللہ! جو کتاب تو نے اتاری ہے اس پر میں ایمان لا یا، اور حس نبی کو تو نے بھیجا اس پر بھی میرا ایمان ہے (حضرور اکرم ﷺ نے فرمایا) ”وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ“ آخری کلام تمہاری زبان کا یہی ہونا چاہیے (اگر اسی حالت میں سو گئے اور موت آگئی؛ تو ایمان پر موت آئے گی)

یہ محبت کا تقاضہ ہے

افادات: سونے کے لئے جو وضو کیا جائے گا اس کا طریقہ تو وہی ہے جو نماز کے وضو کا ہے، لیکن سونے کے لئے وضو کرنا فرض و واجب نہیں ہے، بلکہ آداب میں سے ہے یعنی مستحب اور پسندیدہ ہے۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ فرائض اور واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہیں، اس کی عظمت و کبریائی کا تقاضہ یہ ہے کہ آدمی فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے اور نبی کریم ﷺ کے ساتھ محبت کے حقوق کا تقاضہ یہ ہے کہ مستحبات اور آداب کا اہتمام کرے۔ یہاں حضور اکرم ﷺ نے یہیں فرمایا کہ جب آپ سونے کے لئے جائیں تو وضو کرنا فرض اور واجب ہے، بلکہ ایک ہدایت فرمائی کہ جب آپ سونے کے لئے جاؤ تو وضو کرو۔ اس سے نبی کریم ﷺ کی منشاء

معلوم ہوتی ہے کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور اس وقت کیا کیا کام کرنے چاہئیں، آپ اگر کسی مفتی اور عالم سے پوچھیں گے کہ سوتے وقت وضو کرنا فرض یا واجب ہے؟ تو وہ جواب میں یہی فرمائیں گے کہ نہیں۔ اگر وضو نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بغیر وضو کے بھی آپ سو سکتے ہیں۔ لیکن میں کریم علیہ السلام نے امت کو سو نے کا جو طریقہ بتلا یا اس میں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ سونے کا جب ارادہ کرو تو وضو کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ میں کریم علیہ السلام کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ کا اُمّتی وضو کر کے سوئے۔ کسی کو جب کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تو محب اور عاشق اس بات کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے کہ میرے محبوب کو کوئی چیز میں پسند ہیں، کون سے کام اور باتیں ہیں، کون سی کیفیتیں اور حرکتیں ہیں؛ جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ کہیں سے ذرا سی بھنک لگ جائے، بلکہ کوئی آدمی ایسے ہی مذاق میں کہہ دے کہ تمہارا محبوب فلاں چیز کو بہت پسند کرتا ہے، تو اس کو اس کے لئے چاہے کتنی ہی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، وہ اس کو کرڈالتا ہے، اس لئے کہ وہ تو عاشق اور محب ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میں اپنے محبوب کی توجہ کو اپنی طرف پھیر لوں۔

تو جینے کا مزہ آجائے.....

جب ہم یہ ساری تفصیل بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کام واجب اور ضروری تو نہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا؟ اور جب بتایا جاتا ہے کہ نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا تو پھر وہ لوگ اس کام کو نہیں کرتے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ آدمی کے بدن کو طاقت حاصل ہو، اس لئے کہ آدمی جب چلتا پھرتا ہے تو بدن کی قوت اور انرجی (Energy) استعمال ہوتی ہے، اس کی جگہ پرنسی قوت، نئی انرجی اور نیا پا اور حاصل کرنے کے لئے کھانے پینے کی

چیزیں استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ اس کے لئے تو صرف گیہوں کی روٹی بغیر سالن کے استعمال کر لیں؛ تو میں سمجھتا ہوں کہ اطباء اور ڈاکٹر کہیں گے کہ زیادہ مفید ہے، اس سے آدمی کو زیادہ انرجی اور قوت حاصل ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود کھانے کے معاملہ میں ہم لوگ بہت سارے تکلفات کا اہتمام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ دسترخوان کے اوپر اچار، کچو مر اور سلاڈ رکھا گیا، پاپڑ اور فلاں چینی بھی رکھی گئی، اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ سب چیزیں کیا کھانے کے لوازمات اور واجبات ہیں؟ تو وہ ہی جواب دیں گے کہ نہیں! کوئی ضروری نہیں، لیکن اس کے بغیر کبھی ہمارے حلقت سے نوالہ اترتا ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ وہاں تو اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔

اسی طرح ہم لوگ لباس پہنتے ہیں۔ لباس کا مقصد سردی گرمی سے بچاؤ اور اپنے ستر کو ڈھانپنا ہے؛ تو کپڑے دھو کرو یہی پہن لیں، ان کو ستری کرنے اور کریز دور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اوپر خوب شو چھپڑ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس سب کے بغیر بھی مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لئے معلوم نہیں کیا کیا جاتا ہے؟ تو جب ہم اپنے شوق کو پورا کرنے اور نفس کی خواہشات کے لئے ان ساری چیزوں کی طرف دھیان دیتے ہیں؛ تو اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم ﷺ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے آداب اور مستحبات کے قبل سے جو اعمال بتائے جاتے ہیں، اگر ان کا بھی اہتمام کر لیں؛ تو ہماری زندگیوں میں چار چاند لگ جائیں اور جینے کا مزہ آجائے۔ اس لیے محبت کے حقوق میں سے ہے کہ آدمی آداب کا اہتمام کرے۔

سو نے کے آداب پہلا ادب

حضرت نبی کریم ﷺ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما کو ہدایت فرمائی کہ پہلا

کام تو یہ کرو کہ جب سو نے کا ارادہ کرو؛ تو وضو کرو۔ اگر پہلے سے وضو ہو تو تازہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ آدمی سوتے وقت باوضو لیٹے۔ ویسے جب آنکھ لگ جائے گی اور نیند طاری ہو گی تو وضو خود بخوبی دلوٹ جائے گا، لیکن اس کے باوجود مقصد یہ ہے کہ جب نیند طاری ہو؛ تو آپ باوضو ہوں۔

دوسراءدب

دوسراءدب بتایا کہ داہنی کروٹ پر لیٹو۔ بخاری شریف کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے (روایت آگے آرہی ہے) کہ دائیں کروٹ پر لیٹ کر دائیں رخسار کے نیچے دایاں ہاتھ رکھ دیں۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ یہ بھی سونے کی ابتداء میں ہوگا، جب آدمی سونے کے لئے لیٹے تو اس طرح لیئے کہ جب اس پر نیست آئے تو ایسی حالت میں آئے۔ پھر نیند میں آپ کروٹ بد لیں، دائیں سے باائیں کروٹ پر چلے گئے؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ بس! ادب اور مستحب ادا ہو گیا اور آپ کو وہ فضیلت حاصل ہو گئی جو مطلوب تھی۔

تیسرا ادب اور خاص تاکید

پھر وہ دعا پڑھو جو اور پر ترجمہ میں گذری۔ اور یہ دعا کھا کر حضور اکرم ﷺ نے خاص ہدایت فرمائی کہ تمہاری زبان سے آخر میں یہی کلمات نکلیں، اس کے بعد کچھ اور بات مت کرو۔ سونے سے پہلے اور نیند طاری ہونے سے پہلے آخری جملے اور آخری کلام جو آپ کی زبان سے نکلے؛ وہ یہی کلمات اور دعا ہو۔

یہ ایک فطری امر ہے

نبی کریم ﷺ نے سوتے وقت یہ دعا کیوں سکھائی؟ آدمی جب صبح میں اٹھتا ہے اس کے بعد سے دن بھر کی اپنی مصروفیات، کاروبار، تجارت، دوکان داری، اور گھر کے کام کا حج میں لگا رہتا ہے۔ مثلاً: اپنے بچپن کے ایڈمیشن کا معاملہ تھا، تو اس کا جہاں ایڈمیشن کرنا تھا، اس کے لئے جس جس سے ملنا تھا ان سب سے مل کر آئے، اس کے لئے فارم بھرنا تھا؛ تو وہ بھرا۔

یا کوئی ملازم چلا گیا، اس کو سمجھا بجھا کر دوبارہ لانا ہے، تو اس سے کوئی نیک (Contact) کیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں صاحب اگر اس کو سمجھا میں گے تو وہ سمجھ جائے گا اور واپس کام پر آجائے گا، تو ان صاحب کے پاس گئے اور ان سے رابطہ کر کے اس کو سمجھایا۔

اسی طرح آئندہ مہینے میں کہیں سفر کرنا ہے جس کا ٹکٹ بک کر دانا تھا، تو فلاں سے کہا کہ ٹکٹ بک کر ادو۔ پھر جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں ہوٹل بک کر دانا ہے۔

مطلوب یہ ہے کہ معاش اور کاروبار سے تعلق رکھنے والے بے شمار معاملات ہوتے ہیں، اور اس کے لیے آدمی نہ معلوم دن بھر کیا کیا کوششیں کرتا رہتا ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد رات کو جب بستر پر لیٹتا ہے؛ تو ایک فطری امر ہے کہ جب آنکھ بند کرے گا تو دن بھر کا سارا نقشہ اس کے سامنے آئے گا کہ آج میں کام پر گیا، فیکٹری پر پہنچا تو وہاں ایسا معاملہ تھا، اس کو اس طرح سلچھایا تھا، اور ملازمت کے سلسلہ میں یہ دشواری اور پر ابلم (Problem) تھی، اس کو حل کرنے کے لئے میں نے یہ کوشش کی۔ بچپن کے ایڈمیشن کے سلسلہ میں جو معاملہ تھا اس کو حل کرنے کے لئے فلاں فلاں

تدبیر یں کیں، ایڈمیشن کا فارم تو بھر کر دیا ہے، فیس بھی دے کر آیا ہوں، اب پتہ نہیں ایڈمیشن ملے گا یا نہیں۔ ٹکٹ بک کرانے کے لئے دیاتھا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ میرا فلاں کام سرکاری دفتر میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لئے میں نے یہ کوشش کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے مناظر ایک ایک کر کے اس کے دماغ میں آتے ہیں، جس جس کام کی دن بھر منت کی تھی؛ وہ سب اندر یشوں اور توہات کی شکل میں آدمی کے دماغ کے پردے پر آ رہے ہیں۔

تو دانی حساب کم و بیش را

ایسے موقع پرنجی کریم ﷺ نے جو دعا سکھائی ہے اس پر غور کرو کہ: ایک مؤمن کو کس سوچ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ایک غیر مسلم اور کافر تو سارا دار و مدار اپنی کوشش پر رکھتا ہے، اسی لئے وہ کبھی اطمینان حاصل نہیں کر پاتا، لیکن مؤمن کا معاملہ تمام کوششوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حوالے ہو جاتا ہے۔ بس! اس دعا میں یہی سکھایا ہے کہ: اے اللہ! دن بھر تو میں نے یہ سارے جھمیلے اختیار کئے، دوڑ دھوپ کی، اور جو کچھ میرے بس میں تھا وہ سب میں کر چکا؛ اب اے اللہ! میں اپنی ذات کو بھی تیرے حوالے کرتا ہوں، اور اپنارخ بھی تیری طرف کرتا ہوں، اور اپنے سارے معاملات بھی تیرے حوالے کرتا ہوں۔ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر کام کو انجام دینے والا ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اے اللہ! اپنی پشت کو میں نے تیری پناہ میں دے دیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس دعا کے اندر کتنی زیادہ تفویض ہے!

”تفویض“ یعنی اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا۔ یہ بہت اونچی صفت ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی بہت بڑی بڑی فکروں سے

نجات پا جاتا ہے۔ جب ہم نے کام کر لیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا کہ: اے اللہ! اس میں کامیابی ڈال دے؟ تو گویا آدمی نے اپنا سارا رخ اور اپنی ساری توجہات کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا۔ بقول کسے:

سپردم بتومایہ خویش را * تودانی حساب کم و نیش را

امید و خوف

اس کے بعد کہا: اے اللہ! تجھے ہی سے امید ہیں وابستہ ہیں اور تیراڑ را اور خوف بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنی رحمت سے کام بنانے والا ہے، دینے والا بھی وہی ہے، تو ایک طرف تو اسی کی ذات کے ساتھ ہمیں توقعات قائم ہیں، لیکن دوسری طرف اپنی بداعمالیوں، نافرمانیوں، اپنی معصیتوں اور گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی لگتا ہے کہ معلوم نہیں؛ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب کیا معاملہ ہوگا! اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھ کر امید بھی قائم ہے اور اپنے گناہ اور نافرمانی اور اپنے جرائم کو سوچ کر ڈر بھی لگتا ہے۔

کہ جز تو پنا ہے دگر نیستم

اے اللہ! پناہ اور نجات کی جگہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یعنی اگر تو ہمیں پکڑے اور عذاب دینے لگے، ہم پر مصیبتیں نازل کرنے لگے؛ تو تیرے اس عذاب سے اور تیری دی ہوئی اس مصیبت سے سوائے تیرے کوئی اور نہیں بچا سکتا۔

جالینوس بڑا حکیم گزر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہم عصر تھا، اس نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا: اگر آسمان کو مکان، اور مصائب، آلام اور تکالیف کو تیر، اور اللہ تعالیٰ کو اس مکان سے تیر چلانے والا فرض کر لیا جائے، گویا اللہ تعالیٰ آسمان سے تکلیفوں و مصائب اور آلام کے تیر چلا رہے ہیں؛ تو اس سے بچنے کی کیا شکل ہے؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا: تیر انداز کے تیروں سے بچنے کی شکل یہی ہے کہ جو تیر انداز کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو جائے، تو تیر اس کو نہیں لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات پیش آتے ہیں اس میں ہماری آزمائش ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اس لئے اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کی شکل یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ حاصل کر لیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جگہ ہے، ہی نہیں۔

ایک بچہ بھی یہ سمجھتا ہے

ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک بچے کی ماں اس کی پٹائی کر رہی تھی، اب وہ جتنا مار رہی تھی، وہ بچہ اتنا ہی اس کی گود میں چڑھ رہا تھا۔ وہ مار رہی ہے، پٹائی کر رہی ہے؛ پھر بھی وہ بچہ اسی کی گود میں آ رہا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے: دیکھو! ایک بچہ جس چیز کو سمجھ رہا ہے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ ماں کی پٹائی اور اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے نجات کا راستہ کہیں اور نہیں ہے، صرف ماں کی گود رہی ہے، اس لئے ماں اس کو پیٹ رہی ہے، اس کے باوجود وہ اس کی گود میں ہی گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔

تونیٰ کریم ﷺ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ ”رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ“ اے اللہ! تجوہ ہی سے امید یں بھی وابستہ ہیں اور تیرا، ہی ڈرا اور خوف بھی ہے۔ ”لَا مُلْجَأٌ وَلَا مُنْجَأٌ إِلَّا إِلَيْكَ“ تیری طرف سے بھیج گئے عذاب اور مصیبت سے پناہ اور بچاؤ کی جگہ تیرے علاوہ اور کہیں نہیں ہے۔

دعا کے دو سبق: رجوع الی اللہ اور یادِ آخرت

گویا مسنون دعاؤں کے ذریعہ حضور اکرم ﷺ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہماری توجہ ہر آن اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس دعائیں دو چیزیں سکھائی ہیں:

۱۰۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع [۲] آخرت کی یاد۔ ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں وہ دراصل آخرت اور موت کو بھول کر کرتے ہیں، اور نبی کریم ﷺ اپنی تعلیمات کے ذریعہ ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ اپنا تعلق، رشتہ اور رابطہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑا جائے، ہر ہر کام میں جو مختلف دعا میں سکھائی گئی ہیں کہ: اٹھو؛ تو یوں پڑھو۔ گھر میں داخل ہو؛ تو یوں پڑھو۔ وغیرہ وغیرہ؛ اس کے ذریعہ بار بار اللہ تعالیٰ کا نام بلوایا جا رہا ہے، جب آدمی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا نام بار بار لیتا رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار دل کے اندر پیدا ہوگا؛ پھر یہی چیز آدمی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے گی۔

تہجد کے بعد مسنون آرام کی کیفیت

۸۱۶:- وَعِنْ عَائِشَةَ بْنِيَّتِهِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةً فَإِذَا أَطْلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَاجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْأَعْيُّنِ حَتَّى يَجْبِيَ عَالِمُوْدُنْ فَيُوْذَنَهُ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت عائشہ بنتی اللہ بنیت کی ہے کہ نبی کریم ﷺ رات میں گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے (تہجد کی ۸ رکعت، اور وتر کی تین رکعت) پھر جب صحیح صادق طلوع ہو جاتی تو دو ہلکی رکعتیں (نیجر کی سنتیں) پڑھ لیتے، اس کے بعد دو میں کروٹ پر لیٹ جاتے؛ بیہاں تک کہ مؤذن اطلاع دیتا۔

افادات:- جو لوگ رات کا ایک معتدہ حصہ، ایک تھائی حصہ، گھنٹہ دیڑھ گھنٹہ عبادت میں مشغول ہوتے ہیں؛ یہ سونا ان کے لئے ایک طرح کی راحت کا سبب بنتا ہے، اور اس طرح ان کو سہولت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ کی سنت بھی ہے کہ آپ دو میں کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، تھوڑی دیر کے لئے آنکھ بھی لگ جاتی تھی، آپ

خراءُ بھی لینے لگتے تھے، پھر جب موذن آتا اور آپ کو اطلاع کرتا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ تشریف لے جاتے، اور سوچانے کے باوجود آپ ﷺ وضو کی تجدید نہیں کرتے تھے، اس لئے کہ انبیاء کرام ﷺ کی نیند سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہماری نیند کی وجہ سے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

سونے اور اٹھنے کی مسنون دعائوں کا فلسفہ

۱۷: وَعَنْ حَدِيْقَةِ رَبِّيْلِ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: كَانَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ لَذِكْرٌ إِذَا أَخْذَ مَضْجَعَهُ مِنَ الْلَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّيهِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنْ شَاءَكَ أُمُوتُ وَأَحْيَا。 وَإِذَا أَسْتَيْقَظَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ。(رواہ البخاری)

ترجمہ: - حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کو جب اپنے بستر پر لیٹتے تھے تو آپ (اپنادیاں ہاتھ، دائیں رخسار کے نیچے) رکھتے، اور یہ دعا پڑھتے: "اللَّهُمَّ إِنْ شَاءَكَ أُمُوتُ وَأَحْيَا" اے اللہ! تیرے ہی نام سے میں مروں گا بھی، اور تیرے ہی نام سے زندہ بھی ہوں گا۔ (یعنی تیرے ہی نام سے سوتا ہوں، اور تیرے ہی نام سے جاؤں گا۔) اور جب آپ بیدار ہوتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ" تمام تعریف اسی اللہ کے لئے ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ہے۔

افادات: - اس لیے کہ نیند چھوٹی موت ہے۔ حدیث پاک میں بھی کہا گیا ہے: "النَّوْمُ أَخْ الْمَوْتِ" (شعب الانیمان: ۳۳۱۶) "نیند موت کا بھائی ہے، موت کا چھوٹا سا نمونہ ہے۔ اس لئے ایک مؤمن یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اللہ کے نام پر آئے، تو اب اس کی بھی مشق کراچی ہے کہ سوتے وقت اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرو کہ: اے

اللہ! تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوؤں گا۔ اور ابھی تو خیر ہے کہ اس چھوٹی سی موت کے بعد دوبارہ دنیا کے اندر آئے ہیں، مگر ایک بڑی موت ایسی آنے والی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ دنیا میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ ہاں! اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ہے، گویا اس طرح ہمیں آخرت یاد دلائی گئی۔

﴿وَأَمَّا مِنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجِنَّةَ هُنَّ الْمُأْوَى﴾
جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دی کے تصور سے ڈرا، یعنی جب گناہ کا دل میں خیال آیا اور نفس نے کہا کہ گناہ کرو؛ اس وقت یہ سوچا کہ: آج اگر یہ گناہ کروں گا، اور ایک دن زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے پوچھا جائے گا کہ: تو نے یہ نافرمانی کیوں کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس ڈر سے اپنے نفس کو خواہش کے مطابق عمل کرنے سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کا یہی وہ تصور ہے جس کو نبی کریم ﷺ ہر مومن کے دل و دماغ میں مختلف طریقوں سے رچا اور بسا دینا چاہتے ہیں یعنی اگر یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ ہمیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے؛ تو آدمی کی زندگی میں انقلاب آجائے۔ پھر وہ کوئی بھی گناہ اور نافرمانی کا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔

حضور اکرم ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو دل میں بسانے کا یہ ایک طریقہ بتایا ہے۔ یہ دونوں دعائیں ہیں، آپ چاہیں تو دونوں دعائیں پڑھ لیں، چاہیں تو کوئی بھی ایک دعا پڑھ لیں؛ سنت ادا ہو جائے گی۔

لیٹنے کے چار طریقے

۸۱۸:- وَعَنْ يَعْيَشَ بْنِ طَحْفَةَ الْغَفَارِيِّ شَاهِيْهَا قَالَ: قَالَ أَبِي بَيْنَمَا أَكَا

مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحِرِّكُنِي بِرِجْلِهِ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةً يُبُغْضُهَا اللَّهُ))، قَالَ: فَنَظَرْتُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلِئَ الشَّاءِمَةَ. (رواہ أبو داود یا سناد صحیح)

ترجمہ:- حضرت یعیش رض عن فرماتے ہیں کہ میرے ابا (حضرت طحفة شاہنشاہ عدن) نے کہا: ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر پیٹ کے بل (اوندھا) لیٹا ہوا تھا، اچانک (محسوس ہوا کہ) کوئی شخص اپنے پاؤں کے ذریعہ مجھے حرکت دے رہا ہے، اور کہہ رہا ہے: لیٹنے کا یہ طریقہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے (گویا اس طرح لیٹنا جائز نہیں ہے) میں نے دیکھا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔

افادات:- دیکھو! لیٹنے کے چار ہی طریقے ہو سکتے ہیں:-

۱۔ اوندھا لیٹنا

۲۔ چت لیٹنا

۳۔ بائیں کروٹ پر لیٹنا

۴۔ دایں کروٹ پر لیٹنا۔ اب اوندھا لیٹنے کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں، یہ طریقہ تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، الٰی یہ کہ کوئی معذور ہو، یا علاج کی وجہ سے ایسا کرنا پڑے؛ توبات دوسری ہے۔ اور چت لیٹنے کے متعلق لکھا ہے کہ یہ اطمینان کا سونا ہے۔ اور بائیں کروٹ پر لیٹنے گا تو دل چوں کہ بائیں طرف ہوتا ہے، تو اس صورت میں دل کو قرار زیادہ ملے گا اور اس کی وجہ سے آدمی پر غفلت والی نیز نہ طاری ہو گی۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ دایں کروٹ پر لیٹو۔ ایک تو دایں طرف کا طریقہ بھی حاصل ہو جائے گا، اور دل معلق اور لٹکا ہوار ہے گا جس کی وجہ سے غفلت والی نیند نہیں آئے گی۔

تو شریعت میں سونے کی اجازت تودی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سونے کا طریقہ بھی بتالا یا جا رہا ہے؛ بتا کہ غفلت طاری نہ ہو۔ اور جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ آپ دایں کروٹ پر لیٹے، پھر بائیں کروٹ پر ہو گئے، یا چت ہو گئے؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اوندھا ہرگز نہ لیٹے، اس کو تو بالکل ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔

بچوں کو بھی اس کا عادی بنایا جائے

آج کل بچے عام طور پر اونڈھے سوتے ہیں، اور یہ عجیب حال ہو گیا ہے کہ گھر والے بھی ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس لیے جب بھی بچہ اونڈھا ہو تو ضرور اس کی اصلاح کی جائے۔ بچپن سے جس چیز کی عادت ڈالی جاتی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ جو آداب شریعت نے ہمیں سکھائے ہیں، وہی سارے آداب ہمیں بچوں کو بتانے ہیں، اور اسی انداز پر ہمیں ان کی پرورش اور تربیت کرنی ہے، اس لئے اگر بچہ اونڈھا ہو تو محبت سے سمجھا کر اس کو سیدھا، یا دائنیں کروٹ پر لینے کی عادت ڈالی جائے۔

بغیر ذکر اللہ کی مجلس و بال ہے

۸۱۹:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تِرَةٌ، وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ۔ (رواہ أبو داود بسناد حسن) ((الترۃ)) : بكسير التاء المثلثة من فوق، وهي: النقص، وقيل: الشبعة.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی کسی ایسی مجلس میں بیٹھا جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا؛ تو یہ مجلس کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لئے و بال کا سبب ہوگی۔ اور جو آدمی اس طرح سویا جس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا؛ تو یہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لئے و بال و پرش کا سبب بنے گا۔

افادات:- اس سے معلوم ہوا کہ مومن کی کوئی مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ گپ شپ کرنے کے لئے مجلس قائم کرتے ہیں تو پوری مجلس غفلت کی نذر ہو جاتی ہے (روایتوں میں نبی کریم ﷺ نے مجلس کا کفارہ بھی بتلا�ا

ہے) ہماری کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہے۔

جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اس کے بعد ان کو اگر افسوس ہو گا تو اپنے اُن اوقات کا ہو گا جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی گزرے تھے (شعب الایمان: ۵۰۹ / فصل فی ادامۃ ذکر اللہ عز وجل) حالاں کہ جنت میں پہنچ گئے اور جو مقصودِ زندگی تھا وہ حاصل ہو گیا، کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد بھی جب وہاں ذکر کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو افسوس ہو گا کہ: ہائے! ہمارا اتنا سارا وقت بے کار چلا گیا۔ اس لیے زندگی کے جو اوقات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت اور نہایت قیمتی سرمایہ ہیں۔

اسی طرح لیٹنے کے دوران بھی کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے، جس لیٹنے میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا جاتا ہے؛ ایسا لیٹنا بھی و بال و پرش اور افسوس کا ذریعہ بن جائے گا۔

قدرتی نظام؛ ایک عجیب نعمت

نیند؛ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایسا نظام بنایا ہے کہ جہاں رات آئی کہ لوگوں کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًاً وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًاً﴾ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ نے دن کو روزی کی دوڑ دھوپ اور اپنے کام کا ج کے لئے رکھا، اور رات کو آرام و سکون کا ذریعہ بنایا۔ جہاں رات آتی ہے ہر جاندار۔ انسان، چرند و پرند، درندوں اور پاتوں جانوروں۔ پر نیند کی کیفیت اور غنوڈگی طاری ہو جاتی ہے، گویا یہ وقت ہی نیند لانے والا ہے۔ نیند کے باب میں اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو اختیار دے

دیتے کہ جس کی جب مرضی ہو، بس! ایک سوچ دبادے گا تو اس کو نیند آہبائے گی؛ تو سوچنے کیا ہوتا! کوئی آدمی آٹھ بجے سور ہا ہے، دوسرا گیارہ بجے سور ہا ہے، تیسرا چار بجے سور ہا ہے، پھر جب چار بجے، تو آٹھ بجے والا آٹھ گیا اور کھٹ کھٹ کرنے لگا، اب وہ چار بجے والے کو سونے نہیں دے رہا ہے، اس طرح سارا نظام بگڑ جاتا اور بہت دشواری پیش آ سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات کا وقت ہی ایسا رکھا کہ سب پر نیند طاری ہو جاتی ہے، کھٹ کھٹ کرنے والا کوئی بھی جا گتا ہی نہیں، سب نیند میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر کوئی کافر نہ کرتے کہ فلاں وقت میں ہی ہم سب کو سونا ہے، تو یہ بات ناممکن تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب نظام اور بڑی نعمت ہے؛ اس لئے جس ذات نے یہ نعمت عطا فرمائی، اس کی یاد تو ہونی ہی چاہیے، اس کی یاد کے بغیر جو وقت گزرے گا؛ گویا یہ غفلت ہو گی اور آدمی کو ایسی غفلت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

جواز الاستلقاء على القفا
ووضع إحدى الرجلين على الأخرى
إذا لم يخف انكشاف العورة
وجواز القعود متربيعاً ومحتبياً

سونے اور بیٹھنے کے آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سونے اور بیٹھنے کا مسنون اور مستحب طریقہ بتا دیا؛ اب جو جائز شکلیں ہیں وہ بتا رہے ہیں اسی مناسبت سے ایک عنوان قائم کیا ہے: کوئی آدمی اگر چت لیٹنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔
ویسے لیٹنے کا افضل اور بہتر طریقہ بتا دیا تھا کہ سوتے وقت شروع میں آدمی داہنی کروٹ کے اوپر لیٹے، بعد میں اگر کروٹ بدل جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اب چت لیٹنے کی شکل میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹے، تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ اگر ستر کے کھل جانے کا اندر یہ شہ اور خطرہ نہ ہو؛ تو اس صورت میں پاؤں پر پاؤں رکھ کر بھی سو سکتا ہے۔

بیٹھنے کے دو طریقے ہیں:- ۱۔ چوکڑی (لکھانو) مار کر چہار زانو بیٹھنا۔ ۲۔ گوت
مار کر بیٹھنا؛ ان دونوں کا حکم بتائیں گے۔ روایتوں میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔
٨٢٠: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما أَنَّهُ رأى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًّا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضْعَافًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى۔ (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو مسجد میں اس طرح چت لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ نے اپنے ایک پاؤں مبارک کے اوپر دوسرا پاؤں مبارک رکھا ہوا تھا۔

افادات:- اس روایت سے دو چیزوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی چت لیٹنا چاہے، تو اس کی اجازت ہے۔

پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا جائز ہے یا نہیں؟
دوسرے یہ کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا۔ تو اس طرح سونے کے متعلق حدیث

پاک میں ممانعت بھی آئی ہے، نبی کریم ﷺ نے پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونے سے منع فرمایا (صحیح مسلم۔ باب فِ مَنْعِ الْإِسْتِلْقَاءِ عَلَى الظُّفَرِ وَضُمْجَاجِ الْجَلَّةِ عَلَى الْأُخْرَى۔ حدیث نمبر: ۵۶۲۳) اور اپرواہی روایت میں صحابی بیان فرمارے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو مسجدِ نبوی میں اس حال میں لیٹے ہوئے دیکھا کہ آپ پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے تھے، یہ حضورؐ اکرم ﷺ کا اپنا عمل ہے۔ علماء کرام نے دونوں روایتوں میں مختلف طریقوں سے تطبیق دی ہے۔ بعض حضرات یوں فرماتے ہیں کہ شروع میں ممانعت تھی، بعد میں اجازت ہو گئی اور آپ ﷺ کا عمل ہی اس کے جواز کی دلیل ہے۔

تطبيق کی ایک شکل

لیکن علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ چوں کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر جو لیٹا جاتا ہے اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کا ستر کھل جائے، خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ عام طور پر لنگی اور وہ بھی بغیر سلی ہوئی پہنسنے کا رواج تھا، دور نبوت میں کپڑوں کے سلسلہ میں اتنی وسعت بھی نہیں تھی جو بعد میں ہوئی، لنگی بھی بعض مرتبہ بڑی تنگ ہوا کرتی تھی، ایسی حالت میں آدمی اگر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سوئے تو قوی اندر یہ رہتا ہے کہ ستر کھل جائے، اس لیے اگر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونے کی وجہ سے ستر کھل جاتا ہے یا ستر نظر آتا ہے؛ تو پھر پاؤں پر پاؤں رکھ کر سونا جائز نہیں۔ اور اگر ستر نہیں کھلتا؛ تو اس طرح لیٹنے کی اجازت ہے۔ علامہ نووی رضی اللہ عنہ نے بھی جو عنوان قائم کیا ہے اس میں یہی شرط لگائی ہے: ”اذا لم يخف انكشاف العورۃ“، اگر کوئی آدمی پاؤں پر پاؤں رکھ کر چت لیٹے، اور ستر کے کھلنے کا اندر یہ شرط ہے؛ تو اس طرح لیٹنا جائز ہے۔ گویا دونوں روایتیں اپنی اپنی جگہ پر ہیں۔ ممانعت اپنی جگہ پر ہے اور وہ اسی صورت میں ہے جبکہ اس طرح

لینٹے کی وجہ سے ستر کھل جانے کا اندیشہ ہو۔ اور اگر اس طرح لینٹے کی صورت میں ستر کھلنے کا کوئی اندیشہ اور خطرہ نہیں ہے؛ تو اجازت ہے۔ ممانعت ایک مخصوص حالت کے لئے ہے، اور اجازت بھی ایک مخصوص حالت کے لئے ہے۔ چنان چہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی تطبیق دی ہے۔

شیخ الشیخ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے عالیٰ

لیکن ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور تطبیق دی ہے کہ: راوی یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو مسجدِ نبوی میں پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹا ہوا دیکھا۔ اس میں راوی نے یہ صراحت نہیں کی کہ آپ ﷺ نے ایک پاؤں کھڑا کیا تھا اور دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھا تھا، بلکہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر لینٹے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھا جائے، جیسے عام طور پر ہوتا ہے؛ اس صورت میں ستر کے کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں پاؤں سیدھے ہوں اور ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھ کر آدمی سوئے؛ اس صورت میں ستر کے کھلنے کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

تو جس حدیث میں ممانعت آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سونا کہ ایک پاؤں کھڑا ہو، اور دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھا ہو۔ لیکن اگر دونوں پاؤں سیدھے ہوں اور ایسی حالت میں ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھ کر آدمی لینٹے، تو چاہے لٹکی ہو؛ ستر کھلنے سے اور زیادہ حفاظت ہو جاتی ہے، اس لیے راوی نے حضور اکرم ﷺ کو جس طرح لینٹے ہوئے دیکھا اس کو اسی شکل پر محمول کیا جائے گا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان کے اندر دو چیزیں بتائی تھیں، دونوں یہاں ثابت ہو گئیں ایک تو چوتھی لینٹے کا ثبوت ہو گیا،

اور دوسرا پاؤں پر پاؤں رکھ کر لیٹنے کی اجازت بھی معلوم ہو گئی۔

چہار زانو بیٹھنا

۸۲۱:- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِي كَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاءً۔ (حدیث صحیح، روایہ ابوداؤ وغیرہ بأسانید صحیحة)

ترجمہ:- حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنی اسی جگہ پر (چوکڑی) (آدھیانہ) (مار کر) چہار زانو بیٹھ جاتے تھے؛ یہاں تک کہ سورج اچھی طرح طلوع ہو جاتا۔

افادات:- احادیث میں اس بات کی فضیلت آئی ہے کہ آدمی فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھا رہے اور ذکر میں مشغول رہے، پھر اشراق کی دور کعت پڑھ کر اٹھے؛ تو اس کو حج اور عمرہ کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔

(ترمذی، باب ذکر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس۔ حدیث: ۵۸۶)

یہاں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں بھی آدمی چہار زانو بیٹھ کر اپنا وظیفہ پورا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، تو بیٹھ سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور دعا بھی اگر اس طرح بیٹھ کر مانگے؛ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔

گوٹ مار کر بیٹھنا

۸۲۲:- وَعَنْ أَبْنَ عُمَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَبْنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًّا بِيَدِيهِ هَكَذَا۔ وَوَصَّفَ بِيَدِيهِ الْاحْتِبَاءَ، وَهُوَ الْقُرْفُصَاءُ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو کعبہ شریف کے (سامنے) صحن میں دونوں ہاتھوں سے گوٹ مار کر بیٹھا ہوا دیکھا۔ پھر انہوں نے

اس طرح بیٹھ کر بتلایا (کہ آدمی زمین پر اپنی سرین رکھ کر دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کو پکڑ لے؛ یہی احتباء کہلاتا ہے اور اسی کو ”قرفُصاء“ بھی کہتے ہیں۔)

افادات:- حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: احتباء میں دونوں شکلیں ہیں، ایک تو وہی کہ آدمی سرین کے اوپر بیٹھ کر پاؤں کھڑے کر کے گھٹنے اونچے کر لے، اور اپنے ہاتھوں سے گول دائرہ بنالے۔ اور دوسرا شکل یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دے اور کوئی کپڑا روماں وغیرہ اپنی کمر کے پیچھے سے آگے لا کر گرہ لگادے؛ یہ بھی احتباء ہے، البتہ ”قرفُصاء“ وہ کہلاتی ہے جس میں صرف ہاتھ کا دائرة بننا کر گوت مار کر بیٹھا ہو۔

بہر حال! اس طرح بیٹھنا بھی جائز ہے، بلکہ بہت سے حضرات نے اس کو سنت بھی بتلایا ہے، اگرچہ اس طرح کی بیٹھک کے سنت ہونے پر بعض حضرات نے کلام کیا ہے، لیکن مستحب ہونے پر کسی کو کلام نہیں ہے کہ اس طرح بیٹھنا پسندیدہ ہے۔

ہاں! ایک بات یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی لگنگی پہننے ہوئے ہے، اور اس طرح بیٹھنے کی صورت میں ستر کے کھلنے کا اندیشہ ہے؛ تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ حدیثِ پاک میں آتا ہے: نبی کریم ﷺ نے دو قسم کی بیٹھکوں سے منع فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ اس طرح اکٹروں یا گوت مار کر بیٹھ کر ستر کے اوپر کوئی کپڑا نہ ہو، اور ستر کھلا رہے تو یہ حرام ہے۔

۸۲۳: وَعَنْ قَيْلَةَ بْنِ تَحْرِمَةَ شَيْهَقَ الْمُتَخَشِّعَ فِي الْجُلْسَةِ أَرْعَدْتُ مِنَ الْقُرْفُصَاءَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلِكَ الْمُتَعَزِّزَ وَهُوَ قَاعِدٌ
الفرق.

(رواہ أبو داود والترمذی)

ترجمہ:- حضرت قیلہ بنت تحرمہ شیہق (صحابیہ) فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو گوت مار کر (یعنی پاؤں کھڑے کر کے ہاتھ سے گول دائرہ بنالے) بیٹھنے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے نبی کریم ﷺ کو ایسی خشوع اور توضیح والی ہیئت میں بیٹھنے ہوئے دیکھا تو مارے خوف کے میں لرگئی۔

افادات:- کبھی کوئی بڑا آدمی بالکل عاجز انہ شکل اختیار کر کے بیٹھا ہو، اور کوئی آدمی اس کو اچانک دیکھ لے؛ تو دیکھنے والے پر ایک خاص خوف اور ہیبت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔

۸۲۲: وَعَنِ الشَّرِيفِ بْنِ سُوَيْدٍ ثَقَلَ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَالِئُ هَكَذَا، وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِي الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِيِّ، وَأَتَكَاثُ عَلَى الْأَيْتَةِ يَدِي، فَقَالَ: أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟! (رواہ أبو داود بیسناد صحیح)

ترجمہ:- حضرت شریف بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کا گزر میرے پاس سے ہوا اور میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی پشت کے پیچھے اس طرح رکھا تھا کہ اس کے اوپر پیچھے کی طرف ٹیک لگایا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے تنبیہ فرمائی کہ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا؛ ان کی طرح بیٹھتے ہو؟

افادات:- گویا اس بیٹھک کو حضور اکرم ﷺ نے ناپسند فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی فشاق و فجرا اور ایسے لوگوں کی ہیئت اختیار کرنا جو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں معتوب و مغضوب ہیں، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی لئے اس طرح کھڑا ہونا کہ کمر کے پیچھے ہاتھ سے ٹیک لگایا ہو؛ اس کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اٹھنے بیٹھنے اور کھڑے رہنے کے سلسلہ میں ہر ایسی ہیئت اختیار کرنا جو فشاق و فجرا، معتوب اور مغضوب لوگوں کا طریقہ ہو؛ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آدمی اپنے آپ کو ایسی ہیئت سے بچائے۔

بہر حال! اس عنوان کے تحت علامہ نووی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتلائی کہ آدمی چت لیٹ سکتا ہے، دوسرا یہ کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پاؤں کھڑا کر کے بھی لیٹ سکتا ہے، بشرطیکہ ستر کھلنے کا ندیشنا ہے۔ چوکڑی مار کر بھی بیٹھ سکتا ہے اور گوت لگا کر بھی بیٹھ سکتا ہے۔

بَابُ فِي آدَابِ الْمَجْلِسِ وَالْجَلِيسِ

محلس کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اس عنوان کے تحت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، اور ہم نشینوں کے ساتھ کس طرح کے آداب برترے جائیں۔

گنجائش نکال دو

۸۲۵:- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيمه أحد كمن رجلاً من مجلسيه ثمه يجيئه، ولكن تؤتى عوا وتفسة حوا. وكان ابن عم رءا إذا قام له رجل من مجلسيه لمه يجيئه، (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی کسی کو اس جگہ سے نہ اٹھائے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہو، کہ پھر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ لیکن ذرا کشادہ ہو جاؤ، اور گنجائش نکال دو۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما کے لیے جب کوئی اپنی جگہ سے اٹھتا تھا تو آپ اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔

افادات:- ایک تو یہ ہے کہ کسی آدمی کی مملوک اور اس کی ذاتی جگہ ہے، جیسے اس کا اپنا گھر یا ذاتی کمرہ ہے، یا بیٹھنے کی مخصوص جگہ ہے، وہاں کوئی دوسرا آکر بیٹھ گیا؛ تو ظاہر ہے کہ وہ خود مالک ہے، اور مالک کی اجازت کے بغیر کوئی بیٹھا ہو، بلکہ اجازت لیکر بھی بیٹھا ہو؛ تو اس کو اختیار ہے کہ وہاں سے اس کو ہٹائے۔

پبلک مقامات کا حکم

اور دوسری شکل یہ ہے کہ ایک عام جگہ ہے، جو کسی کی مخصوص ملک نہیں ہے، جیسے: مسجد ہے، اسٹیشن کی کرسیاں ہیں، یا کوئی پارک اور با غچہ ہے جہاں سب لوگ آتے جاتے ہیں، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے، ایسی کسی

جگہ پر اگر کوئی آدمی آکر پہلے سے بیٹھ گیا ہے، جیسے: ایک آدمی مسجد میں آکر امام کے پیچھے والی جگہ پر بیٹھ گیا، تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت ہے، اور جو پہلے آکر بیٹھے اور قبضہ جمائے، وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ حقِ اسبقیت کھلا تا ہے۔ اب بعد میں آنے والا کوئی آدمی اس کو وہاں سے اٹھانی نہیں سکتا، الٰ یہ کہ وہ آدمی خود اپنی مرضی سے اٹھ کر چلا جائے، یا نماز کا وقت ختم ہو گیا اور دوسرا نماز کے وقت وہ جگہ خالی ہو گئی، تو پھر دوسرا آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے۔

بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ مسجد میں اپنے لیے ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہوتی ہے اگر کوئی پہلے آکر وہاں بیٹھ جاتا ہے تو یہ آکر اس کو ہٹا دیتے ہیں؛ یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) نے مسئلہ لکھا ہے، ہر ایسی مباح حجگوں کا یہی حکم ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس مرض میں بٹلا ہیں۔

دوسرے کی چپل ہٹا کر اپنی نہ رکھے

اسی طرح مسجد میں جہاں جوتے نکالے جاتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ ایک مباح جگہ ہے، ہر آدمی وہاں جوتے نکال سکتا ہے۔ ایک آدمی نے آکر دیکھا کہ کونے پر ایک جگہ خالی ہے تو اس نے اپنے جوتے نکال کر وہاں رکھ دئے، تو اب اس جگہ کا وہ حق دار ہو گیا، جب تک کہ وہ خود اپنے جوتے وہاں سے نہ ہٹائے وہاں تک کسی دوسرے کو اس جگہ کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے! کسی نے پہلے سے کونہ میں اچھی جگہ دیکھ کر اپنے جوتے رکھے ہیں، ہم بعد میں آکر لات مار کر اس کے جوتے ہٹا دیتے ہیں اور اس جگہ پر اپنے جوتے رکھ دیتے ہیں، پھر کوئی تیسرا آتا ہے تو وہ بھی لات مار کر اس کے جوتے ہٹا دیتا ہے، اس طرح پہلے

والے کے جو تے اور دور چلے جاتے ہیں، پھر جب پہلے والا بے چارہ نماز سے فارغ ہو کر باہر نکلتا ہے تو اپنی جگہ پر اپنے جو تے تلاش کرتا ہے، لیکن وہاں نہیں ملتے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی اجازت نہیں ہے۔

ٹرین میں زیادہ جگہ روکنا

ٹرین کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے سے آ کر بیٹھ گیا تو اب آپ اس کو وہاں سے ہٹانہیں سکتے۔ جو لوگ پہلے سے جگہ روکتے ہیں؛ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ گر آپ پہلے آئے ہیں تو آپ بیٹھ جائیے، دوسروں کے لئے جگہ رکھنے کا آپ کو حق نہیں دیا گیا ہے، دوسرا جو بھی آرہا ہے وہ نکٹ لے کر آرہا ہے، اس کا بھی پورا پورا حق ہے۔ پہلے جہاں کھانے کا مسئلہ آیا تھا وہاں پوری تفصیل بتلادی تھی۔ بعض لوگ زیادہ جگہ روکتے ہیں؛ اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر جگہ پر ہو گئی ہے تو کسی کو اٹھا تو نہیں سکتے، لیکن جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذرا کھسک کر اور پھیلاو کم کر کے آنے والے کے لئے جگہ کر دیں اور کچھ گنجائش نکال لیں؛ تو البتہ اس کی اجازت ہے، اگر جگہ میں گنجائش ہو تو ان بھی کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ خوب چوڑے ہو کر بیٹھتے ہیں، بعد میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ کھڑے رہتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب پریشان ہیں تب بھی ذرہ برا بر حرکت کرنے کا نام نہیں لیتے؛ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ان کے لئے گنجائش نکال دیجئے، ہاں! آپ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں، لیکن آپ نے زیادہ کشادگی سے جو فائدہ اٹھا رکھا ہے، تو اپنے بھائی کے لئے ذرگنجائش نکال لو۔

اگر کوئی اپنی جگہ ہمارے لیے چھوڑ دے

تیسری بات یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاندانی یا علمی لحاظ سے کسی فضیلت کا

حامل کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے اکرام و ادب کے طور پر، یا اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آدمی اٹھ جاتا ہے، اور اس سے اپنی جگہ بیٹھنے کے لئے درخواست کرتا ہے۔ تو اگر بغیر کسی جبرا اور دباؤ کے از خود اٹھ گیا ہے تب تو الگ بات ہے۔ لیکن بعض مرتبہ عقیدت مندوگ زبردستی اٹھواتے ہیں کہ: حضرت آر ہے ہیں، یہ جگہ خالی کرو؛ ایسا کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ وہ دیکھ کر از خود اٹھ جائے، یا اس کو متوجہ کیا گیا اور وہ اپنی مرضی سے اٹھا؛ تو دوسری بات ہے۔ لیکن اگر اٹھنے کے لیے اس کا جی تو چاہتا نہیں تھا ان لوگوں نے زبردستی قبضہ کر لیا؛ تو یہ صحیح نہیں ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول بتلا یا گیا کہ اگر کوئی آدمی از خود اٹھ جاتا تب بھی آپ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، وہ خیال فرماتے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ شرما حضوری میں کھڑا ہو گیا ہو۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے دل تو نہیں چاہتا، لیکن اگر نہ اٹھے تو اچھا بھی نہیں لگتا، اس لیے بادل ناخوستہ اٹھ جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مزید احتیاط اور تقویٰ کے پیش نظر اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے، باقی مسئلہ یہی ہے کہ وہ از خود اٹھا ہو، تو اس نے اپنا حق آپ کے لئے چھوڑ دیا، اس لیے آپ بیٹھ سکتے ہیں۔

ایثار بالقرّب

ایک بات اور ہے، مثلاً: ایک آدمی پہلے سے آ کر مسجد میں پہلی صفائی میں بیٹھا ہوا ہے، تو اب وہ کسی دوسرے کے لئے پہلی صفائی جگہ حنالی کرے؛ جو "ایثار بالقرّب" کہلاتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں اپنے آپ پر دوسروں کو تجزیہ دینا؛ یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو فقهاء نے اس پر مستقل کلام کیا ہے کہ دو صورتیں الگ الگ ہیں۔ ایک

صورت تو یہ ہے کہ اپنی ضروریات و خواہشات کی تکمیل کے معاملہ میں ایثار سے کام لینا، مثلاً: میں کھانا کھارہا ہوں، اور آپ آگئے تو میں نے کھانا چھوڑ دیا اور آپ کے لئے پیش کر دیا، آپ کو اپنے اوپر ترجیح دی؛ یہ تو اچھی بات ہے اور نیکی کا کام ہے۔ قرآن پاک میں اس پر تعریف کی گئی ہے: ﴿يُؤْتِرُونَ عَلٰى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ هُمْ حَصَادَةٌ﴾ ان چیزوں میں تو اپنی خواہش کے مقابلہ میں دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ پہلی صفت میں آپ کو موقع ملا تھا جو ایک عبادت کی چیز ہے، آپ اس کو چھوڑ کر وہ جگہ دوسرے کو دے رہے ہیں؛ تو اس پر فقہاء نے کلام کیا ہے۔ بعض تو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ عبادت کے معاملہ میں بے پرواہی برتر ہے ہیں، گویا آپ یہ سمجھ کر ہٹ رہے ہیں کہ مجھے پہلی صفت کی ضرورت نہیں ہے؛ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ: اپنے آپ کو پہلی صفت کا محتاج صحیح ہوئے اکراماً اگر کوئی آدمی اپنی جگہ خالی کرے؛ تو اس کی گنجائش ہے۔ ہاں! جہاں خالص عبادت کا معاملہ ہو وہاں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

پہلے بیٹھنے والا زیادہ حق دار ہے

۸۲۶:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَاتَمْ أَحَدُكُمْ مِنْ هَجْلِيسٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی آدمی جب مجلس سے اٹھا، پھر لوٹ کر آیا؛ تو وہ اس کا زیادہ حق دار ہے۔

افادات: - یہاں دوسرے مسئلہ بتا رہے ہیں کہ مثلاً: ایک آدمی مسجد میں آکر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، ابھی نماز نہیں ہوئی ہے اور اس کو کوئی عذر پیش آگیا، جیسے پیشاب

کا تقاضا ہوا، یا ضمۇلۇت گیا، تو وہ مجبوراً اپنے اس تقاضہ کو پورا کرنے کے لئے اٹھ کر گیا، اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسی شکل اختیار کی کہ جس سے لوگ یہ سمجھیں کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے، جیسے: اپنا رومال، قلم، یا کوئی اور چیز رکھ دی، تو چوں کہ وہ پہلے سے بیٹھا ہوا تھا اس لیے اس جگہ کا وہی حق دار ہے، وہ وضو کرنے کے لئے گیا اس دوران کوئی آدمی آ کر وہاں بیٹھ گیا تو یہ اس کو وہاں سے اٹھا سکتا ہے، اس لئے کہ یہ اپنی اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بلکہ مجبوری کی وجہ سے وضو کرنے کے لیے گیا تھا، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم سب بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایسا معاملہ ہر دوسرے میں بہت پیش آتا ہے کہ کوئی آدمی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہو اور پیشاب کے لئے جائے، تو سارا ڈبہ کھڑا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کی جگہ پر اپنا حق نہیں سمجھتا، جب وہ واپس آتا ہے تو لوگ خود سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چھوڑ کر نہیں گیا تھا، اس لیے اس جگہ پر اسی کا حق ہے۔ ہاں! اگر اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا ہو، اور کوئی ایسی علامت بھی نہیں رکھی تھی، بلکہ اس کے انداز ہی سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ جگہ چھوڑ کر جارہا ہے، تو اب وہ کسی کو نہیں اٹھا سکتا۔

اپنی جگہ رکوانا

بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ خود آئے بغیر کسی دوسرے کے ذریعہ سے جگہ پر قبضہ کرتے ہیں کہ کسی دوسرے نے اس کے لئے رومال رکھ دیا؛ تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ہاں! خود آکر بیٹھا ہو اور کسی وجہ سے جانے کی نوبت آئی ہو؛ تو اس صورت میں رومال وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔

بعد میں آنے والا مجلس کے کنارے بیٹھے

۸۲۷: وَعَنْ جَابِرَ بْنِ سُمَرَةَ ثَنِيَّ شَاعِلَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ

أَحْدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِيٌ۔ (رواہ أبو داود والترمذی وقال: حدیث حسن)

ترجمہ: - حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جب نبی کریم ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، تو جہاں مجلس ختم ہوتی تھی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔

افادات: - جیسے ہماری یہ مجلس پہلے سے لگی ہوئی ہے اور بعد میں کوئی نیا آدمی آیا جو لوگوں کو چیر کر آگے آنے کی کوشش کرے؛ تو یہ برا ہے۔ یہ تو سب لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہوا اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بلکہ شریعت یہ کہ جب آپ بعد میں آئے ہیں تو جہاں مجلس ختم ہو رہی ہے اور آخری آدمی جہاں بیٹھا ہے، وہیں بیٹھ جائیے؛ یہ بھی آداب مجلس میں سے ہے۔ چاروں کناروں کے آخری حصے میں جہاں بیٹھنا چاہو بیٹھو لیکن بیچ میں نہ آو۔ بیچ میں آنادوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے۔

لوگوں کو چیر کر آگے نہ بڑھے

۸۲۸:- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ سَلَيْلَانَ الْفَارَسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ، وَيَدِهِنُ مِنْ دُهْنِهِ، أَوْ يَمْسُّ مِنْ طَيِّبَتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا يُفْرِقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصْلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَمِيعَ الْأُخْرَى۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ: - حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی آدمی جمعہ کے روز غسل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق پا کی حاصل کرے (پورے جسم کی صفائی کرے) تیل لگائے، خوشبو (ہتو) استعمال کرے، پھر وہ اپنے گھر سے مسجد جانے کے لئے اس شان سے نکلے کہ مسجد میں پہنچنے کے بعد داؤ آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے (بیٹھے ہوئے لوگوں کو چیر کر آگے نہ جائے) پھر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی وہ نماز پڑھے (یعنی نفل، سنت) پھر امام

جب خطبہ دینے لگے تو خاموشی سے سنا تاہے؛ تو اس کے اس جمہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے سارے (صغیرہ) گناہ معاف ہوئی جائیں گے۔

افادات:- اس لئے کہ کبیرہ گناہ تو آدمی جب تک تو بہ نہ کرے وہاں تک معاف نہیں ہوتے۔

اس روایت کو صرف اس نکتہ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں اور لوگ صفائی بناؤ کر بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ ان کو چیر کر آگے نہ بڑھیں؛ اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر آگے کی جگہ ہیں خالی ہیں اور لوگوں نے پچھے صفائی بنالیں ہیں؛ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ: آگے کی جگہ ہوں کو خالی رکھ کر پچھے صفائی بنانے والوں نے گویا اپنی رعایت کا حق ختم کر دیا، یعنی ہمیں ان کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے تھی کہ ہم ان کو چیر کر آگے نہ جائیں، لیکن انہوں آگے جگہ ہیں حنالی چھوڑ کر اپنی رعایت کا حق خود ہی ختم کر دیا؛ اس لئے ایسی صورت میں کوئی آدمی لوگوں کو چیر کر آگے کی خالی جگہ ہیں پُر کرنا چاہے؛ تو کر سکتا ہے۔

دو کے نیچ میں نہ گھسے

۸۲۹: - وَعَنْ عُمَرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِدُ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِلَّا يَذْنِهِمَا۔ (رواہ أبو داود والترمذی).

(وقال: حدیث حسن)

وفی رواية لأبي داود: ((لَا يُجِدُ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلَّا يَذْنِهِمَا)).

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاصی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی آدمی کے لئے جائز نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان تفریق کرے؛ مگر ان

دونوں کی اجازت سے۔

افادات: - دوسری روایت کے الفاظ سے اس بات کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ دو آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آدمی آکر ان کے پیچ میں آڑ ڈال کر بیٹھ گیا؛ تو یہ برا سمجھا جائے گا۔ ان کی اجازت کے بغیر اس طرح پیچ میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لئے کہ اگر ان کی اجازت کے بغیر درمیان میں بیٹھے گا تو ان کے لئے ناگواری اور تکلیف کا باعث ہو گا، اور کسی مؤمن کو کسی بھی طرح تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔

حلقه کے پیچ میں نہ بیٹھ

۸۳۰ - وَعَنْ حَذِيفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ شَاءَ مِنْ جَلَسَ

وَسَطَ الْحَلْقَةِ . (رواہ أبو داود یا سناء حسن)

وروى الترمذى عن أبي هيجزٍ : أَنَّ رَجُلًا قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةً ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ : مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَّا شَاءَ اللَّهُ أَعْلَمُ . أَوْ لَعْنَ اللَّهِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ مَّا شَاءَ اللَّهُ أَعْلَمُ . مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلْقَةِ . (قال الترمذى: حدیث حسن صحيح)

ترجمہ: - حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس آدمی پر لعنت فرمائی جو حلقة کے پیچ میں بیٹھ جائے۔

دوسری روایت میں ہے: ایک آدمی حلقة کے پیچ میں آ کر بیٹھ گیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ایسا آدمی نبی کریم ﷺ کی زبانی ملعون ہے۔ یا یہ فرمایا: ایسے آدمی پر جو حلقة کے پیچ میں آ کر بیٹھ جائے نبی کریم ﷺ کی زبانی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

افادات: - مطلب یہ ہے کہ لوگ دائرہ بنائ کر گفتگو میں مشغول ہیں، بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی آدمی آکر ان سب کو چیز کرانے کے پیچ میں بیٹھ جائے، تو اس کو

ایسا نہ کرنا چاہیے تھا کہ اس سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی کرتا ہے تو ایسے آدمی پر لعنت ہے۔

آرام سے پہنچیں

٨٣:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ تَعَالَى يَقُولُ: ((خَيْرُ الْمَجَالِسِ أَوْسَعُهَا)). (رواها أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري)

ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: بہترین مجلس وہ ہے جس میں کشادگی ہو۔

اندادات:- یعنی بیٹھنے والے بغیر کسی تنگی کے آرام سے بیٹھیں، جگہ میں اگر وسعت ہے تو تنگی کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق آرام سے بیٹھے، تاکہ سب لوگ اخیر تک اطمینان سے بیٹھ سکیں، کسی کے لئے تکلیف اور پریشانی کا بھی باعث نہ ہو؛ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر مجلس فرمایا ہے۔

كفارة مجلس

— وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ جَلَسَ فِي كَثْرَةِ فِيهِ لَغْطَةٌ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ كَجْلِيسِهِ ذَلِكَ " سُجْدَانَكَ اللَّهُمَّ كَجْلِيسٌ فَكَثُرَ فِيهِ لَغْطَةٌ، أَنْ يَقُومَ مِنْ كَجْلِيسِهِ ذَلِكَ " إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا وَبَحْمَدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ " إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا تَكَانَ فِي كَجْلِيسِهِ ذَلِكَ . (رواه الترمذى . وقال: حديث حسن صحيح)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کوئی کسی مجلس میں بیٹھا اور اس میں بے ہودہ اور لا یعنی با توں کی کثرت ہوئی تو اگر اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے یہ پڑھ لے: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَعُوْذُ بِإِلَيْكَ، تو اس مجلس میں جتنی ہے ہودگی ہوئی؛ وہ سب اللہ تعالیٰ معاف کر دس گے۔

٨٣٣:- وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَأَخْرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ الْمَجْلِسِ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا إِلَهٌ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلًا مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيهَا مَضِيًّا؟ قَالَ: ((ذَلِكَ كَفَارًا قُلْلَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي الْمَجْلِسِ))

(رواہ الحافظ أبو عبد الله في "المستدرک" من روایة عائشة رضي الله عنها و قال: صحيح الإسناد)

ترجمہ:- حضرت ابو بزرہ اسلامی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی حیات طیبہ کے آخری زمانہ میں جب مجلس سے اٹھنے والے ہوتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ إِلَّا إِلَهٌ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ)) ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! آج کل (مجلس کے اخیر میں) آپ ایسی دعا پڑھتے ہیں جو پہلے نہیں پڑھتے تھے؟ (یعنی پہلے آپ کا اس دعا کے پڑھنے کا معمول نہیں تھا، اب آپ نے معمول بنالیا ہے) تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: مجلس میں جو بے ہود گیا اور لا یعنی ہو جایا کرتی ہیں؛ یہ دعا اس کے لئے کفارے کا کام دیتی ہے۔

غفلت کی تلافی

افادات:- ہر وہ مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، نبی کریم ﷺ کے اوپر درود نہ بھیجا گیا ہو، قیامت کے روز ایسی مجلس ان مجلس والوں کے لیے باعثِ حرمت ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جس مجلس میں بیٹھنے والوں کے اوپر شروع سے لے کر آخر تک ایسی غفلت طاری رہی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کی نوبت ہی نہیں آئی، نبی کریم ﷺ نے پر درود نہیں بھیجا گیا، تو وہ پچھتا گئیں گے کہ: کاش! اس مجلس میں ہم شریک نہ ہوئے ہوتے، اس حسرت کو دور کرنے کے لئے نبی کریم ﷺ نے ایک طریقہ بتا دیا۔ یہ بھی

نبی کریم ﷺ کی شفقت اور محبت کی بات ہے کہ امت کی طرف سے اگر غفلت کا ارتکاب ہو گیا تو اس کی تلافی کی شکل بھی بتلا دی۔

لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس مجلس میں جو صیرہ گناہ ہوئے ہیں وہ اس دعا سے معاف ہوں گے، اگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا گیا ہے، مثلاً: کسی کی غیبت کی گئی ہے، جھوٹ بولा ہے، کسی کی تحریر کی گئی ہے، کسی کا استہزاء اور ٹھٹھا کیا گیا ہے؛ تو کفارہ مجلس والی دعا سے بھی وہ معاف نہیں ہوں گے، ان کے لئے توبہ ضروری ہے۔ ویسے ”أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ“ اگر دل کی توجہ کے ساتھ، معنی کا استحضار کرتے ہوئے پڑھے گا؛ تو اس صورت میں وہ گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں۔

مجلس میں پڑھنے کی دعا

۸۳۲:- وَعَنْ أَبْنَى عَمْرٍ وَشِلْعَنْهَا قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مِنْ
مَجْلِسٍ حَتَّى يَدْعُوَ بِهِ لَوَاءَ الدَّعَوَاتِ: أَللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيتَكَ مَا تَحُولُ بِهِ
بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتَكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنْ الْيَقِينِ مَا
تُهُونُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَابِيبُ الدُّنْيَا، اللَّهُمَّ مَتَّعْنَا بِأَسْمَاءِ عِنْدَنَا، وَأَبْصَارِنَا، وَقُوَّتَنَا مَا
أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ شَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصَرَنَا عَلَى مَنْ
عَادَنَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمَنَا، وَلَا مَبْلَغَ
عَلِيْنَا، وَلَا تُسْلِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يُرِحْ حُمَنَا۔ (رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کسی مجلس سے بہت کم اٹھتے تھے مگر دعا کے یہ کلمات ضرور پڑھ کر لیا کرتے تھے (گویا آپ ﷺ کا معمول اس دعا کا بھی تھا) اے اللہ! اپنی اتنی خشیت اور اتنا خوف ہمیں عطا فرما جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے

درمیان رکاوٹ بن جائے، اور اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی اتنی توفیق عطا فرماجس کے ذریعہ تو ہمیں جنت تک پہنچا دے، اور ہمیں یقین کی اتنی مقدار عطا فرماجس کے ذریعہ دنیا کی مصیبتوں ہمارے لئے آسان کر دے۔ اے اللہ! تو ہمارے کالنوں، ہماری آنکھوں اور ہمارے دوسراے قوی کے ذریعہ ہمیں فائدہ پہنچا جب تک کہ تو ہمیں زندہ رکھے (اور ان سارے اعضاء کو ہمارے بعد تک باقی رکھ) اور ہمارا اوراث بنا۔ اور ہمارا انتقام ان لوگوں پر رکھ جو ہم پر ظلم کریں، اور جو ہم سے عداوت و شمنی رکھنے والے ہیں ان کے مقابلہ میں تو ہماری مدد کر۔ اور ہمارے دین کے اندر کوئی نقص اور کمی نہ آنے دے۔ دنیا کو ہماری فکروں کا غالب حصہ، اور ہماری کوششوں کی انتہا نہ بننا۔ اور جو ہم پر رحم نہ کریں ایسے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ فرم۔

گناہ کیوں ہوتا ہے؟

افنادات:- اس دعا کے اندر چند باتیں قابلِ توجہ ہیں:-

۱۔ آدمی گناہوں کا جوار تکاب کرتا ہے وہ خوف و خشیت کی کمی کی وجہ سے کرتا ہے، اس لیے سوال کیا گیا کہ: ہمیں اپنا اتنا خوف عطا فرمما کہ تیرے اس خوف کے نتیجہ میں ہم تیری نافرمانی سے باز رہیں۔ نیز یہ بھی غور کرنے کا مقام ہے کہ خوف کے لئے حد بندی کر دی گئی کہ اتنا ہی خوف عطا فرمانا جو نافرمانی سے باز رکھنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ بھی خوف اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آدمی ما یوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے؛ تو وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے خوف کی اتنی ہی مقدار مطلوب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے آدمی کو باز رکھنے والی ہو۔

ٹینشن کی وجہ: یقین کی کمی

۲۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری پر ملنے والے اجر و ثواب کا، اور پیش آنے

وائلے حالات و آزمائشوں پر اللہ تعالیٰ کے یہاں جو اجر و ثواب ملنے والا ہے اس کا بھی اتنا زیادہ استحضار اور اعتماد یقین ہو کہ ذرا سی بھی تکلیف اور بیماری آئی، سر میں درد ہوا، یا اور کوئی نقصان ہو گیا؛ تو سوچ کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں مجھے اجر ملے گا۔ اگر آدمی یہ سوچ لے تو سارے حالات اور پریشانیاں اس کے لئے آسان ہو جائیں۔ نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں: مَوْمَنُ كُوكَنْثَا بَهِيْ چَجَتَاهُ تَهُ تَوَسَّلَ بِاللَّهِ تَبارَكَ وَتَعَالَى كَيْ طَرَفَ سَيِّدَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ فَعَلَهُ مُصِيبَةً مُونَّ تَرَضِ أَوْ حُزْنٍ أَوْ حُجْوَذَلَكَ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاهِدُهَا

(صحیح مسلم: ۶۴۶، باب ثواب المؤمن في عاصي صبيحة من ترزق أَوْ حُجْوَذَلَكَ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاهِدُهَا) حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دنیا میں جن لوگوں پر مصیبیں اور بیماریاں آئیں تھیں ان کو قیامت کے روز جب اجر و ثواب ملے گا؛ اس کو دیکھ کر عافیت والے لوگ۔ جن پر دنیا میں کوئی مصیبہ نہیں آئی تھی۔ تمنا کریں گے: کاش! دنیا میں ہمارے جسموں کو قیچیوں سے کاٹا جاتا سن ترمذی: ۲۵۸۲، باب من أحديهوم إلا نعم، مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ یقین بن جائے کہ جو بھی مصیبہ آتی ہے وہ فائدہ سے خالی نہیں ہے، مثلاً: تجارت نہیں چل رہی ہے، تو آدمی یہ یقین رکھے کہ کوئی بات نہیں، یہ مصیبہ ہمارے لئے آخرت کے اجر و ثواب کا باعث ہے، تو کبھی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوگا۔ جتنے بھی ٹینشن ہیں؛ وہ یقین کی کمی کی وجہ سے ہیں۔

مرتے دم تک تمام قوی سلامت رہیں

■ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ابھی مرانہیں کہ اس سے پہلے ہی بینائی رخصت ہو جاتی ہے، شنوائی یعنی سننے کی صلاحیت رخصت ہو جاتی ہے، دوسراے اعضاء جیسے ہاتھ پاؤں جواب دینے لگتے ہیں، دماغ کی قوت، حافظہ جواب دینے لگتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر آدمی کے قوی جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، وہ سارے

بڑھاپے میں دھیرے دھیرے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؛ تو نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی: اے اللہ! جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اس وقت تک ہماری ساری صلاحیتیں برابر کام کرتی رہیں، کسی میں کوئی کمی نہ آئے، کان اپنا کام کرتے رہیں، آنکھیں اپنا کام کرتی رہیں، دوسرے قوی اپنا کام کرتے رہیں؛ بلکہ ہم جب دنیا سے جائیں تو وہ موجود اور باقی ہوں۔ ان کو دارث بنایعنی اخیر زندگی تک باقی رکھ۔

دین پر مصیبت نہ آئے

﴿۲﴾ اور ہمارے دین کے اندر کوئی نقص اور کمی نہ آنے پائے۔ مصیبت کا اثر اگر دنیا پر پڑا کہ تجارت میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی اور بیماری آگئی، تو وہ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن جو مصیبت دین کے معاملہ میں آئی، جیسے: پہلے نمازوں کی پابندی تھی، اب نمازیں چھوٹنے لگیں، جماعت چھوٹنے لگی، تلاوت کا اہتمام تھا، لیکن اب وہ اہتمام باقی نہیں رہا؛ اسی کو مانگا گیا کہ: اے اللہ! یہ مصیبت نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔

دنیا کی فکر غالب نہ ہو

﴿۳﴾ اور دنیا کو ہماری فکروں کا غالب حصہ نہ بنا، اور نہ ہماری کوششوں کی انتہا بنا۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ جب بھی ہم کچھ سوچیں تو دنیا ہی کو سوچیں، اور جو بھی محنتیں کریں؛ دنیا ہی کے لئے کریں، بلکہ دنیا کے لئے ہماری سوچ اور ہماری محنت ضرورت کے بقدر ہو، باقی ساری سوچ اور محنت آخرت کے لئے ہو۔

﴿۴﴾ اے اللہ! جو لوگ ہم پر حرم نہ کریں ایسے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ معلوم ہوا کہ جو بے رحم دشمن مسلط کیے جاتے ہیں وہ ہمارے گناہوں ہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ یہ دعا مانگتا رہے۔

باعثِ حسرتِ مجلس

۸۳۵: - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ فَجْلِيسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ حِيفَةِ حَمَارٍ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً۔ (رواہ أبو داود بسناد صحيح)

ترجمہ: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو، تو وہ اس مجلس سے ایسے اٹھتے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھتے ہوں، اور یہ مجلس ان کے لئے قیمت کے روز حسرت کا باعث ہوگی۔

جس مجلس میں ذکر نہ ہو

۸۳۶: - وَعَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا جَلَسَ قَوْمٌ فَجْلِيسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ، وَلَمْ يُصْلُوا عَلَى تَبِعِيهِمْ فِيهِ، إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ، فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ۔ (رواہ الترمذی، و قال: حدیث حسن)

ترجمہ: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مجلس بھی ایسی لگائی جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا، اور جس میں ان کے نبی ﷺ پر درود شریف نہ پڑھا گیا؛ وہ مجلس ان پر و بال ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس پر ان کو عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔

دستِ بکار، دل بیار

۸۳۷: - وَعَنْهُ، عَنِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ

تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مُضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةٌ . (رواہ أبو داود)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: جو آدمی ایسی جگہ بیٹھا جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا گیا؛ تو وہ بیٹھک اس کے لیے و بال ہو گی۔ اور جو کہیں لیٹا جس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کیا گیا؛ تو وہ لینا اس کے لئے و بال ہو گا۔

افنادات:- اس لیے جو بھی مجلس ہوا س میں آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ: دل کا حال وہی ہونا چاہیے جو ”قطب نما“ کا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ”قطب نما“ تو دیکھا ہو گا! اس کو آپ کسی بھی حالت میں رکھو؛ اس کی سوئی ہمیشہ شمال کی طرف ہی رہتی ہے۔ اسی طرح ہم بھی کیسی ہی مجلس میں ہوں، دوستوں میں ہوں، اپنے کاروبار میں مشغول ہوں؛ بس! ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ رہے، اسی کی طرف ہمارے دل کی سوئی لگی رہے؛ تب ہی قلب کو سکون حاصل ہو گا اور یہی مطلوب ہے۔ می کریم ﷺ نے جتنی بھی دعائیں بتلائی ہیں کہ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو، آخر میں یہ دعا پڑھو، سونے سے پہلے یہ دعا پڑھو، اٹھو تو یہ دعا پڑھو، اور بھی جو دعائیں رکھی گئی ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ آدمی کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو۔ ہر کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی یاد کر لی، پھر آخر میں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کر لی؛ تو پیچ والے حصہ میں اگر کچھ غفلت بھی رہی؛ تو اس کی تلافی ہو جائے گی، اور شروع اور آخر کی وجہ سے ان شاء اللہ وہ معاف ہو جائے گی۔

دن کے شروع میں اللہ تعالیٰ سے عہد

بعض بزرگ فرماتے ہیں: آدمی صبح کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھے بیٹھے

اپنے معمولات پورے کر کے جب اُٹھنے والا ہو، تو اُٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر لے: "أَللَّهُمَّ إِنَّ صَلُوتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي إِلَيْكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ" اے اللہ! میری نماز، میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا؛ تیرے ہی لیے ہے۔ اے اللہ! آج کے دن میں ابھی اُٹھنے سے لے کر شام کو سونے تک میں جو کچھ بھی کروں گا؛ میرے سارے کام تیرے ہی لیے ہوں گے۔ اس طرح ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عہد کر لے، پھر دن بھر کوشش میں لگا رہے اور ادھر دھیان رہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کی نوبت نہ آئے۔ ویسے عہد کر لیا یہ بھی ان شاء اللہ کافی ہو جائے گا۔ اگر اس کا اہتمام کر لے گا تو ان شاء اللہ یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی مجلس اللہ تعالیٰ کی یاد، اور نبی کریم ﷺ پر درود سے خالی نہ ہو۔ درود شریف بھی ایک طرح کا عمدہ ذکر ہی ہے۔

باب الرؤيا وما يتعلق بها

خواب اور اس سے متعلقہ

چیزوں کا بیان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سو نے اور مجلس کے آداب کا بیان چل رہا تھا۔ آدمی خواب سونے کی حالت ہی میں دیکھتا ہے، اسی مناسبت سے خواب اور اس کے متعلقات کو بیان فرماتے ہیں۔

اچھے خوابوں کی حیثیت

۸۳۸:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا مُبَشِّرَاتٍ. قَالُوا: وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ؟ قَالَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

(رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سننا: نبوت میں سے سوائے مبشرات (خوش کرنے والی خبروں) کے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ صحابہ کرام علیہم السلام نے عرض کیا: مبشرات (خوش کرنے والی خبریں) کیا چیز ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اچھے اور نیک خواب۔

جوز بان کا سچا؛ وہ خواب کا بھی سچا

۸۳۹:- وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا افْتَرَبَ الظَّمَانُ لَمْ تَكُنْ رُوْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِيبٌ، وَرُوْيَا الْمُؤْمِنِ مِنْ جُزُءِ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوَّةِ. (متتفق علیہ)

وفرواية: أَصَدَقُكُمْ رُوْيَا. أَصَدَقُكُمْ حَدِيثًا.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمادے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب زمانہ قریب ہوگا تو مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا، اور مؤمن کا خواب نبوت کے چھیا لیں حصول میں سے ایک حصہ ہے۔

ایک اور روایت میں یہ بھی ہے: تم میں سب سے زیادہ سچا خواب اس کا ہے جس کی بات سچی ہو۔

افادات:- لیعنی جوزبان کا سچا وہ خواب کا بھی سچا ہے۔ گویا آدمی کی زبان کی سچائی کا اثر خوابوں پر بھی پڑتا ہے۔ جوزبان کا جھوٹا ہوتا ہے اس کو خواب بھی جھوٹے ہی نظر آتے ہیں۔

چھیا لیسوں حصہ کا مطلب

خواب کو نبوت کا چھیا لیسوں حصہ جو بتلایا گیا، علماء نے اس کی ایک توجیہ یہ لکھی ہے کہ جب نبی کریم ﷺ پر وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب دکھانے شروع ہوئے، جیسا کہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اور بعض دیگر روایتیں ہیں، اور جو چیز آپ خواب میں دیکھتے تھے، بیداری میں وہ چیز بالکل صحیح کی روشنی کی طرح واضح ہو کر سامنے آ جاتی تھی، لیعنی وہ خواب ایک دم سچا ہو جاتا تھا، اور وہ واقعات جن کی طرف خواب میں آپ کی رہنمائی کی جاتی تھی، قرتی زمانہ ہی میں بیداری میں آپ ﷺ اس کو سچا ہوتا دیکھا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ چھ مہینہ تک جاری رہا، پھر وحی کا آنا شروع ہوا۔ اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہاں سے وفات تک کا زمانہ تینیں سال کا ہے۔ تو چھ مہینوں کی نسبت تینیں سال کے ساتھ اگر دیکھی جائے تو وہ تینیں کا چھیا لیسوں حصہ ہوتی ہے، اسی مناسبت سے خواب کو نبوت کا چھیا لیسوں حصہ قرار دیا گیا ہے۔

نبی کا خواب وحی ہوتا ہے

اور نبوت کو نبوت جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہی بتلائی جاتی ہے کہ اس کا اصل مادہ ”نون، باء، همزہ“ ہے، اور بخرب کو عربی زبان میں ”بَأْ“ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے اپنے بندوں میں سے بعض کو چن لیا جاتا

ہے، پھر فرشتوں کے ذریعہ اور دوسرے طریقوں سے ان پر وحی بھیجی جاتی ہے جو وہ لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ وحی کے مختلف طریقے ہیں، کبھی فرشتہ بھیجا جاتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے، کبھی خواب کے ذریعہ وہ چیز بتلاتی جاتی ہے۔ تو وہ شخصیت جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبریں آتی ہوں؟ ان کو ”نبی“ کہا جاتا ہے۔

اور جن مختلف طریقوں کے ذریعہ ان شخصیات کو غیب کی خبریں بتلاتی جاتی ہیں ان میں ایک طریقہ سچے خواب کا بھی ہے، اور سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جھوٹے اور ڈراوے نے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان بندہ مؤمن کو پریشان کرنے اور ڈرانے کے لئے یہ تدبیر اختیار کرتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ سچے خوابوں کے ذریعہ بعض وہ واقعات اور حالات جو مستقبل کے زمانہ میں پیش آنے والے ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ بندہ مؤمن کو آگاہ کر دیتے ہیں۔

تونبی کے حق میں خواب بھی وحی کا ایک طریقہ ہوا کرتا ہے، اس لئے نبی کا خواب وحی کے حکم میں ہے، جیسے: حضرت ابراہیم علیہ السلام اصلوۃ و السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو اس کو وحی سمجھ کر اس کا تذکرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کو جو باقی پہنچائی جاتی تھیں، اس کا ایک طریقہ یہ بھی تھا۔ اب بتوت تو ختم ہو چکی، نبی کریم ﷺ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والے نہیں ہیں، لیکن کائنات میں پیش آنے والے بعض واقعات سے متعلق بعض چیزوں کا اشارہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے نیکے بندوں کو سچے خواب کے ذریعہ دیدیتے ہیں، اس معنی کر سچے خواب بتوت کا چھپا لیسوں

حصہ ہیں، اسی کو مبشرات سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ کسی نے کسی کے حق میں، یا اپنے حق میں کوئی اچھی چیز دیکھی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کو دوسرا کے حق میں کوئی چیز دھلائی جاتی ہے کہ فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر اور بھلائی پہنچنے والی ہے، پھر وہ بیان کرتا ہے کہ فلاں کے متعلق میں نے یہ خواب دیکھا؛ تو یہ بھی مبشرات کے قبیل سے ہی ہوتا ہے۔

خواب شرعی جحت نہیں

لیکن خواب کے معاملہ میں ایک بات یاد رہے کہ اس کو اس کی حد میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا مزاج اس سلسلہ میں دو طرح کا ہے، بعض تو وہ ہیں جو اس کے اوپر بالکلیہ اعتبار اور اعتماد نہیں کرتے اور اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے؛ یہ بھی صحیح نہیں ہے جبکہ نبی کریم ﷺ اس کو نبوت کا چھپا لیسوں حصہ فرماتے ہیں، اور خوش کرنے والی کوئی چیز اگر خود دیکھے، یا کوئی دوسرا دیکھے، تو اس کو نبی کریم ﷺ مبشرات فرماتے ہیں؛ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی درجہ اور مقام تو ہے۔ لیکن اتنا بھی نہیں جتنا کہ آج کل بعض لوگ دیتے ہیں اور خواب میں دیکھی ہوئی چیز کے متعلق یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے وحی کے ذریعہ سے آئی ہوئی چیز سو فیصد پختہ ہوا کرتی ہے ایسے ہی یہ خواب کی چیز بھی ہے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ کسی کا بھی خواب شرعی طور پر جحت نہیں بن سکتا۔ نیک آدمی بھی جو خواب دیکھے اس کا وہ خواب شرعی جحت اور دلیل نہیں ہے۔

کیا اچھا خواب دیکھنے کے بعد اعمال چھوڑ دے

تو یہ خواب بندہ مومن کو خوش کرنے کا کام کرتے ہیں، اس سے آدمی اپنے حق

میں اچھی امید یہ اور توقعات تو قائم کر سکتا ہے، اور خواب دکھانے جانے کو۔ چاہے اس کو دکھلایا گیا ہو یا کسی اور کو دکھلایا گیا ہو۔ اپنے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فال نیک سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے خواب ہی پر اعتماد کر کے بیٹھ جانا، اور یوں سمجھ لینا کہ خواب میں یہ چیز دکھلائی گئی، اس لئے اب یہ مقام اور مرتبہ مجھ کو مل ہی گیا، اب مجھے کسی عمل کی ضرورت نہیں؛ تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور نہ ایسے خواب کا اتنا مقام ہے۔ اصل مدارنجات آدمی کے بیداری کے اعمال پر ہے۔

بعض لوگ اپنے خواب کی وجہ سے یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا مرتبہ حاصل کر لیا۔ حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب سرہندی مجددی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت مجدد الف ثانی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت مجدد صاحب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کے جانشین مقرر کئے گئے تھے، ان کے مکتوبات میں ہے، کسی مرید نے کوئی خواب دیکھا تو اس کو تنبیہ فرمائی کہ: اگر خواب میں کسی کے سرپرستاج شاہی رکھ دیا گیا؛ تو کیا اس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن گیا؟ یعنی میں اور آپ اگر خواب میں یہ دیکھیں کہ ہم کو وزارتِ عظمیٰ کی کرسی مل گئی ہے؛ تو کیا دوسرے دن اٹھ کر یوں کہیں گے کہ میں وزیرِ اعظم بن گیا؟

اچھے خواب کا اشتہار نہ دے

اس لیے خواب کی وجہ سے آدمی اپنے متعلق بہت زیادہ خوش فہمی میں نہ رہے، اور اس کی وجہ سے اعمال کی طرف سے غفلت بر تنا بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ جیسے کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لئے جنت کا فیصلہ کر دیا تو ساری دنیا میں اس کا اشتہار دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اس خواب کی وجہ سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید قائم کرے، لیکن اعمال میں کوتاہی نہ کرے، بلکہ اور

زیادہ اعمال کا اہتمام کرے۔

اور خواب تو اپنی جگہ پر خواب ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کتنا اونچا مقام رکھتے تھے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑے اولی بھی ادنی سے ادنی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابہ میں سب سے اونچے مقام پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد تمام انسانوں میں سب سے فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کیفیت

ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اعمال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جو روزے رکھنے والے ہیں ان کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور فلاں عمل کرنے والے کو فلاں دروازہ سے داخل کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نیکی کے مختلف اعمال کرنے والوں کو اسی نیکی کی مناسبت سے جنت کے اُس دروازہ سے داخل کیا جائے گا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! جس کے حق میں جنت کے ایک دروازہ سے بھی داخل ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا تو اس کو ضرورت نہیں ہے کہ دوسرے دروازہ سے جائے، اس کی نجات کے لئے وہ بات کافی ہے، لیکن پوچھنے کی حد تک میں پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ایسا بھی اللہ کا بندہ ہو گا جس کو جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں! اور امید کرتا ہوں کہ وہ آپ ہوں گے (بخاری شریف، باب الریان للصائمین) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں،

حالاں کہ یہ وہ حضرات تھے جن کو نبی کریم ﷺ نے اپنی زبانِ مبارک سے جنت کی خوشخبری اس سنا تھیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اس کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے تھے: کاش! میں کوئی سبزہ ہوتا جس کو کوئی جانور کھا جاتا۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا: اے عمر! تم جس گلی سے گذرتے ہو شیطان راستہ بدلتا ہے (بخاری و مسلم) لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جو حضور اکرم ﷺ کے راز دار تھے، جن کو نبی کریم ﷺ نے تمام منافقین کے نام بتلائے تھے۔ کہتے تھے: اے حذیفہ! ذرا بتلو! آپ کو حضور ﷺ نے منافقین کی جو فہرست بتلائی ہے اس میں کہیں عمر کا نام تو نہیں؟

جن حضرات کو حضور ﷺ نے بالمشافہ جنت کی خوشخبری اس سنا تھیں۔ لعوذ باللہ! ایسا نہیں تھا کہ ان کو حضور اقدس ﷺ کے ارشادات پر شک و شبہ ہو، بلکہ آپ ﷺ کی باتوں پر ان حضرات کو ایسا لقین تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن حضور ﷺ کی زبانِ مبارک سے براہ راست ان خوشخبریوں کو سننے کے باوجود وہ لوگ اعمال کے معاملہ میں غفلت نہیں بر تھے تھے، اور اپنے معاملہ میں کسی خوش فہمی میں بمتلا نہیں رہتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے۔

اور ہمارا حال یہ ہے کہ کسی ایک نے آکر سنادیا کہ آپ کے متعلق میں نے خواب دیکھا کہ آپ تو بڑے اوپنچے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور نور کی بارش ہو رہی ہے؛ تو بس! ہم ایسے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کسی عمل کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ یہ بڑا

خطرناک معاملہ ہے۔ جو آدمی ایسے خواب سننے کے بعد اعمال کی طرف سے غفلت برتبے، اس کے لئے بڑی ہلاکت کی بات ہے، حالاں کہ ایسا خواب سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اعمال میں مزید کوشش کرنی چاہیے۔

شیطان اور شیخ جبیلان رحمۃ اللہ علیہ

بعض مرتبہ بیداری میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی تب بھی اللہ کے مخصوص بندے اس معاملہ میں غفلت سے کام نہیں لیتے تھے۔ سیدنا حضرت عبد القادر جبیلی^{رض} کے متعلق لکھا ہے کہ: ایک مرتبہ آپ عبادت میں مشغول تھے، اچانک ایک بادل نظر آیا، پھر ایک نور نظر آیا اور اس نور کے اندر سے ایک آواز آئی: اے عبد القادر! تم پر سے ہم نے احکام کو اٹھالیا، اب شریعت کے احکام کے آپ مکلف نہیں رہے؛ آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ شریعت کے احکام تو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ سے نہیں اٹھائے، صحابہ کرامؓؓ جن کا اتنا اونچا مقام تھا، ان سے بھی یہ معاف نہیں کئے گئے؛ تو میرے اوپر سے یہ چیزیں کہاں معاف ہو سکتی ہیں؟ چنان چہوراؤ انہوں نے لا حول پڑھا اور کہا: اے مردود! ہٹ جا، مس اتنا کہنا تھا کہ ایک دم اندر ہیرا سا چھا گیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی: اے عبد القادر! آپ اپنے علم کی وجہ سے نجّ گئے؛ ورنہ میں نے اس طریقہ سے بہت سے نیک بندوں کو گمراہ کیا ہے۔ حضرت نے کہا: اے مردود! میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے نجّ سکا۔ عارفین لکھتے ہیں کہ یہ دوسرا دو پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مبشرات اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اعمال کے سلسلہ میں کوتا ہی برتبے۔ اگر کسی کے متعلق

کوئی چیز نظر آئے تو اس کو اپنے متعلق اللہ تعالیٰ سے امید یں تو قائم کرنی چاہئیں، لیکن پھر اعمال کے اندر ذرہ برابر کوتا ہی سے کام نہ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور عمل کے اندر اور زیادہ مشغول رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوائی گئی یہ بشارت اس کے لئے حقیقت اور فال نیک ثابت ہو۔ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ جب قیام اللیل میں مجاہدہ فرماتے اور حضرت عائشہ صدیقہؓ پر خدا عرض کرتیں کہ آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرمادیا ہے، تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”أَفَلَا كُونَ عَبْدًا شَكُورًا“

خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کے لیے کوئی عمل کرنا

۸۲۰:- وعنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَسَيِّرْ أَنِي فِي الْيَقَظَةِ -

فِي الْيَقَظَةِ - أَوْ كَأَمَارَ أَنِي فِي الْيَقَظَةِ - لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي .

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا؛ وہ مجھے بیداری میں دیکھے گا۔ یا یہ فرمایا: گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، اس لئے کہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔

افادات:- حضور اکرم ﷺ کو خواب میں دیکھنے کے سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر کسی کوشش کے حضور اکرم ﷺ کی زیارت خواب کے اندر نصیب ہو جائے؛ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ باقی اس کے لئے اعمال کا اہتمام کرنا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں نماز پڑھی اور پھر اتنی مرتبہ درود پڑھا؛ تو حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہو گئی۔ تو اس سلسلہ میں علماء کے بھی دو گروہ ہیں، بعض حضرات نے اس کے لئے وظیفہ بھی بتلائے ہیں، خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کرنے کی اجازت دیتے تھے۔

زیارت کا بہترین عمل

اور بعض حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ تکلف کر کے ان چیزوں کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بجائے آدمی بھی کریم ﷺ کی سنتوں کی پیروی کا اہتمام کرے، جتنا زیادہ اتباع سنت کا اہتمام کرے گا؛ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت بھی نصیب فرمادیں گے۔

ایک مرتبہ ایک آدمی نے آکر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکنی ﷺ سے عرض کیا: حضرت! کوئی ایسا وظیفہ بتلاد تھے کہ خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہو جائے۔ تو جواب میں حضرت حاجی صاحب ﷺ نے فرمایا: بھائی! بڑا حوصلہ ہے۔ ہمیں تو گنبدِ خضراء ہی خواب میں نظر آجائے؛ تو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ﷺ سے آکر کسی نے کہا: حضرت! دعا فرمادیجئے، یا کوئی وظیفہ بتلائیے کہ خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو حضرت نے بھی جواب میں یہی فرمایا: بھائی! جو تم کہہ رہے ہو وہ بڑی جرأت کی بات ہے، ہم تو بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں! ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے یا نہیں۔ زیارت کا جواب ہے: وہ ہم سے ادا ہو سکے گا یا نہیں۔

ایک تو یہ ہے کہ کسی سے ان کی ملاقات کا از خود مطالبہ کرے، تو وہاں تو آداب کی رعایت کرتے ہوئے جان پڑے گا۔ اور اگر کوئی بڑی شخصیت از خود اس کے یہاں آجائے، تو آداب کی توفیق بھی دی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر حضور اکرم ﷺ کی زیارت از خود کر دیں گے؛ تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آداب کی رعایت کی توفیق بھی دی جائے گی۔ لیکن اگر آدمی از خود اہتمام کرتا ہے تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ

کہیں کسی ادب کی ادائیگی میں کوتا ہی ہو جائے۔ اس لئے بعض حضرات اس معاملہ میں بڑی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت

ہمارے اکابر کا حال تو یہ تھا کہ مدینہ منورہ کی حاضری پر بھی روضہ مبارک پڑھتے ڈرتے حاضر ہوتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ: حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اقدام عالیہ کی طرف سے سلام پیش فرماتے تھے۔ یعنی جانی کے سامنے جو سوراخ بنے ہوئے ہیں جہاں سے عام طور پر صلوٰۃ وسلام پڑھا جاتا ہے وہاں سے تو حضور اکرم ﷺ کا چہرہ انور بالکل سامنے آتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کبھی ادھر سے سلام نہیں پڑھتے تھے، بلکہ قدم مبارک کی طرف سے سلام پڑھتے تھے۔ ایک دو مرتبہ حضرت مواجهہ شریف پر گئے تو کسی نے پوچھا: اس روز آپ کیوں تشریف لے گئے تھے؟ فرمایا: حضرت مولانا اسعد صاحب تھے، ان کے ساتھ گیا احتا، یا حضرت جی مولانا یوسف صاحب تھے؛ ان کے ساتھ گیا تھا، ورنہ مجھا کیلے کی جرأت نہیں ہوتی کہ کبھی سامنے جاؤں۔ ان حضرات کا تو یہ حال تھا۔ اس لئے خواب میں از خود دیکھنے کی کوشش کرنے کی اگرچہ گنجائش تو ہے، لیکن اس میں خطرات بھی بہت ہیں۔

اگر حضور ﷺ کو دوسرے حلیہ میں دیکھا

دوسرایہ کہ ”نبی کریم ﷺ کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے حضور ہی کو دیکھا، اس لئے کہ شیطان آپ ﷺ کی شکل نہیں بناسکتا“، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلہ میں متقدمین کے یہاں تو یہ بھت ا کہ نبی کریم ﷺ کا جو حلیہ شریفہ تھا (یعنی آپ کا چہرہ انور، آپ مبارک آنکھیں، اور آپ کے ہونٹ مبارک، اور آپ کی

دارِ حی مبارک، حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کی شکل و صورت اور آپ کا حلیہ مبارکہ جو کتابوں میں لکھا ہے) اگر اسی حلیہ شریفہ میں دیکھا ہے؛ تب تو صحیح ہے، ورنہ نہیں۔

چنان چہ شاہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے آکر ایک آدمی نے کہا: میں نے حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو اس سے پوچھا: اچھا بتلا؟! تم نے جس شخصیت کو خواب میں دیکھا؟ ان کا حلیہ کیسا تھا؟ جب اس نے حلیہ بیان کیا اور وہ ہو بہو، ہی تھا جو نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کا تھا؛ تب کہا: ہاں! تم نے حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کو دیکھا ہے۔ (شماہی ترمذی / باب: مَا جَاءَ فِي رُوْيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ)

اس لئے ہماری ایک جماعت جس میں بڑے بڑے اکابر ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما خود بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں: دیکھنے والے نے اسی حلیہ شریفہ میں دیکھا ہو جو آپ کا تھا؛ تب تو صحیح ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ: وقت نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کا جو حلیہ تھا اسی حلیہ میں دیکھا ہو؛ تب تو درست ہے۔ اگرچہ انہی میں سے بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ پوری حیاتِ طیبہ میں آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کا جو حلیہ رہا تھا، جوانی والا حلیہ میں دیکھا ہو یا بڑھا پے والے حلیہ میں دیکھا ہو، مطلب یہ ہے کہ پوری حیاتِ طیبہ کے کسی بھی دور میں آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کا جو حلیہ رہا ہے، اس میں سے کسی بھی حلیہ میں دیکھا ہو؛ تب تو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کو دیکھا، ورنہ نہیں۔ جب کہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ: ایسا نہیں ہے، بلکہ دوسرے حلیہ میں بھی اگر دیکھا ہو، اس صورت میں بھی کہا جائے گا کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کی کو دیکھا۔

چنان چہ ہمارے اکابر میں اس سلسلہ میں یہ تین خیال ہیں:-

[[۱]]:- حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: نبی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کا حلیہ جو کتابوں میں ہے، اس حلیہ میں دیکھا ہو تو دیکھا؛ ورنہ نہیں۔

تقریب: - حضرت شاہ رفع الدین صاحب رض فرماتے تھے: اپنے زمانہ کے اہل صلاح اور نیک لوگوں میں سے کسی کی شکل میں دیکھا ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دوسرا کسی شکل میں دیکھا ہو؛ تو نہیں۔

تقریب: - لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رض فرماتے ہیں: کسی بھی شکل میں دیکھا ہو، لیکن خواب دیکھتے وقت خواب دیکھنے والے کے دل کو یقین ہو کہ میں جس شخصیت کو دیکھ رہا ہوں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو چاہے جس شکل میں بھی دیکھا ہو، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔

دینداری جانچنے کا معیار

اب جو شکل دیکھی ہے وہ اگر ایسی ہے جو میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں ہے؛ تو کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلہ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دیکھنے والے کی دینداری میں کچھ کمزوری و کوتا ہی ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت آدمی کی دینداری کو جانچنے کا معیار ہے کہ وہ دینداری میں کس مقام پر ہے۔ چنانچہ نواب قطب الدین صاحب دہلوی رض نے مظاہر حق میں یہی بات لکھی ہے کہ اہل سلوک کے یہاں یہ ایک آلہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حلیہ میں دیکھا ہوگا اسی مناسبت سے اس کے متعلق اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اپنے تین میں کس مقام پر ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں: یہ حکم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ہے، یعنی میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک لوگوں کے درمیان موجود ہے آپ نے پرده نہیں فرمایا تھا، وہاں تک اگر کوئی آدمی کسی اور جگہ آپ کو خواب میں دیکھتا تو اس کے لئے گویا

حضرور ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس کو بیداری میں بھی میری زیارت کروائے گا۔ لیکن آپ ﷺ کی وفات کے بعد کسی نے دیکھا تو اس کے لئے یہ حکم نہیں ہے۔

روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی

حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ: حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں جو آدمی آپ ﷺ کو خواب میں دیکھتا تو یہ گویا اس کے لئے بشارت تھی کہ اس کو بیداری میں بھی دیکھنا نصیب ہو گا۔ اور اس زمانہ میں جس نے خواب میں دیکھا تو گویا یہ اس کے لئے اس بات کی بشارت ہے کہ اس کو روضہ اقدس کی زیارت نصیب ہوگی۔ بہر حال! حضرات علماء کے اس سلسلہ میں یہ سارے نظریات ہیں۔

شیطان کا حضور ﷺ کی شکل نہ بنانے کی وجہ

”لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي“، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر قدرت نہیں دی ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی شکل اختیار کرے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ”ہادی“ یعنی ”ہدایت دینے والا“ ہے۔ اور اللہ کا ایک نام ”مضل“، یعنی ”گمراہ کرنے والا“ بھی ہے۔ گمراہی بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہے، اور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ ہدایت اور ضلالت؛ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کے اسم ہادی کا مظہر ہیں، اور شیطان اللہ تعالیٰ کے اسم مضل کا مظہر ہے۔ تجوہ ذات اس کا مظہر ہوا اس کی شکل اختیار کرنے کی قدرت اسم مضل کے مظہر کو نہیں دی گئی۔

اچھا یا برا خواب دیکھے؟ تو کیا کرے؟

٨٢١:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدَّارِيِّ ثَنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَمْعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَى أَحَدُ كُمْرُوْيَا يُجِبُّهَا، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَيَحْمِدَ اللَّهَ عَلَيْهِ مَا، وَلَيُحَدِّثَ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا يُجِبُّهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ - وَإِذَا رَأَى غَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَيْكُرَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَيُسْتَعِدْ مِنْ شَرِّهَا، وَلَا يَذَرْ كُرْهًا لَا حَدِّ؛ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ (متفقٌ عَلَيْهِ) ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رض فرماتے ہیں کہ میں نے مجھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سن: تم میں سے کوئی آدمی جب ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہذا بیدار ہونے کے بعد اس پر اللہ کی حمد بیان کرے (الحمد للہ کہے) پھر جو آدمی ایسا ہو جو اس سے محبت رکھتا ہے اس کے سامنے اس کا تذکرہ کرے۔ اور اگر کوئی ایسا خواب دیکھے جو پسند نہیں ہے (برا خواب دیکھے) تو وہ شیطان کا اثر ہے، لہذا جب بیدار ہو تو شیطان کے شر سے پناہ مانگے (یعنی "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھے) اور پھر اس کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے؛ تو (ان شاء اللہ) اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچ گا۔

افادات:- اچھا خواب دیکھے تو اللہ کا شکردا کرے اور جو آدمی محبت رکھتا ہو اور جو خیر خواہ ہو؛ ایسے دوست کے سامنے تذکرہ کرے۔ کسی ایسے آدمی کے سامنے تذکرہ نہ کرے جو خیر خواہی نہیں کرتا، اس لئے کہ اچھا خواب ہمارے لئے اچھی علامت ہے، اور جو خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے کے سامنے اگر بیان کرو گے تو وہ خوش بھی ہو گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اچھی تعبیر بھی سوچ گا، اور جو برائی چاہنے والا ہو گا وہ اس کو سن کر مزید ضيق اور تنگی میں بنتا ہو گا، اور اس کا کوئی اچھا مطلب بھی نہیں لے گا؛ تو اس سے کچھ نقصان پہنچ سکتا ہے۔

براخواب شیطان کا اثر ہوتا ہے، اس کے نقصان سے بچنے کی ترکیب یہی ہے کہ جب سوکرا ٹھے تو "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ بائیں طرف تین مرتبہ تھنھ کار دے، اور پھر اس کا کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے؛ تو ان شاء اللہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

بعض لوگ کوئی براخواب دیکھتے ہیں تو درتے رہتے ہیں، حضور اکرم ﷺ نے اس خواب کے شر سے بچنے کا بہترین طریقہ بتلا دیا کہ کسی کے سامنے اس کو بیان مت کرو، اور آنکھ کھلتے ہی "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھ کر بائیں طرف تین مرتبہ تھوکو کرلو۔

براخوب؟ پرواہ نہیں

٨٣٢: وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ۔ (وفي رواية) الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ۔ مِنَ اللَّهِ، وَالْحَلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرُّهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شَمَائِلِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فِإِنَّمَا لَا تَصْرُّهُ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

((النُّفُث)): نَفْخٌ لَطِيفٌ لَرِيقٌ مَعْهُ

ترجمہ: - حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جو آدمی ایسا خواب دیکھے جسے ناپسند سمجھتا ہے، تو تین مرتبہ بائیں طرف تھوکو کر لے، اور "أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ" پڑھ لے؛ تو ان شاء اللہ اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔

افادات: - چنانچہ حضرت ابو قادہ رضی اللہ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں ان کا جملہ بخاری شریف میں نقل کیا گیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد سننے سے پہلے

میں جب کوئی براخواب دیکھتا تھا تو بہت ڈرتا اور پریشان رہتا تھا، کہ اب کیا ہو گا؟ لیکن حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد سننے کے بعد خطرناک خواب دیکھتا ہوں تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ بس! بیدار ہونے کے بعد فوراً **“أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”** پڑھنے کے بعد تین مرتبہ تھتھکا کار لیا کرتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہے کہ ان شاء اللہ کوئی نقصان نہیں ہو گا۔ حضور اکرم ﷺ نے کیسی بہترین ترکیب بتلا دی۔

براخواب دیکھتے ہی آنکھ کھل جائے؛ تو کیا کرے؟

۸۲۳:- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يَكُرُّهُهَا، فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثَةً، وَلْيَسْتَعِنْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثَةً، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند نہیں کرتا، تو اسے چاہیے کہ بائیں طرف تھتھکا کار دے اور تین مرتبہ **“أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”** پڑھے، اور کروٹ بدلتے۔

افادات:- ایک تو یہ ہے کہ براخواب دیکھا اور صبح اٹھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً آنکھ کھل جاتی ہے پھر دوبارہ سونا ہے، اس کے لئے ترکیب بتلائی کہ براخواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی تو پہلے تین مرتبہ بائیں طرف تھتھکا کر کر، تین مرتبہ **“أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”** پڑھ لے، اور پہلے جس کروٹ پر سویا ہوا تھا اس کروٹ کو بدلتے۔ دوران نیندا گر آنکھ کھل جائے، تو یہ حکمت عملی بتائی۔

سب سے بڑا بہتان

۸۲۴:- وَعَنْ أَبِي الْأَسْعَدِ وَإِلْلَةَ بْنِ الْأَسْعَدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ أَعْلَمُ: إِنَّ مَنْ أَعْظَمَ الْفِرَّارِيَ أَنْ يَدْعُوا الرَّجُلَ إِلَى غَيْرِ أُبِيهِ، أَوْ يُرِي عَيْنَتَهُ مَالَمْ تَرَ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا لَمْ يَقُولْ. (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت واشلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سب سے بڑا بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کرے (اپنے باپ کے نام کی جگہ پر دوسرے آدمی کا نام لکھنا بہت بڑا بہتان ہے) اور اپنی آنکھ کو وہ چیز دکھلانے جو اس نے نہیں دیکھی۔ اور حضور اکرم ﷺ کی طرف نسبت کر کے ایسی بات کہے جو آپ ﷺ نے نہیں فرمائی۔

افادات:- بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی سے کوئی منفعت اور فائدہ حاصل کرنے کے لئے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے متعلق تو میں نے ایسا عمدہ خواب دیکھا کہ آپ تو جنت میں سیر کر رہے تھے۔ یہ سن کروہ خوش ہو گیا، پھر اس سے اپنا مقصد نکلوالیا، حالاں کہ ایسا کوئی خواب اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یا کبھی کسی پر رعب جمانے اور ڈرانے کے لئے جھوٹا خواب بیان کر دیتے ہیں؛ تو یہ بہت بڑا بہتان ہے۔

اسی لئے علماء لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا تو بیداری کے اندر بڑی برا ہے، لیکن خواب کی طرف جھوٹی نسبت کرنا بہت زیادہ برا ہے۔ اس لئے کہ شروع میں آیا تھا کہ خواب کو نبوت کا چھیالیسوں حصہ بتلایا گیا ہے، اس لئے اس میں جھوٹ بولے گا تو گویا وہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز بتلائی گئی ہے، اس صورت میں جھوٹ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہی ہے، اس لئے اس پر بڑی سخت وعید فرمائی گئی ہے۔

چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی ایسا کرے گا، قیامت کے دن اس کو جو یا گیہوں کے دودا نے دیئے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ ان دونوں میں گرہ لگاؤ، اور وہ ہرگز گرہ نہیں لگا سکے گا اور اس کو عذاب ہوتا رہے گا (بخاری شریف: باب مَنْ كَذَبَ فِي حُلْمِهِ)

اب دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس پر اتنا سخت عذاب ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی طرف غلط بات کی نسبت کرے کہ حضور اکرم ﷺ نے یوں فرمایا، حالاں کہ حدیث میں ایسا نہیں آیا ہے؛ تو یہ بھی بہت بڑا بہتان ہے اور اس پر بڑی سخت وعید ہے، حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں: من کَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَيِّنًا فَلْيَتَبَوَّأْ أَمْقَعَدَهُ مِنَ اللَّهِ مَا رِبَّ (بخاری و مسلم) جو آدمی جان بوجھ کر میری طرف غلط بات کی نسبت کرے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ لہذا خواب کے متعلق بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

اس روایت میں تین باتیں آئیں، ایک خواب سے متعلق بھی ہے اس لئے یہ روایت اس باب میں پیش فرمائی۔

ڪتاب السلام

سلام کے احکام و آداب

باب فضل السلام والامر بافشاءه

سلام کی فضیلت

اور

سلام کو عام کرنے کا حکم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نیا عنوان قائم کیا ہے: ”کتاب السلام“ سلام سے متعلق احکام و آداب اور اس سے تعلق رکھنے والی چیزیں۔ اس عنوان کے ماتحت بہت سارے ذیلی عنوانات ہیں۔ پہلا عنوان ہے: سلام کی فضیلت اور شریعت کی طرف سے سلام کو عام کرنے کا حکم۔ یعنی نہ صرف سلام کرو، بلکہ سلام کو پھیلاؤ۔

اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو

حدیث پاک میں ہر مسلمان کو۔ چاہے اس کو آپ پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں۔ سلام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ آئیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں استیذان کا حکم دیا گیا ہے کہ کسی کے گھر میں جب آدمی داخل ہونا چاہے تو پہلے اجازت لے لے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی آدمی کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا تو اجازت لینا ضروری نہیں سمجھا جاتا تھا، بس! سیدھے اندر داخل ہو جاتا تھا، خاص کر ملنے جلنے والوں اور رشتہ داروں کے لئے تو اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ جب پرده کا حکم نازل کیا گیا تو اس کے بعد کسی کے گھر میں داخل ہونے کے واسطے اجازت لینے کو ضروری قرار دیا گیا۔ یہ اتنا مہتمم بالشان اور اہم حکم ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیتیں نازل فرمائیں، لیکن ہمارے معاشرہ میں اس کی طرف سے بڑی غفلت بر تی جا رہی ہے، بہت سے دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس معاملہ میں غفلت بر تے ہیں۔

استیذان کب؟ اور کب نہیں؟

باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ﴾

حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسْلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا (النور: ۲۲) اے ایمان والو! نہ داخل ہو و ان گھروں میں جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، یہاں تک کہ پہلے اجازت لے لو اور گھر والوں کو سلام کرلو۔ ایک تو وہ گھر جو آدمی کا اپنا مخصوص ہے، جس میں وہ تہارہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور اس کے اندر رہائش پذیر نہیں ہے، یہاں تک کہ ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے کوئی بھی نہیں رہتا۔ یا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بچے وغیرہ بھی نہیں رہتے کہ اگر جائے تو تالا لگا کر جائے، اور آئے تو تالا کھول کر بسم اللہ کہہ کر داخل ہو جائے؛ تو اس میں داخل ہونے کے لئے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر گھر کی ملکیت باپ کی ہے، اسی میں وہ رہتا ہے اور اس گھر میں تہانہ نہیں ہے بلکہ اس کے ماں باپ، بھائی بہن، اور دوسرے اعزہ بھی رہائش پذیر ہیں۔ یا کسی پرائے آدمی کا گھر ہے، تو ان تمام صورتوں میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے آدمی کو اجازت لینی یا اطلاع کرنی چاہیے۔ حضور اکرم ﷺ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ بات خاص طور پر سکھائی تھی۔

کیا تم یہ چاہتے ہو کہ.....؟

ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں گھر میں میری ماں کے ساتھ رہتا ہوں، کیا میں گھر میں اجازت لے کر جاؤں؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں۔ اس نے پھر کہا: میرے گھر میں صرف میری ماں ہی رہتی ہے؛ پھر بھی؟ حضور ﷺ فرمایا: ہاں! پھر بھی۔ اس نے پھر کہا: میں تو ان کی خدمت کرتا ہوں؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ماں کوئی حالت میں دیکھو؟ اس نے کہا: نہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: پھر اجازت لے کر داخل ہو۔ (موطا: باب الاستیدان)

اس لئے کہ آدمی گھر میں جب تنہا ہوتا ہے، تو بہت سی مرتبہ اس کو اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے ستر کھولنے کی نوبت آتی ہے، جیسے: کسی کوران میں کوئی تکلیف ہے، جب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو ستر نہیں کھول پاتا، اس لئے جب دیکھتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اس موقع کو غیمت سمجھتا ہے کہ لا اؤ! ذرا دیکھ لوں کیا تکلیف ہے اور دو ابھی لگا لوں۔

یا کبھی کپڑے بد لئے کی غرض سے آدمی یہ سمجھ کر کپڑے نکالتا ہے کہ گھر کا دورازہ بند ہے، اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اب وہ ستر کھول کر بیٹھا ہے اور کوئی آدمی گھر میں گھس آیا؛ تو کیا منظر ہوگا؟

اسی چیز کی طرف نبی کریم ﷺ نے متوجہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی امام اکیلی رہتی ہیں، اور اس موقع پر انہوں نے کسی ضرورت سے سمجھ کر اپنا ستر کھول رکھا ہے کہ گھر میں میں تنہا ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اور آپ بغیر اجازت کے اندر گھس گئے، تو اس صورت میں آپ کے لئے ایسی نوبت آئے گی کہ آپ کی نظر ان کے ستر پر پڑے گی۔ اس لئے آدمی کے لئے ضروری قرار دیا گیا کہ چاہے ماں باپ، بھائی بہن، یادوسرے رشتہ دار رہتے ہوں؛ تب بھی اجازت لے کر گھر میں جائے۔

.....تب اجازت لینا ضروری نہیں

البتہ گھر میں اکیلی بیوی ہو، اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو، تو چوں کہ شوہر کے لئے اپنی بیوی کے ستر کو دیکھنا جائز ہے، اس لئے وہاں اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہتر اور مناسب طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی کچھ کھٹکا کر کے جائے، باہر سے ذرا آواز کر دے، جس سے وہ سمجھ جائے کہ شوہر گھر میں آرے ہے ہیں۔ حضرت

عبداللہ بن مسعود کی بیوی حضرت زینب بنت علیہا السلام فرماتی ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود جب بھی مکان میں تشریف لاتے تھے تو کھلا کر دیا کرتے تھے، حالاں کہ گھر میں میں تھا ہوا کرتی تھی۔ (مسند احمد: ۳۶۱۵)

اگر اپنا ذاتی گھر ہے اور اس میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اطلاع دیدے کے میں آ رہا ہوں۔ اور اگر پرانا گھر ہے تو وہاں اجازت لینے کے بعد صاحبِ مکان کی طرف سے اجازت ملنے کا انتظار کیا جائے گا۔ اس اجازت طلب کرنے کو قرآن کریم نے عجیب انداز سے پیش کیا ہے:

﴿حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا﴾ اگرچہ عام طور پر حضراتِ مفسرین نے لفظ ﴿تَسْتَأْنِسُوا﴾ کا ترجمہ ”اجازت لو“ کیا ہے۔ لیکن ”إِسْتَيْنَاس“ جو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کسی کو مانوس بنانا، انسیت حاصل کرنا، کسی کی طبیعت میں ہماری طرف میلان اور ہمدردی پیدا کرنا۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا؛ یہ گھروالے کے دل میں آپ کے لئے ایک طرح کی انسیت پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی کوئی ضرورت یا کام لے کر کسی کے یہاں جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ اس انداز سے پیش آنا چاہیے کہ اس کی طبیعت پر بوجھنا ہو۔

آپ اپنی ضرورت لے کر کسی کے پاس گئے اور بغیر اجازت لئے ہی اس کے گھر کے اندر گھس گئے، تو صاحبِ مکان فوراً آپ سیٹ (Upset) ہو جائے گا، اس کی طبیعت آپ کی طرف سے تنفس ہو جائے گی، اس کے بعد جب آپ اپنی بات پیش کریں گے تو وہ دھیان نہیں دے گا، آپ اپنی ضرورت اس کے سامنے رکھیں گے تو اس کے پورا کرنے کی طرف بھی وہ توجہ نہیں دے گا۔ اس کے برخلاف اگر آپ نے داخل ہونے سے پہلے مناسب طریقہ سے ادب و شرافت کے ساتھ اجازت طلب کی ہوتی

کہ میں آپ کے مکان پر حاضر ہو سکتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت ہے، تو وہ بھی سوچتا کہ کوئی شریف آدمی آیا ہے، جی ہاں! تشریف لائیے، اب ”السلام علیکم“، کہئے اور داخل ہو جائیے۔ تو اجازت لینا گویا صاحب خانہ کی انسیت حاصل کرنا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل ہو تو پہلے اجازت لو ﴿تَسْتَأْنُسُوا﴾ اُنہاں حاصل کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے ﴿وَتُسْلِمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ گھروں کو سلام کرو۔

اجازت کیسے لے؟

اب اجازت کس طرح لی جائے؟ تو عام طور پر علماء یہ فرماتے ہیں اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اجازت لینے کے لئے پہلے سلام کیا جائے: ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ، میں احمد ہوں، آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے؟“ جب اجازت مل جائے تو دوبارہ سلام کر کے داخل ہو جائے (پہلے جو سلام کیا گیا وہ اجازت حاصل کرنے کے واسطے تھا) ساتھ ہی اپنانا مبھی بولے۔

ابوداؤ شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی نے آکر حضور اکرم ﷺ سے یوں کہا: ”أَعْلَج“ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ ”وَلُوْج“ عربی زبان میں کسی تنگ جگہ میں داخل ہونے کو کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں گھس سکتا ہوں۔ تو حضور اکرم ﷺ نے اپنے خادم سے کہا کہ: باہر جا کر اس آدمی کو اجازت لینے کا طریقہ بتلو، اس سے کہو کہ یوں کہے: ”السلام علیکم، أَأَدْخُلُ“۔ ”أَعْلَج“ نہ کہے۔ خادم جا کر اس سے کہے، اس سے پہلے ہی اس آدمی نے باہر سے آپ ﷺ کی یہ باتیں سن لیں، تو اس نے اسی طرح کہا: ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ أَأَدْخُلُ“۔ حضور اکرم ﷺ کی یہ باتیں

نے کہا: "أَذْخُلْ" آجاؤ۔ (ابوداود شریف: ۱۵/ باب کیف الاستئذان)

تو پہلا سلام استید ان یعنی اجازت حاصل کرنے کے لئے ہے، سلام کے ساتھ اپنانام بھی کہنا چاہیے، تاکہ اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے کہ کون ہو؟ اور اگر کبھی کسی وجہ سے نام نہ بول پائے اور پوچھا کہ کون ہو؟ تو جواب میں صرف یہ نہ کہے کہ: میں؛ بلکہ اپنانام لینا چاہیے کہ فلاں ہوں۔

سب ہی "میں" ہیں

ایک آدمی ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، اجازت طلب کی۔ پوچھا: کون ہو؟ اس نے نام نہیں بتایا اور کہا: میں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: میرے دوستوں اور ملنے والوں میں "میں" نام کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: کون ہو؟ کہا: "أَنَا" میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کے ساتھ فرمایا: "أَنَا، أَنَا"؟ یعنی "میں" کہنے سے کیا پتہ چلے گا کہ کون ہے؟ سمجھی "میں" ہیں۔

جواب ملنے کا انتظار کیجئے

اور اجازت طلب کرنے کے لئے سلام کیا گیا تو اس کے بعد آپ جواب کا انتظار کیجئے، یعنی اتنا موقع دیجئے کہ وہ جواب دے سکے۔ اتنا انتظار کرنے کے بعد بھی اگر جواب نہ ملے، تو پھر دوبارہ اجازت طلب کرنے کی غرض سے سلام کیجئے، پھر موقع دیجئے۔ اس کے بعد بھی جواب نہ ملے، تو پھر تیسرا مرتبہ سلام کر کے اجازت طلب کیجئے، اس پر بھی جواب نہ ملے، یا صاحب خانہ کی طرف سے کہا جائے کہ میں اس وقت

ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یا آپ سے نہیں مل سکتا؛ تو بغیر کسی ناگواری کے، کچھ بھی برآمانے بغیر چپ چاپ وہاں سے خوشی کے ساتھ واپس تشریف لے جائیے، اس لئے کہ قرآن پاک میں ہے: ﴿فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ إِذْ جِعْوَافَارْجِعُوا هُوَ أَزْ كَيْ لَكُمْ﴾ جب گھر والوں کی طرف سے یہ کہا جائے کہ واپس جائیے، میں ابھی نہیں مل سکتا؛ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واپس ہو جاؤ، اسی میں تمہارے لئے پاکیزگی اور بھلائی ہے۔ دیکھو! اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا ہے۔

آج کل تو ہم کسی کے یہاں گئے ہوں اور خاص کروہ ملنے والا کوئی چھوٹا ہو، اور اجازت طلب کرنے پر اس کی طرف یوں کہا جائے کہ ابھی واپس تشریف لے جائیں؛ تو ہے کوئی اس کو ہضم کرنے والا! معلوم نہیں کیا کیا کرڈا لے گا۔ لیکن اللہ کے بعض بندے ایسے بھی تھے جو اس حکم پر عمل کے شوقین تھے۔

ایسے بھی تھے

کتب تفسیر میں لکھا ہے: ایک بزرگ کہتے ہیں: پوری زندگی میں اس کوشش میں رہا کہ اس حکم پر عمل کرنے کا موقعہ ملے۔ میں لوگوں کے گھر پر جاتا تھا اور اجازت طلب کرتا تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ یوں کہہ دے کہ: واپس جاؤ، تاکہ اس کے اس کہنے پر میں واپس ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کے اس "إِذْ جِعْوَا" والے حکم پر عمل ہو جائے، لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ ایسے بھی شوقین تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی خاطر انہوں نے یہ طرز اختیار کیا۔

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تین مرتبہ کے بعد اگر جواب نہ ملے؛ تو واپس ہو جانا چاہیے اس لئے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی کسی مشغولی میں ہوتا ہے، مثلاً: غسل کر رہا

ہے، یا بیت الخلاء میں ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے؛ تو وہ آپ کو اجازت دینے کی حالت میں نہیں ہوتا۔ ہمیں خود بہت سی مرتبہ ایسی نوبت آتی ہے کہ گھر میں اکیلے ہیں، اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، ابھی حاجت کے لئے بیٹھے کہ ادھر کسی نے گھنٹی بجانا شروع کی، اب ہماری طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، ایسے وقت میں دعا کرتا ہوں کہ: اللہ کرے کہ اس کی بے چینی دور ہو جائے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ گھنٹی بجانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو ختم کرنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور دروازہ بھی ایسی زور سے مسلسل کھکھلاتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ نجح صاحب کی طرف سے گرفتاری کا وارنٹ لے کر آئے ہیں۔ ایسا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اجازت کا مقصد ہی استیناس یعنی اُنس پیدا کرنا ہے۔ اس لئے اجازت طلب کرنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جائے وہ بھی اُنسیت والا ہی ہونا چاہیے، وحشت اور نفرت پیدا کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر انکار کیا جائے تو وہ اپس لوٹ جانا چاہیے۔

گھنٹی (Door Bell) بجانے کا طریقہ

جس زمانہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں اُس زمانہ میں گھر بھی بڑے نہیں ہوا کرتے تھے، دروازہ ذرا سا کھکھلاتے تھے تو آواز اندر پہنچ جاتی تھی، لیکن آج کل تو گھر بڑے بڑے ہیں، اگر دروازے پر ”السلام علیکم“ بولیں، تو گھر کے اندر پہنچنے کی نہیں چل سکتا، اس لئے کوئی مناسب صورت اختیار کی جائے، جیسا کہ آج کل گھنٹی (Door Bell) رکھی جاتی ہے اس کو بجا یا جا سکتا ہے۔ لیکن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب (طیلی) تحریر فرماتے ہیں کہ گھنٹی (Door Bell) بجانے میں بھی وہی اصول مدنظر رکھنا چاہیے کہ کوئی ایسا

طریقہ اختیار نہ کرے جو حشت اور نفرت پیدا کرنے والا ہو۔ بعض لوگ گھنٹی پر ایسا انگوٹھا دبادیتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو سوئے ہوتے ہیں وہ بھی چونک کر بیدار ہو جاتے ہیں اور چلا کر رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر گھروالوں کو ان کو منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نئی مصیبت ہو گئی ہے۔ اس لئے گھنٹی بھی آہستہ سے بجائی حبائے کے اندر آواز پہنچ جائے، اور آدمی کو پتہ چل جائے کہ کوئی آیا ہے۔ پھر گھنٹی بجانے کے بعد اتنا انتظار تھا کہ وہ آدمی کسی کام میں مشغول ہو، جیسے: کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو، تو کم از کم بند کر کے کتاب رکھے، اور اٹھ کر باہر آئے۔ یا وہ کھانا کھا رہا ہو تو اپنا لقہ پورا کر کے ہاتھ صاف کر کے آئے۔ یا کسی اور کام میں مشغول ہے، تو اس کو مہلت دیجئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بجائی، پھر بجائی، اور بجائے ہی چلے جا رہے ہیں۔ بلکہ تھوڑی دیر موقعہ دیجئے، پھر دیکھا کہ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے تو اب دوسری مرتبہ بجائی، پھر تھوڑی دیر موقعہ دیجئے، پھر کوئی جواب نہیں ملے، تو اب تیسرا مرتبہ بجائی، اور تیسرا مرتبہ کے بعد بھی جواب نہ ملے؛ تو حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ واپس ہو جائیے، وہاں دھرنادے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔

دعا لینے کی حرص

حضور اکرم ﷺ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو انصار کے سرداروں میں سے تھے، ان کے یہاں تشریف لے گئے، اور اجازت طلب کرنے کی عنرض سے آپ نے السلام علیکم کہا، انہوں نے اندر سے آواز سنی، لیکن جواب زور سے نہیں دیا، بلکہ اس امید پر آہستہ سے دیا کہ آپ ﷺ میرا جواب نہیں سنیں گے تو دوسری مرتبہ سلام کریں گے، اور اس بہانے سے آپ ﷺ کی دعامل جائے گی۔ آپ ﷺ

کی دعا لینے کی حرص میں ان کا دوسرا پہلو کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اس موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ دعا لینے کی حرص میں حضور اکرم ﷺ کو انتظار کرنا پڑتا، اور یہ چیز ادب کے خلاف ہو گئی، اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں گیا۔ ورنہ عام طور پر آدمی یوں سوچتا ہے کہ بڑی شخصیت میرے یہاں تشریف لائی ہے، اس لئے مجھے تو آگے چل کر جلدی سے ان کے قدموں میں گرنا چاہیے۔ ان کو چاہیے ہت کہ حضور ﷺ کے پاس جلدی سے پہنچ جاتے، لیکن اس تصور سے کہ حضور ﷺ کی دعائے، انہوں نے آہستہ سے جواب دیا۔ حضور اکرم ﷺ نے دوسری مرتبہ سلام کیا، اس کا بھی انہوں نے آہستہ سے جواب دیا تو حضور اکرم ﷺ نے تیسرا مرتبہ سلام کیا، اس وقت بھی انہوں نے آہستہ ہی جواب دیا تو حضور ﷺ والپس لوٹنے لگے۔ ان کو پہنچ تھا کہ تین مرتبہ اجازت لینے کا حکم ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اب حضور ﷺ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو باہر نکلے، اور دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ والپس لوٹ رہے ہیں تو آپ سے لپٹ گئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کی آواز سن رہا تھا اور جواب بھی دے رہا تھا لیکن زور سے اس لئے نہیں دیا کہ آپ دوبارہ سلام کریں، اور مجھے آپ کی دعائے۔

(ابوداؤد شریف: ۱۸/۵) باب گَهْ مَرَّةٌ يُسْلِمُ الرَّجُلُ فِي الْإِسْتِئْذَانِ

خیر! تو استیذان یعنی اجازت لینے کا اور استیاناں کا حکم دیا گیا ہے۔

ایک عمل، تین دعائیں

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَيْتَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ (الاور: ۳۱) پھر جب گھروں میں داخل ہوئے تو اپنے گھروں والوں پر سلام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والا اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ «عَلَى أَنفُسِكُمْ» اپنے اوپر یعنی گھر

کے اندر جو رہتے ہیں وہ اپنے ہی لوگ ہیں، ان کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے سلام کا جو طریقہ بتایا ہے وہ بڑا پا کیزہ اور برکت والا ہے۔ یہ بھی نبی کریم ﷺ کی تعلیمات اور شریعتِ اسلامیہ کی برکات میں سے ہے کہ اس نے مسلمانوں کو آپسی ملاقات کے وقت جو طریقہ سکھایا ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ دنیا کی دوسری قوموں میں کوئی ملتا ہے تو کہتا ہے: گڈ مارنگ (Good Morning) کوئی کہتا ہے: گڈ ایوننگ (Good Evening) کوئی کہتا ہے: نمستے۔ کوئی کہتا ہے: نمسکار۔ کوئی آداب کہتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ آداب کہنے سے اس کو یا آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ ظاہر ہے کہ کچھ بھی نہیں۔ اسلام نے آپسی ملاقات کے وقت جو طریقہ سکھایا وہ ایک دعا ہے، اور دعا میں بھی سلام سکھایا۔ اور سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ”السلام علیکم“، تم پر سلامتی ہو۔ ”ورحمۃ اللہ“ اور اللہ کی رحمت ہو۔ ”وبرکاته“ اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ ایک ہی عمل میں تین دعائیں ہیں۔

ایک مرتبہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہا: السلام علیکم۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: دس۔ دوسرا آیا، اس نے کہا: السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: بیس۔ تیسرا آیا اور اس نے کہا: السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا: تیس۔ (ابوداؤ دشیریف: ۱۹۵ باب گیف المسلاکم) یعنی پہلے کو دس نیکیاں ملیں، دوسرا کو بیس، اور تیسرا کو تیس نیکیاں ملیں، اس لئے کہ اس نے تین الفاظ کہے۔

سلام ہی جامع ہے

زمانہ جاہلیت میں ایسا ما حول تھا کہ کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو دوسرے سے محفوظ نہیں تھی، جب کوئی آدمی کسی کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتا، یادوں کا آمنا سامنا ہوتا

تو ہر ایک دوسرے کی طرف سے خطرہ محسوس کرتا تھا کہ وہ کچھ کرڈا لے گا، میری جان پر حملہ کر دے گا، یا میرا مال چھین لے گا۔ یہ اس سے ڈرتا تھا اور وہ اس سے ڈرتا تھا۔ اسلام نے سکھایا کہ جب آپس میں ملتو ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ“ کہو، گو یا اس کو سلامتی کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، تم پر سلامتی ہو۔ اب جو آدمی تمہاری سلامتی کے لئے دعائیں کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تمہاری جان و مال، عزت و آبرو پر کیسے حملہ کرے گا؟ گویا دعا کے ساتھ ساتھ اس نے اطمینان دلایا کہ آپ میری طرف سے پوری طرح مطمئن رہیے، میری طرف سے نہ آپ کی جان پر کوئی دست درازی اور زیادتی ہو سکتی ہے، نہ میں آپ کا مال چھینوں گا، اور نہ آپ کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالوں گا۔

بہر حال! سلام کا یہ طریقہ بڑا برا برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لئے غیروں کے طریقوں کو اختیار مت کرو۔ اگر اس ”گڈ مارنگ“ کو دعا پر محمول بھی کیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی صبح اچھی ہو۔ تو کیا شام بری ہو جائے؟ اور ہمارے یہاں تو سلام کے اندر کسی ایک وقت کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لئے عام سلامتی کی دعا کرائی جا رہی ہے۔ اس لئے ہمیں آپس میں اسی کو رنج کرنا اور اسی پر عمل کرنا چاہیے۔

سلام کا جواب اچھے طریقہ سے دو

﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحْيَةٍ فَحَيُّوا إِلَيْهِ أَوْ حَسَنَ مِنْهُمَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ (النساء: ۲۶) جب تمہیں کسی کی طرف سے سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھے طریقہ سے سلام کا جواب دو، یا اسی طرح جواب دو۔

کسی نے ہمیں ”السلام علیکم“ کہا تو قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تم

اس کا جواب اس سے عمدہ اور اچھا دو، یعنی اس نے ”السلام علیکم“، کہا تو آپ ”علیکم السلام و رحمۃ اللہ“ کہئے، اس نے صرف سلامتی کی دعا دی، تو آپ نے سلامتی کے ساتھ ساتھ رحمت کی دعا بھی دیدی۔ اور اگر کوئی کہے: ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ“، تو آپ جواب میں کہیں: ”علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ“، سلامتی، رحمت اور برکت؛ تینوں کی دعا دیو۔ ویسے سلام کے آداب میں سے یہی ہے کہ سلام کرنے والا یہی دو الفاظ کہے: ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ“، لیکن اگر سلام کرنے والے نے تینوں ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ“ کہہ دیا؛ تو اب اس سے آگئے تو ہے نہیں، اس لئے اسی طرح جواب دے دو: ”علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ“۔

ایک آدمی نے آکر حضور اکرم ﷺ کو سلام کیا: ”السلام علیکم“، حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”علیکم السلام و رحمۃ اللہ“، اس کے بعد ایک اور آدمی نے آکر کہا: ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ“، تو حضور اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ“، اس کے بعد تیرسے آدمی نے آکر کہا: ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ“، تو حضور ﷺ نے جواب میں فرمایا: ”علیکم“، تم پر بھی یہ ساری دعائیں ہوں۔ اس نے شکایت کی: اے اللہ کے رسول! پہلے والے نے سلام کیا تو آپ نے ایک بڑھا کر کہا، دوسرے والے نے کہا تو اس پر بھی آپ نے ایک بڑھا کر کہا، اور جب میں نے تینوں چیزیں کہیں، تو آپ نے صرف ”علیکم“ فرمایا؟ تو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم نے کچھ چھوڑا، ہی نہیں؛ تو اب کیا کروں، اس لئے صرف ”علیکم“، کہا (معجم الکبیر، حدیث نمبر: ۵۹۹۱) اور اس کی برکتیں تجھ پر بھی نازل ہوں۔ معلوم ہوا کہ اگر ممکن ہو تو ویسا ہی جواب دو، یا اس سے اچھا جواب دو۔

سلام کا طریقہ نیا نہیں ہے

باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ﴿هَلْ أَتَكُ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِينَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا إِسْلَامًا قَالَ سَلَامًا﴾ (الذاريات: ۲۵، ۲۳) کیا تمہارے پاس حضرت ابراہیم ﷺ کے عزت والے مہمانوں کا قصہ آیا کہ جب وہ حضرت ابراہیم ﷺ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے کہا: تم پر سلام ہو، اس کے جواب میں حضرت ابراہیم ﷺ نے بھی کہا: تم پر بھی سلام ہو۔

یہ آیت لاکر بتلانا چاہتے ہیں کہ سلام کا یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے انبیاء علیہم السلام کے درمیان بھی جاری فرمایا تھا۔ اس سلسلے میں آگے حضرت آدم ﷺ والی روایت بھی لارہے ہیں۔

سلام حقِ اسلام

۸۲۵:- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلاً سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أئن الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام، وتقرأ الله لام على من عرفت، ومن لم تعرف. (متفق عليه)

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھ کریم ﷺ سے پوچھا: کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ (یعنی اسلام کا کون سا عمل اچھا اور بہتر ہے؟) تو حضور اکرم ﷺ نے جواب میں فرمایا: کھانا کھلائے، اور اسلام کرو اس کو بھی جس کو پہچانتے ہو، اور اس کو بھی جس کو نہیں پہچانتے۔

افادات: - یہاں پر یہ روایت اسی لئے لائے ہیں کہ سلام پہچان پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا ایک حق اور اخوتِ اسلامی کا تقاضا ہے، بس آپ کو معلوم ہے

کہ یہ مسلمان بھائی ہے تو آپ سلام کیجئے، آپ پہچانتے ہوں، یا نہ پہچانتے ہوں۔ ہاں! اگر اس کے اندر کوئی ایسی پہچان ہی نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے یہ کہہ سکیں کہ یہ مسلمان ہے؛ تو الگ بات ہے۔ جیسا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی سامنے سے آتا ہوا نظر آیا، یا کچھ لوگ میٹھے ہوئے نظر آئے، اب جی چاہتا بھی ہے کہ ان کو سلام کیا جائے، لیکن ان کے اوپر کوئی ایسی علامت ہی نظر نہیں آتی جو ان کے مسلمان ہونے کی نشاندہی کرتی ہو، اس لیے مجبوری میں نہیں کیا جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غیر مسلم ہوں۔

سلام کی ابتداء

۸۲۶:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمْ يَخْلُقْ اللَّهُ أَدَمَ مِنْ آتِينَا، قَالَ: إِذْهَبْ فَسِلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ - نَفَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ - فَاسْتَبِعْ مَا يُحْيِيُونَكَ، فَإِنَّمَا تَحْيِيْتُكَ وَتَحْيِيْتُهُ ذُرْيَتِكَ . فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَأَمْ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ . (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کریم مالک نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا: دیکھو! وہاں فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جا کر ان کو سلام کرو، اور غور سے سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، پس تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام وہی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا: ”السلام علیکم“، تو فرشتوں نے جواب میں کہا: ”السلام علیک ورحمة اللہ۔“ گویا فرشتوں نے ”ورحمة اللہ“ کا اس میں اضافہ کیا۔ (اس لئے ہمارا بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے)

افنادات:- اس روایت کو لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ سلام کی ابتداء کیسے ہوئی۔

سات چیزوں کا حکم

۷۸۲:- وَعَنْ أَبِي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ نَّبَّهَ قَالَ: أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيمِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الْضَّعِيفِ، وَعَوْنَى الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

(متفقٌ عَلَيْهِ، هَذَا الفَظْلُ إِحْدَى رِوَايَاتِ الْبَخَارِي)

ترجمہ:- حضرت براء بن عازب رض نے ارشاد فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسالم نے ہم کو سات چیزوں کا حکم دیا۔ ۱۔ بیمار کی خبر گیری کا۔ ۲۔ اور جنازوں کے پیچھے پیچھے جانے کا۔ ۳۔ کسی کو چھینک آئے اور وہ ”الحمد للہ“ کہے تو اس کے جواب میں ”یرحمک اللہ“ کہنے کا۔ ۴۔ کمزور آدمی کی مدد کرنے کا۔ ۵۔ مظلوموں کی مدد کرنے کا۔ ۶۔ سلام کو پھیلانے کا۔ ۷۔ کوئی آدمی قسم دے تو اس کو قسم میں بری کرنے کا۔

افادات:- کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی خبر لینے کے لئے جانا چاہیے، اس میں بھی پہچان وغیرہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے: کوئی پڑوسی بیمار ہے اور آپ کے علم میں ہے، تو اس کی خبر گیری کریں؛ یہ مسلمان کا ایک حق ہے۔

”کمزور کی مدد“ میں تو یہ ہے کہ کوئی بوجھا ٹھاننا چاہتا ہے، اور نہیں اٹھا پاتا، آپ نے اس کی مدد کی۔ اور ”مظلوم کی مدد“ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی طرف سے کسی پر زیادتی کی جا رہی ہے، اور آپ اس زیادتی کو دور کرنے میں اس کی مدد کریں۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔

”سلام کو پھیلانے کا حکم دیا“ مطلب یہ ہے کہ، سلام کرو، ۲۔ زور سے کرو، ۳۔ اور ہر ایک کو کرو؛ تب ہی افشاء السلام یعنی سلام کو پھیلانے والے حکم پر عمل ہو گا۔

”وَكُسْيِيْ قُوتُمْ مِيْسِ بُرِيْ كُرْنَا“، مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے اپنے متعلق فتم کھائی اور اس کا اس قسم سے بری ہونا آپ کے تعاون پر موقوف ہے، مثلاً: کسی نے آپ کو دعوت دی اور قسم کھائی کہ خدا کی قسم! میں آپ کو اپنے گھر لے جا کر ہی رہوں گا، اب آپ کہیں کہ جاؤ! میں نہیں آتا؛ تو اس صورت میں وہ اپنی قسم میں حانت ہو جائے گا۔ اس کو اس قسم کے ٹوٹنے سے بچانا آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر آپ اس کے یہاں پلے جائیں گے تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور وہ کفارہ سے نجیج جائے گا۔

یا کسی نے قسم کھا کر کہا کہ میری یہ ضرورت پوری کرد تھے، جب تک میری ضرورت پوری نہیں کریں گے، میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جا! نہیں کروں گا۔ تو نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اپنی قسم میں حانت ہو جائے گا، اگر آپ بغیر کسی زحمت کے اس کو اس کی قسم میں بری کر سکتے ہیں اور اس کو حانت ہونے سے بچ سکتے ہیں؛ تو اس کی ضرورت پوری تکھی اور اس کو قسم سے بری تکھی۔

سلام کا قدرتی اثر

٨٢٨:- وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا، أَوْ لَا أَدْلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابِبُنُّمْ؟ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان والے بن جاؤ، اور ایمان والے نہیں بن سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت کرنے لگو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو؟ آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔

افادات:- ظاہر ہے کہ آپ جب کسی کو سلام کریں گے تو آپ کی محبت اس کے دل میں خود بخوبی پیدا ہو جائے گی، یہ قدرتی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو جتنا زیادہ سلام کریں گے، ان شاء اللہ ان کے دلوں میں آپ کے واسطے، اور وہ سلام کریں گے تو آپ کے دل میں ان کے واسطے محبت پیدا ہوگی۔ اس لئے سلام کو عام کیجئے۔

۸۴۹ - وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَفْشُوا السَّلَامَ، وَأَطْعُمُوا الْعَصَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصِلُوا وَالنَّاسُ نِيَّاً مُّرْتَبَةً، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

(رواہ الترمذی و قال: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سننا: اے لوگو! سلام کو پھیلاو، کھانا کھلاو اور رشتہ داروں کے حقوق کو داکرو، اور رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھو؛ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔

اہل معرفت کی دور بین

۸۵۰ - وَعَنِ الطَّفَيْلِ بْنِ أَبِي بَنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعْهُ إِلَى السُّوقِ، قَالَ: فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ، لَمْ يَمْرِرْ عَبْدَ اللَّهِ عَلَى سَقَاطٍ، وَلَا صَاحِبِ بَيْعَةٍ، وَلَا مِسْكِينٍ، وَلَا أَحَدٍ، إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ. قَالَ الطَّفَيْلُ: فَجِئْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا، فَاسْتَشْتَدَعْنِي إِلَى السُّوقِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ، وَأَنْتَ لَا تَقْفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْأَلُ عَنِ السَّلْعَ، وَلَا تُسُومُ إِهْبَاهَا، وَلَا تَجْلِسُ فِي فَجَّةِ الْمِسْكِينِ؟ وَأَقُولُ: أَجْلِسُ بِنَا هُنَا تَحْكَّثُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَنِطِينِ - وَكَانَ الطَّفَيْلُ ذَا بَنِطِينِ - إِنَّمَا نَغْدُو مِنْ أَجْلِ السَّلَامِ، فَنُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا.

(رواہ مالک فی المؤکظاً بایسناد صحیح)

ترجمہ:- حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سامان یچھے والے کے پاس سے، یا کسی تاجر کے پاس سے، یا کسی غریب کے پاس سے، یا کسی اور آدمی کے پاس سے جب بھی گزرتے تو اس کو سلام کرتے۔ طفیل کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کے لئے کہا۔ میں نے عرض کیا: آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ آپ وہاں کوئی چیز خریدتے تو ہیں نہیں، اور نہ کسی سے بھاؤ تال کرتے ہیں، کسی سے خرید و فروخت کی بات چیت بھی نہیں کرتے، بازار میں جو مجلسیں لگتیں ہیں ان میں بھی نہیں بیٹھتے۔ اس لئے یہیں تشریف رکھئے، ہم کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا: اے پیٹو! (حضرت طفیل کا پیٹ بڑا ہت) ہم تو بازار لئے جاتے ہیں؛ تاکہ جو بھی نہیں ملے اس کو سلام کریں۔

افادات:- دیکھو! آپ کسی کو سلام کریں گے تو وہ جواب دے گا، اور جواب میں دعا بھی ہے، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی گزرے ہیں جو دعا نہیں لیتے کے لئے سلام کرتے تھے۔

حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا پیر ہیں، آج بھی ان کا مزار بغداد میں موجود ہے، اب تو برٹش اسٹاندار بنا یا جارہا ہے، ان کے مزار کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں جا کر ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے جودا عما لگی جاتی ہے وہ قول ہوتی ہے۔ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، ایک مرتبہ نائی ان کی جامت بنانے کے لئے آیا، جب موچھ کا نٹ کا وقت آیا تو ان کے ہونٹ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے حرکت کر رہے تھے، نائی نے کہا: حضرت! ہونٹ کی حرکت ذرا دیر کے لئے بند کر دیں، تاکہ میں موچھ کاٹ سکوں، تو حضرت نے فرمایا: واہ

بھئی واہ! تو تو اپنا کام کرتا رہے، اور میں اپنا کام نہ کروں!

ایک مرتبہ وہ جارہے تھے، ایک سچہ (پانی پلانے والا) آواز لگا رہا تھا: اللہ اس آدمی پر حرم کرے جو مجھ سے پانی لے کر پیئے، انہوں نے فوراً پیسے دیئے، اور پانی لے کر پی لیا۔ جب آگے بڑھے تو خادم نے کہا: حضرت! آپ کا توروزہ تھا اور آپ نے پانی پی لیا؟ حضرت نے کہا: دیکھو بھائی! وہ ایک دعا دے رہا تھا کہ جو مجھ سے پانی لے کر پی، اس پر اللہ تعالیٰ حرم کرے۔ روزے کی تو میں بعد میں قضاء کرلوں گا، لیکن یہ دعا پھر مجھ کہاں ملتی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی دعائیں حاصل کرنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔

طفیل بن ابی بن کعب اتنے بڑے صحابی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ روزانہ بازار فقط اس لئے جاتے تھے کہ جو ملے اس کو سلام کریں، اور وہ اس کا جواب دے۔ اور سلام کرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے، اور جب سامنے والا جواب دے گا تو اس میں دعائیں ملیں گی۔ اس لئے سلام بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔

بَابُ كِيفيَّةِ السَّلَامِ

سلام کا طریقہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سلام کے آداب کا بیان چل رہا ہے، اسی سلسلہ میں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے
کہ سلام کرنے کا طریقہ کیا ہو؟

سلام کے الفاظ کی وضاحت

جو آدمی سلام کی ابتداء کرے وہ ”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ“ کہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے، چاہے وہ ایک ہو، یا زیادہ؛ ”علیکم“، جمع کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ حالاں کہ ”علیکم“، عربی زبان کے اندر جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود اگر سا منے ایک آدمی ہے تب بھی ”علیکم“ ہی کہیں گے، ”علیک“، نہیں کہیں گے، اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک ہونے کی صورت میں بھی جمع کا صیغہ تعظیم و تکریم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے: ہماری بول چال میں ایک آدمی ہوتا بھی ”تم“، بولتے ہیں۔

دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ فرشتے بھی موجود ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، جن کے متعلق روایتوں میں صراحتاً موجود ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے اعمال لکھنے کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے، دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اس لئے آدمی جب بھی سلام کرے گا تو ”السلام علیکم“ کہے گا کہ تم پر سلام ہو، اس صورت میں صرف اس انسان ہی کی نیت نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان فرشتوں کی بھی نیت کر لے جو اس کے ساتھ نامہ اعمال لکھنے، اور اس کی حفاظت کے

لئے لگے ہوئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جیسے وہ جواب دیتا ہے، ایسے ہی فرشتے بھی جواب دیں گے اور فرشتوں کی دعا مل جائے گی اور ان کی دعا میں تو مقبول ہوتی ہیں۔ اس لئے سلام میں ان کی بھی نیت کا خیال رکھے۔

جیسے: آدمی جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، تو پہلے دائیں طرف ”السلام علیکم ورحمة اللہ“ کہہ کر سلام پھیرتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت اس کو یہ نیت ضرور کرنی چاہیے کہ میری داہنی طرف جتنے بھی لوگ صفوں میں ہیں، اگر امام بھی دائیں طرف ہو تو اس کی مستقل نیت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی فرشتے دائیں طرف ہیں ان سب کو سلام کرتا ہوں، اس صورت میں جتنے بھی آدمیوں اور فرشتوں کی اس نے نیت کی ہوگی، ان تمام کو سلام کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح جب بایں طرف سلام پھیرے، تو جتنے لوگ بایں طرف الگی اور پچھلی صفوں میں ہیں، اور اگر امام بایں طرف ہے تو امام کے لئے مستقل نیت کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی فرشتے اس طرف ہیں ان تمام کے لئے بھی سلام کی نیت کرے۔ تو جمع کا جو صیغہ لا یا گیا ہے اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی نیت کر لی جائے۔ اس لئے جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ اکیلا ہوتا بھی جمع کا صیغہ کا استعمال کریں گے، اور ”السلام علیکم ورحمة اللہ و برکاتہ“، کہیں گے۔

اور جواب دینے والا جواب میں ”علیکم السلام ورحمة اللہ و برکاتہ“ کہے، یعنی ”واو“ بڑھائے، اور ”علیکم“ کو لفظ ”السلام“ کے اوپر مقدم کرے۔ شریعت نے سلام کرنے اور جواب دینے کے لئے یہی طریقہ سکھایا ہے، اور جواب دینے والا بھی وہی نیت کرے کہ میں اس کو سلام کر رہا ہوں، اور جو فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی سلام کر رہا ہوں۔

دس، بیس، تیس

٨٥١:- عن عَمْرَانَ بْنِ الْحَصَّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ إِنَّهُ يَقُولُ: فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عَشْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: عِشْرُونَ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّ كَاتِهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: ثَلَاثُونَ.

(رواہ أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ سے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: "السلام علیکم"، آپ ﷺ نے اس کا جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: "عَشْرٌ" دس۔ پھر دوسرا آدمی آیا اس نے کہا: "السلام علیکم و رحمتہ اللہ"، حضور ﷺ نے اس کا بھی جواب دیا، جب وہ بیٹھ گیا تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: "عِشْرُونَ" بیس۔ پھر تیسرا آیا اس نے کہا: "السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ"، نبی کریم ﷺ نے اس کا بھی جواب دیا، جب وہ بیٹھ گیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: "ثَلَاثُونَ" تیس۔

افنادات:- پہلے نے فقط "السلام علیکم" کہا تھا تو اس کے متعلق فرمایا: دس نیکیاں ملیں۔ دوسرے نے "ورحمۃ اللہ" کا اضافہ کیا تو اس کے لئے نیکیوں میں بھی اضافہ ہوا کہ بیس نیکیاں ملیں۔ اور تیسرا نے "وبرکاتہ" کا بھی اضافہ کیا تو اس کے متعلق فرمایا: تیس نیکیاں ملیں۔

جیسا کہ پچھلی مجلس میں بتایا تھا کہ جن الفاظ میں سلام کیا گیا ہے انہیں الفاظ میں یا ان سے بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے۔ اس لئے کسی نے کہا: "السلام علیکم" تو آپ جواب میں کہیں: "وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ"۔ اگر کسی نے کہا: "السلام علیکم و رحمۃ اللہ" تو

آپ جواب میں ”عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ کہئے۔ اور اگر اس نے سلام میں پورا ہی کہہ دیا ہے، تو آپ جواب میں اتنا ہی کہیں گے۔

جب کوئی سلام کہلاتے

۸۵۲:- وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا جِبْرِيلٌ يَقُرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ . قَالَتْ: قُلْتُ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . (متفق عَلَيْهِ)

وہ کذا وقع فی بعض روایات الصحیحین: ((وَبَرَكَاتُهُ)) وفی بعضها بحذفها، وزیادۃ الشقة مقبولة.

ترجمہ: - حضرت عائشہ زوج النبي فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: یہ جبریل (یہاں تشریف فرمایا ہیں اور) تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جواب میں کہا: ”علیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔“

افادات: - اس روایت کو لا کر ایک مسئلہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کسی پر سلام کہلوائے تو اس کو چاہیے کہ جس نے سلام کہلوایا ہے اس کو بھی جواب دے، اور سلام لے کر آنے والے کو بھی شریک کرے۔ جیسے کسی نے آپ کو کہا کہ: فلاں آدمی نے آپ کو سلام کہا ہے، تو آپ یوں کہئے: ”عَلَيْکُمْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“۔

اب پہلے کس کو ذکر کرے؟ تو دونوں طرح کی باتیں آئی ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ یہ سامنے موجود ہے اس لئے پہلے اس کو ”علیکم“ کہو، اس کے بعد ”علیہ السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ“ کہو۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سلام بھجنے والا اصل ہے، یہ تو صرف قاصد ہے، اس لئے پہلے ”علیہ“ کہو، پھر ”علیکم“ کہو۔

بہر حال! کسی نے سلام کہلوایا ہو تو اس کے جواب دینے کا طریقہ یہی ہے کہ جس نے سلام کہلوایا ہے اس کو بھی جواب دے، اور جو سلام لے کر آیا ہے اس کو بھی ساتھ میں شریک کرے۔

بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں نے سلام کہلوایا ہے، تو صرف ”علیکم السلام و رحمة اللہ و برکاتہ“ کہتے ہیں۔ جب ”علیکم السلام“ بولیں گے تو جو لانے والا ہے، صرف اسی کو جواب ملا، بھیجنے والے کو جواب کہاں ملا؟ اس لئے کہ ”علیکم“ عربی زبان کا لفظ ہے جو سامنے والے (مخاطب) کے لئے بولا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اب جس نے کہلوایا ہے اس کا توجہ جواب ہوا ہی نہیں۔ اس لئے ”علیه“ بھی بولنا چاہیے، جس کا مطلب ہو گا کہ ان پر اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اگر ”علیہ“ نہیں کہا تو جس نے سلام کہلوایا ہے اس کا جواب نہیں ہو گا، اس لئے یہ طریقہ سیکھ لینا چاہیے۔

بہت سے ہمارے بھائی اس سلسلہ میں جانتے نہیں اور جواب میں صرف ”علیکم السلام“ بولنے پر اکتفاء کرتے ہیں، تو ان پر سلام کے جواب کی ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے، اس لئے کہ سلام کرنا سنت ہے، لیکن اس کا جواب دینا واجب ہے۔ لہذا جو جانے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جب بھی ایسی نوبت آئے اور پتہ چلے کہ سلام پہنچانے والے کو جواب دینے کا طریقہ ان کو معلوم نہیں ہے، تو محبت سے ان کو طریقہ سکھادیں کہ اس کا جواب اس طرح دیا جاتا ہے۔

جب بڑے مجمع کو سلام کرے

۸۵۳:- وَعَنْ أُنَيْسٍ ثَنَى ثَعَالَبَ عَنْ أَنَّ اللَّهَ بِئْ مَلَكَ يَأْتِي وَكَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلْمَةٍ أَعَادَهَا

ثَلَاثَةٌ حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أُتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمٌ عَلَيْهِمْ شَلَاثًا۔ (رواه البخاری)

وَهَذَا حَمْوُلٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ الْجَمْعُ كَثِيرًا۔

ترجمہ: - حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کلمہ ارشاد فرماتے تو تین مرتبہ دوہراتے؛ تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور جب کسی قوم اور مجع کے پاس تشریف لاتے اور ان کو سلام فرماتے تو تین مرتبہ سلام کرتے۔

افادات: - یعنی اگر مجع بڑا ہو تو ایک مرتبہ بولنے سے ہو سکتا ہے کہ تمام لوگوں تک آواز نہ پہنچے، اس لئے بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دائیں طرف کہے، ایک مرتبہ باائیں طرف کہے اور ایک مرتبہ سامنے کہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ایسے ہی مطلقاً تین مرتبہ کہے۔ لیکن یہ طریقہ ہر کلمہ میں نہیں تھا بلکہ جو اہم بات ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کو یاد رہ جائے اور اچھی طرح سمجھ لیں، ایسے ہی جملہ کو دو تین مرتبہ دوہراتے تھے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ برابر سننے کو نہ ملا ہو، تو دوسری اور تیسرا مرتبہ میں سن لیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔

جب نائمین کو سلام کرے

۸۵۳: - وَعَنِ الْمِقْدَادِ رضی اللہ عنہ فِي حِدِيثِهِ الطَّوِيلِ، قَالَ: كُنَّا نَرْفَعُ لِلَّهِ بِنَصِيبَتِهِ مِنَ اللَّبَنِ، فَيَجِدُونَنَا مِنَ اللَّيْلِ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوقَظُ نَائِمًا، وَيُسْبِعُ الْيَقْظَانَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ۔ (رواه مسلم)

ترجمہ: - حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی ایک بھی روایت ہے (جس میں پورا قصہ بیان کرتے ہیں جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان ہوئے تھے، اسی میں یہ بھی فرمایا) کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کے حصہ کا دودھ رہنے دیتے تھے (یعنی دودھ آتا تو سب اپنا اپنا

حصہ پی لیتے، اور نبی کریم ﷺ کے حصے کا دودھ بچا کر رکھ دیتے تھے، جب آپ رات کو تشریف لاتے تو اپنے حصے کا دودھ نوش فرمالیا کرتے تھے) جب آپ ﷺ رات کو تشریف لاتے (اور ہم لوگ سو گئے ہوتے) تو آپ ﷺ ایسی آواز سے سلام فرماتے کہ اگر کوئی سو یا ہوا ہوتا تو اس کی نیند میں خلل نہ آتا، اور جو بیدار ہوتا وہ سن لیتا۔

افادات:- اس روایت میں معاشرت کا ایک ادب سکھایا ہے کہ آدمی جب کہیں باہر سے رات کے وقت اپنے گھر میں آئے اور گھر کے لوگ سوئے ہوئے ہوں، یا کمرے میں اور بھی ساتھی سوتے ہیں اور وہ سوچکے ہیں؛ تو اس کو چاہیے کہ گھر کا دروازہ اس انداز سے کھول کر گھر میں داخل ہو، سلام کرے، اپنا بستر ٹھیک کرے، اور دوسرا اپنی ضرورتیں پوری کرے کہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔

کسی کی نیند خراب کرنا حرام ہے

بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ شور مچاتے ہوئے آتے ہیں، اور صرف اپنے گھر اور کمرے والوں، ہی کی نہیں، بلکہ پڑوسنیوں تک کی نیند خراب کر دلتے ہیں؛ یہ بالکل غلط طریقہ ہے جو جائز نہیں۔ یہ تو لوگوں کو تکلیف پہنچانا ہوا اور لوگوں کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم ﷺ نے تو ہمیں یہ طریقہ بتالیا کہ آپ جب ایسے وقت آئیں تو آپ کو ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جو بیدار ہوں ان کو سلام کی آواز پہنچ جائے تاکہ ان کا حق ادا ہو جائے، اور جو سور ہے ہوں ان کی نیند میں کوئی خلل نہ ہو، اس طرح ان کی بھی رعایت ہو جائے گی۔ یہ آدب معاشرت میں سے ہے اور اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ سلام؛ جس کی شریعت میں بہت زیادہ تاکید ہے اور جو سامنے والے کے لئے دعا کا لفظ ہے، اس کے اندر بھی

اتنا اہتمام کیا گیا، تو دیگر چیزوں میں تو کتنا زیادہ لحاظ کیا جانا چاہیے۔

بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ رات کے وقت زور زور سے ریڈ یا اورٹیپ ریکارڈ بجاتے ہیں، اگرچھٹی کادن ہوا، تورات بھر کھیلتے ہیں اور ایسا شور مچاتے ہیں کہ پورے محلے والوں کی نیند خراب کر دلتے ہیں۔ حالاں کہ سونے کے اوقات میں ایسا کوئی طریقہ اختیار کرنے کی شریعت کسی حال میں بھی اجازت نہیں دیتی جس سے کسی کی نیند خراب ہو، اس لیے کہ کسی کی نیند خراب کرنا حرام ہے۔

ہاتھ سے سلام

۸۵۵:- وَعَنْ أَسْمَاءَ بْنِتِ يَزِيدٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا، وَعُصْبَةً مِنَ النِّسَاءِ قَعُودًا، فَأَلَوَى بِيَدِهِ بِالْتَّسْلِيمِ.
وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعَ بَيْنِ الْفُظُّولِ وَالإِشَارَةِ، وَيَقِنُّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا.

ترجمہ:- حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں سے گزرے اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں میٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے زبان سے سلام کیا۔ علامہ نووی رضی خان نے بھی اس کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے سلام اور ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ چنان چہ ابو داؤد شریف کی روایت میں صراحتاً موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ہاتھ سے اشارہ بھی کیا۔

افادات:- کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو سلام کیا جا رہا ہے وہ کچھ دوری پر ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچے گی، اس صورت میں اگر ہاتھ سے بھی اشارہ کر دیا جائے جس سے اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ مجھ کو سلام کیا گیا، تو اس کی

اجازت ہے۔ باقی کوئی آدمی اگر زبان سے ”السلام علیکم“ نہیں بولتا، صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے، تو اس سے سلام والی سنت ادا نہیں ہوگی۔ سلام والی سنت ادا کرنے کے لئے زبان سے بولنا ضروری ہے۔

علیک السلام کہنا

۸۵۶: - وَعَنْ أَبِي جُرَيْشِ الْهُجَيْمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَلَّتُ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((لَا تَقْرُبْ عَلَيْكَ السَّلَامُ مَنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ السَّلَامُ مَتَّحِيَةً الْمَوْتَىٰ)) (رواہ أبو داود و الترمذی، و قال: ((حدیث حسن صحيح)، و قد سبق بِظُولِه)

ترجمہ تشریح: - حضرت ابو جریش ہجیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ”علیک السلام یا رسول اللہ“، (اُس زمانہ میں مُردوں کے لئے سلام کا یہی طریقہ استعمال کیا جاتا تھا) اس لئے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”علیک السلام“، مت کہو، اس طرح تو مُردوں کو سلام کیا جاتا ہے (بلکہ یوں کہنا چاہیے ”السلام علیکم“)۔ اسی طرح سلام کرنا چاہیے، لفظ ”السلام“ پہلے ہو، اور ”علیک“ بعد میں ہو۔ جواب میں ”علیکم السلام“ کہیں گے۔

بَابُ آدَبِ السَّلَامِ

سلام کے کچھ آداب

سلام کے کچھ اور آداب

۸۵: - عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((يُسَلِّمُ الرَّجُلُ عَلَى الْمَأْشِيِّ، وَالْمَأْشِيُّ عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ)) متفق عليه.

وفي رواية للبخاري: ((والصغير على الكبير)).

ترجمہ: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھنے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔

افادات: - جب راستہ میں دو آدمی ملاقات کر رہے ہیں اور ان کا آمنا سامنا ہو رہا ہے، ان میں ایک پیدل ہے اور دوسرا گھوڑے، یا اسکوڑ یا اور کسی سواری پر سوار ہے؛ تو ادب یہ ہے کہ سوار آدمی پیدل چلنے والے کو سلام کرے۔ چوں کسواری کی وجہ سے اس کی حالت پیدل چلنے والے کے مقابلہ میں ذرا اوپھی ہے، تو اس خیال سے کہ شاید سواری پر بیٹھنے کی وجہ سے اس کا داماغ آسمان پر نہ پہنچ گیا ہو، اس کو نیچے اتارنے کے لئے کھا جا رہا ہے کہ تم اس کو سلام کرو۔ یوں نہ سمجھو کہ میں قیمتی موڑ میں سوار ہوں، وہ فٹ پا تھے پر چل رہا ہے، وہ مجھے سلام کرے؛ میں کیوں سلام کروں؟ شریعت اس کو تواضع سکھا رہی ہے، اس لئے اس کو مکلف کیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ

اگر وہ سلام نہ کرے تو پیدل چلنے والا یوں کہے کہ اس نے سلام نہیں کیا، تو میں بھی سلام نہیں کرتا۔ نہیں بھائی! اگر اس نے نہیں کیا؛ تو اب آپ اس کو سلام کر لیجئے۔ جو سلام میں پہل کرے گا اس کو فضیلت حاصل ہوگی۔

اور ایک ادب یہ بتایا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا وہاں سے گزر رہا ہے، تو چوں کہ گزرنے والا آنے والے کے حکم میں ہے، جیسے: کوئی آدمی مکان میں داخل ہو تو داخل ہونے والے کو چاہیے کہ جو لوگ مکان میں پہلے سے موجود ہیں ان کو سلام کرے، اسی طرح چلنے والا بھی بیٹھنے والے کے حق میں ایسا ہی ہے کہ وہ آرہا ہے اور یہ پہلے سے موجود ہے؛ اس لئے اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھنے ہوئے کو سلام کرے۔

اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور ادھر سے آنے والے دو تین آدمی ہیں، تو دو تین آدمیوں کو چاہیے کہ بڑی جماعت کو سلام کرے، اس لئے کہ بڑی جماعت کا زیادہ حق ہے۔

اور جو عمر یا مقام و مرتبہ کے اعتبار سے چھوٹا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا فرض ہے کہ بڑے کی تعظیم اور ادب بجالائے، اور تعظیم و ادب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کو سلام کرے، لیکن اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو بڑے کو چاہیے کہ اس کو سلام کرے۔

اب ایک شکل یہ ہے کہ ادھر سے بھی ایک پیدل آرہا ہے، اور ادھر سے بھی ایک پیدل آرہا ہے، اب حالت کے اعتبار سے کسی ایک کو دوسرا پر فو قیت نہیں دی جاسکتی؛ تو اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اسی کو گلی روایت میں بتانا چاہتے ہیں۔

سلام میں کون پہل کرے؟

۸۵۸:- وَعَنْ أَبِي أُمَّامَةَ صُدَّمِيْ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ ثَانِيَّةَ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ

رسول اللہ ﷺ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ.

رواہ الترمذی عن أبي أمامة ثنا شعاع عن قیل: یا رسول الله! الرّجلان یلْتَقِيَا نَأْيَهَا يَبْدأُ بِالسَّلَامِ؟ قَالَ: أَوْلَاهُمَا بِاللَّهِ تَعَالَى (قال الترمذی: هذَا حدیث حسن) ترجمہ:- حضرت أبو أمامة باہلی شیعۃ العالیہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جو اللہ کا سب سے زیادہ مقرب بندہ ہوگا؛ وہ سلام میں ابتداء کرے گا۔

ایک اور روایت میں ہے: نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! دوآدمی ملاقات کریں تو کون سلام میں ابتداء کرے؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ان دونوں میں جو اللہ کا مقرب ہوگا؛ وہ سلام میں ابتداء کرے گا۔

افادات:- گویا سلام میں ابتداء کرنے کو اللہ تعالیٰ کے قرب کی علامت بتالیا گیا ہے؛ تاکہ لوگ اس میں سبقت کرنے سے کام لیں گے۔ معلوم ہوا کہ سیے بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

سلام اور شیخ الادب رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے، اپنے اساتذہ سے ان کے متعلق سنائے کہ کوئی بھی ان سے سلام میں سبقت نہیں کر سکتا تھا، چھوٹے سے چھوٹا طالب علم ہو، یا بڑے سے بڑا کوئی بھی ہو، ہمیشہ وہی سلام کرتے تھے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں چھپ گیا اور جب مولانا آئے تو اچانک نکل کر مولانا کو پہلے سلام کر دیا۔ گویا اپنے اس عمل کو خفر کے طور پر بیان کرتے تھے کہ میں نے سلام میں ان سے سبقت کی۔ تو بعض ایسے حضرات بھی ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔

بَابِ اسْتِحْبَابِ اِعْادَةِ السَّلَامِ عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ لِقَاءً وَعَلَى قَرْبَ بَأْنَ دُخُولٍ ثُمَّ خُرُوجٍ، ثُمَّ دُخُولٍ فِي الْحَالِ، أَوْ حَالٍ بَيْنَهَا شَجَرَةً وَنَحْوَهَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بار بار سلام کرے

یہاں ایک اور ادب بتلاتے ہیں کہ جس سے بار بار ملاقات کی نوبت آئے تو بار بار سلام کرنا چاہیے۔ مثلاً: ایک آدمی کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلا اور پانچ منٹ کے بعد واپس آگیا تو اس کو چاہیے کہ گھر والوں کو سلام کرے، یوں نہ سوچے کہ ابھی تو میں یہاں سے گیا تھا، اب دوبارہ آیا ہوں؛ تو اب کیا ضرورت ہے کہ میں سلام کروں۔ نہیں! بلکہ یہ بھی مستحب ہے کہ بار بار سلام کرے۔

یا مثلاً دوآدمی جاری ہے تھے اور ان کے درمیان میں درخت یا کوئی دیوار حائل ہو گئی، پھر وہ دونوں ملے؛ تو دوبارہ سلام کریں۔ روایت پہلے بھی آچکی ہے۔

٨٥٩:- عن أبي هريرة رضي الله عنه في حدیث المیسیء صلاته: أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى اللَّهِ بِيٰ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى اللَّهِ بِيٰ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ مع تشریح: - حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ

نبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف فرماتھے، ایک آدمی آ کر نماز میں مشغول ہوا، نماز سے فارغ ہو کر لوٹ رہا تھا تو حضور ﷺ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا (اور چوں کہ اس نے جلد بازی میں نماز پڑھی تھی اس لئے) حضور اکرم ﷺ نے اس کو تاکید فرمائی کہ: جاؤ! دوبارہ نماز پڑھو، اس لئے کتم نے (برا برا) نماز نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گیا، نماز پڑھ کر پھر لوٹا (حضور اکرم ﷺ نے اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لئے بھیجا، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح ہوا۔

افادات:—جب بھی وہ آدمی حضور اکرم ﷺ کے سامنے آیا، اس آدمی نے سلام کیا اور حضور نے جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ پہلی مرتبہ تو میں سلام کر چکا ہوں؟ اب دوسری مرتبہ سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لئے مستحب یہی ہے۔

۸۶۰: وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الَّقِيَ أَخُوكُمْ أَخْأُكُمْ فَلَيْسَ لِمَ عَلَيْهِ
فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جَدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلَيْسَ لِمَ عَلَيْهِ۔ (رواہ أبو داود)

ترجمہ:—حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے کوئی جب اپنے بھائی کی ملاقات کرے تو سلام کرے، اگر درمیان میں درخت، کوئی دیوار، یا کوئی پتھر آڑے آجائے، پھر دوبارہ ملاقات ہو؛ تو پھر سلام کر لے۔

افادات:—دو آدمی ساتھ چل رہے تھے، اور درمیان میں کوئی ایسا راستہ آیا کہ اس کو ادھر سے جانا پڑا اور اس کو ادھر سے نکلا پڑا، تو پھر جب دوبارہ ملیں؛ تو سلام کر لیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

استحباب السلام اذا دخل بيته

گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کا اہتمام مستحب ہے

جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کا اہتمام کرے؛ یہ بھی مستحب ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنی بیوی کو کیا سلام کرنا؟ گویا اس کو اس لائق بھی نہیں سمجھا کہ اسے سلام کیا جائے؟ ایک آدمی سے کہا کہ بھائی! تم جب گھر میں جاتے ہو تو سلام کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا (؟) نہ کرو، سلماً نبَّ (انہ) اس کو کیا سلام کرنا؟ تو یہ بہت برقی بات ہے۔ نبی کریم ﷺ کی عادتِ شریفہ تھی کہ جب بھی گھر میں تشریف لے جاتے تھے تو گھر والوں کو سلام فرماتے تھے۔

قرآنِ پاک کی یہ آیت شروع باب میں بھی آچکی ہے: ﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحْيَيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً﴾ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سلام کرو۔ «فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ» ان کو سلام کر رہے ہو گویا خود اپنی ہی ذات کو سلام کر رہے ہو۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسے گھر میں داخل ہو، جہاں کوئی بھی موجود نہ ہو، یعنی گھر خالی ہے، اور خود ہی تالاکھوں کر اندر داخل ہوا ہے، تب بھی اس کو «السلام علیہنا و علی عبادِ اللہ الصالحین» کہنا چاہیے تاکہ وہاں اللہ کے جو نک بندے؛ جن اور فرشتے وغیرہ ہیں ان پر سلام ہو جائے۔

آسان فہمی ہدایہ

٨٤١- وَعَنْ أَنَّسٍ حَنْوَشَ قَالَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَيَ سَعْيَدٍ ! إِذَا دَخَلْتَ

عَلَى أَهْلِكَ، فَسَلِّمُ، يَكُنْ بَرَّ كَةً عَلَيْكَ، وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ.

(رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن صحيح)

ترجمہ:- حضرت انس بن مالک عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے مجھے تاکید فرمائی کہ: اے میرے پیارے بیٹے! جب تم اپنے گھروں کے پاس جاؤ تو ان کو سلام کرو، یہ تمہارے اور تمہارے گھروں کے لئے برکت کا ذریعہ ہو گا۔

افادات:- معلوم ہوا کہ سلام کی وجہ سے گھروں میں برکت ہوتی ہے۔ اگر گھروں کو ”السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته“ کہہ کرتیں تین دعائیں دیدیں؛ تو ان کے لئے اس سے بڑا ہدیہ اور کیا ہو سکتا ہے!۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

السلام على الصبيان

بچوں کو سلام کرنا

٨٦٢:- عن أنس بن ثابت قال: أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبَيْأَنِ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . وَقَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَفْعَلُهُ . (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: - حضرت انس بن ثابت علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ دو بچوں کے پاس سے گزرے تو بچوں کو سلام کیا، پھر یہ بات نقل کی کہ: نبی کریم ﷺ اسی طرح کرتے تھے۔

افادات: - معلوم ہوا کہ چھوٹے بچے کو بھی سلام کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو آدمی میں تواضع آتی ہے، دوسرا یہ کہ ان بچوں کی تربیت ہوتی ہے، وہ سکھتے ہیں کہ سلام کس طرح کیا جانا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ اپنے بڑے مقام، عظیم مرتبہ اور عظمت کے باوجود اس بات کا اہتمام کرتے تھے؛ تو ہمیں تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ایک مرتبہ اہتمام کریں گے تو دوسری مرتبہ بچے خود سبقت کریں گے، اس طرح ان کو تعلیم بھی ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اچھا طریقہ تو وہی ہے کہ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے، لیکن ان کو سکھانا بھی تو ایک اہم ضرورت ہے، اس لئے ہم اسی نیت سے سلام کرتے رہیں۔

بَاب سَلَامُ الرَّجُل عَلَى زَوْجِهِ

وَالمرأة مِن حَارِمَه

وَعَلَى أَجْنبِيَّةٍ وَأَجْنبِيَّاتٍ

لَا يَخَافُ الْفِتْنَةَ بِهِنْ

وَسَلَامٌ هُنْ بِهِنْ الشَّرط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یہاں ایک اور ادب بتلاتے ہیں: آدمی کا اپنی بیوی کو سلام کرنا۔ یا محرم عورت جیسے ماں، بہن، خالہ، پھوپھی اور نانی، دادی۔ کو سلام کرنا۔ یا اسی طرح ایک یا کئی اجنبی عورتوں کو سلام کرنا، لیکن اجنبی عورتوں کے سلام کے سلسلہ میں یہ قید لگائی کہ جب کسی قسم کے فتنہ کا ڈر اور اندر یشنا ہو۔ یا ایسی بوڑھی عورت ہو کہ اس کی طرف دل میں شہوت پیدا ہونے کا سوال ہی نہ ہو؛ تو اس کو بھی سلام کر سکتے ہیں، ایسی عورت کے لیے کتب فقہ کے اندر ”جَعْوَزًا شَوْهَاءَ“ کے الفاظ آتے ہیں۔ اور اگر وہ اجنبی عورت نوجوان ہے، جس کو سلام کرنے سے دل میں شہوت، یا فتنہ پیدا ہونے کا اندر یش

ہے؛ تو اس صورت میں سلام نہ کرے۔ اور اگر سلام اس عورت نے کیا ہو تو دل میں جواب دے، زبان سے جواب نہ دے۔ ہاں! اگر اس کے محارم وہاں موجود ہوں اور اس نے سلام کیا ہو، تو اس صورت میں اس کا جواب دینے میں کوئی فتنہ کا اندر یشہ نہیں ہے؛ تب گنجائش ہے۔

خاندان کی بوڑھی عورتوں کو سلام کرنا

٨٦٣:- عن سهيل بن سعيد رضي الله عنه قال: كأنثَ فِينَا امْرَأًةٌ - وفي روایة: كأنثَ لَنَا عَبُورٌ - تَأْخُذُ مِنْ أَصْوَلِ الْيَمِيقِ فَتَطَرَّحُهُ فِي الْقِدْرِ، وَتُكَرِّرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ، وَأَنْصَرْفُنَا، نُسْلِمُ عَلَيْهَا، فَتُقْدِمُهُ إِلَيْنَا. (رواہ البخاری).

ترجمہ:- حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایک عورت تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ بہت بوڑھی تھی، وہ ایک ہندیا کے اندر کچھ چقنس دراور جو کے دانے پیس کر پکا کر کھلیا کرتی تھی۔ جب ہم جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس سلام کے لئے جاتے تھے، تو وہ ہمارے سامنے پیش کر دیا کرتی تھی۔

افادات:- بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ہم جمعہ کے دن کا انتظار کرتے تھے، اور ہمیں اس دعوت کا انتظار رہتا تھا۔ جب ہم سلام کرنے کے لئے جاتے تھے تو وہ ہمارے سامنے وہی کھانا پیش کرتی تھی، اس لئے ہم جمعہ کا دن آنے پر بڑے خوش ہوتے تھے۔

اس روایت کو لا کر یہ بتلاتے ہیں کہ وہ عورت ایسی بوڑھی تھی کہ کسی قسم کے فتنہ میں پڑنے کا اندر یشہ نہیں تھا، تو ان کو سلام کرنے کے لئے جاتے تھے۔ اس طرح اگر وہ

محرم ہے، جیسے: دادی، نانی، خالہ، بہن وغیرہ؛ تب بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ان کو سلام کر سکتے ہیں۔

فتنه کا اندر یشہ نہ ہو تو کسی بھی نام حرم کو سلام کا جواب دینا

۸۶۴:- وَعَنْ أُمِّ هَانِيٍّ فَأَخْتَةَ بَنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَهُوَ يَعْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتَرُهُ بِثُوبٍ، فَسَلَّمَتْ... وَذَكَرَتِ الْحَدِيثِ.

(رواہ مسلم)

ترجمہ: - حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا جن کا نام فاختہ ہے (حضرت علی رضی اللہ عنہ عزیز کی بہن ہیں) فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقعہ پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تشریف لائے تو مسجد حرام جانے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کپڑے سے پردہ کئے ہوئے تھیں۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمادیں: اس وقت میں آئی اور سلام کیا۔ پھر حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا نے باقی حدیث بیان کی۔

افنادات: - حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا: میں نے اپنے خاندان کے ایک آدمی کو پناہ دے رکھی ہے (انہوں نے اپنے دیور کو پناہ دے رکھی تھی) اور میرے بھائی علی (رضی اللہ عنہ) اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے جس کو پناہ دی، اس کو ہم نے بھی پناہ دیدی۔

یہاں تو یہ روایت اس لئے لائے کہ حضرت اُم ہانی رضی اللہ عنہا می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، انہوں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔

۸۶۵:- وَعَنْ أَسْمَاءَ بَنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ عَلَيْنَا۔ (رواہ أبو داود والترمذی وقال: حدیث حسن. وهذا الفظ أبی داود)

ولفظ الترمذی: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ يَقُولُ مَاً، وَعَصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلَوْيَ بِيَدِهِ بِالْتَّسْلِيمِ.

ترجمہ:- حضرت اسماء بنت زید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتب نبی کریم ﷺ نے ہمیں سلام فرمایا۔
عورتوں کے پاس سے گزرے، تو آپ نے ہمیں سلام فرمایا۔

دوسری روایت میں ہے: نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ مسجد میں سے گزرے، عورتوں کی ایک جماعت وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے زبان سے سلام کیا۔

افادات:- یہ روایت اوپر کھلی گز رچکی ہے۔ بس! یہاں قید وہی ہے کہ اگر عورتوں کو سلام کرنے میں کوئی فتنہ نہ ہو تو ان کو سلام کرنے کی اجازت ہے، ورنہ نامحرم عورتوں کو سلام نہیں کر سکتے۔

بَاب تحريره ابتدائنا الكافر بِالسَّلامِ وَ كيْفِيَة الرُّد عَلَيْهِم وَ استحبَاب السَّلامِ عَلَى أَهْل مَجْلِسٍ فِيهِم مُسْلِمُون وَ كُفَّارٌ غَيْر مُسْلِمُون كُو سلام میں پہل نہ کرنا اور مخلوط مجموعوں میں سلام کرنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلام کا ایک اور ادب بتلاتے ہیں کہ کافروں کو سلام کرنے میں ہماری طرف سے پیش قدمی اور ابتدائیں ہونی چاہیے۔ فقہاء لکھتے ہیں کہ کسی دوسرے طریقہ سے غیر مسلم کی خیریت تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن ان کو ابتداء سلام کے الفاظ نہ کہیں۔ اور اگر وہ ”السلام علیکم“ کہیں، تو ان کو جواب میں صرف ”علیکم“، کہنا چاہیے، یعنی تم پر۔ اور جس مجلس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں ہیں؛ تو مسلمانوں کی نیت سے سلام کر سکتے ہیں۔

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا تَبْدَأُ وَالْيَهُودَ وَ
وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلامِ، فَإِذَا قِيَتمُ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطُرُوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ.
— ۸۶۶

ترجمہ: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہود و نصاریٰ کو سلام کرنے میں پہلی مت کرو، اور جب راستے میں ان سے ملوتوان کے لئے راستے مت چھوڑو۔

۸۶۷: - وَعَنْ أُنَسِّ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: - حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر اہل کتاب تم کو سلام کریں تو جواب میں تم ”علیکم“، کہو۔

۸۶۸: - وَعَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ جَلِيلٍ فِيهِ أَخْلَاطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ - عَبْدَةَ الْأَوْثَانِ - وَالْيَهُودِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (متفرقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: - حضرت اسامة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مجمع کے پاس گزرے جس میں مسلمان، مشرکین، بنت پرست اور یہود؛ سب مخلوط تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کو سلام کیا۔

افادات: - پہلی روایت میں یہ بتایا کہ یہود و نصاریٰ اور غیر مسلموں کو سلام کرنے میں ہماری طرف سے ابتداء نہیں ہونی چاہیے۔ اور جب راستے میں ان سے ملاقات ہو، تو ان کے لئے راستہ نہ چھوڑو، بلکہ آپ اپنا راستہ چلتے رہو، خاص کر جب کہ وہ ذمی - یعنی اسلامی حکومت کے شہری - ہوں؛ تو اس صورت کے اندر اسلام کی سر بلندی برقرار رکھنے کے لئے اس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے جس سے ان کی تعظیم لازم نہ آتی ہو، بلکہ ایسی کوئی شکل اختیار کرنا جائز نہیں ہے جس میں ان کی تعظیم ہو، ایسا کرنا گناہ ہے، اس سے بچا جائے۔

دوسری روایت میں یہ بتالیا کہ اگر وہ سلام کریں؛ مثلاً کسی یہودی نے ”السلام علیکم“ کہا، تو آپ جواب میں صرف ”علیکم“ کہیے۔ حضور اکرم ﷺ اسی طرح کہا کرتے تھے۔ یہودی نبی کریم ﷺ کے ساتھ بہت شرات کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ کو شرات کے طور پر کہا: ”السَّامُ عَلَيْكُمْ“ ”سام“ عربی زبان میں موت کو کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان کا مطلب سمجھ گئی، تو میں نے جواب میں ان کو کہا: ”وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ“ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: اری! چھوڑ و بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر معاملہ میں نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی درست فرمائی: ”عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ“ ذرا نرمی سے کام لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سنا نہیں! انہوں نے کیا کہا؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے کیا جواب دیا وہ تم نے نہیں سنا؟ میں نے جواب دیا: ”وَعَلَيْكُمْ“ تم پر بھی۔ (بخاری شریف: ۳۴۵۵، باب الدُّعاء عَلَى الْمُشْرِكِینَ)

قرآن پاک کا حکم ہے: ”وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُونَ إِمْثُلَ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ“ اگر بدله لینا ہی ہو تو اتنا ہی لے سکتے ہو جتنی اس نے زیادتی کی ہے، اگر کچھ اور آگے بڑھیں گے؛ تو یہ ہماری طرف سے تعدی ہو جائے گی۔ اس لئے ہمارا عمل یہی ہونا چاہیے۔

تیسرا روایت میں بتالیا: اگر کسی مجمع میں مسلم اور غیر مسلم دونوں قسم کے لوگ ہوں تو اس صورت میں ”السلام علیکم و رحمۃ اللہ“ کہا جائے لیکن نیت صرف مسلمانوں کو سلام کرنے کی کی جائے گی۔

بَابِ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ إِذَا قَامَ مِنْ

الْمَجْلِسِ وَفَارَقَ جُلْسَاءَهُ أَوْ جَلِيْسَهُ

جب مجلس سے اٹھے، یا ساتھیوں کو الوداع کہے

یا ایک ساتھی سے رخصت ہو؛ تو سلام کرنا چاہیے

بعض لوگ رخصتی کے موقع پر سلام کو درست نہیں سمجھتے، یہاں اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رخصتی کا سلام کرنا چاہیے۔

٨٦٩:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ فَلْيُسْلِمْ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فَلْيُسْلِمْ، فَلَيُسْتَأْذِنَ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ۔ (رواہ أبو داؤد والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ایسی مجلس میں پہنچ جہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؛ تو اس کو چاہیے کہ سلام کرے۔ اور جب وہاں سے واپس لوٹنے کا ارادہ کرے؛ تب بھی سلام کرے، اس لئے کہ پہلے والاسلام، آخری والے سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ جس طرح پہلے والاسلام کرنا چاہیے، اسی طرح اخیر میں رخصتی پر بھی سلام کر کے وہاں سے اٹھے۔

بَابِ الْأَسْتِيْدَانِ وَآدَابِهِ
کسی کے یہاں جانے پر اجازت لینے کے
احکام و آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سلام کے سلسلہ میں ایک عنوان قائم کیا ہے: جب کوئی آدمی کسی کے گھر جائے تو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے۔ اور اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے احکام بیان کرنا چاہتے ہیں۔

سلام کا بیان جہاں شروع ہوا تھا وہاں بتلا دیا تھا کہ اسلام میں ”استیزان“، یعنی کسی کے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے اور بغیر اجازت کے داخل نہ ہونے کا بڑا اہتمام اور تاکید ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب میں رواج تھا کہ کوئی آدمی کسی کے گھر جاتا تو یونہی بغیر اجازت کے داخل ہو جاتا تھا، لیکن قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ میں مستقل پورے دور کو ع (النور، رکوع: ۱۰۰ و ۱۰۲) نازل فرمائے ہیں، جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا جاسکتا ہے، اور اس کی باقاعدہ پوری تفصیل بتلائی کہ کون کون لوگ اجازت لیں، کون سے گھروں میں اجازت لینی چاہیے، کون سے اوقات میں اجازت کا اہتمام کرنا چاہیے، خود گھر کے رہنے والوں کو کس طرح اہتمام کرنا چاہیے؛ یہ ساری تفاصیل اس میں بتلائی گئی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پرده کا چوں کہ وہ اہتمام نہیں ہوتا جو شریعت میں مطلوب ہے، اس لئے استیزان والے سلسلہ میں بھی ہمارے یہاں بڑی کوتا ہیاں برتنی جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی طرف توجہ اور اہتمام کیا جائے۔

اس باب میں جو آیت پیش کی ہے وہ پہلے بھی پیش کر حسکے ہیں: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا لَنَعْلُمُ خَلُوَابِيْنَ تَأْغِيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّىٰ تَشَتَّأْنُسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا﴾ (النور: ۲۰)

اے ایمان والو! تم اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو، جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کرو۔ معلوم ہوا کہ پہلے اجازت لینی چاہیے

اور اجازت لینے کے لئے سلام کرنا چاہیے۔ ایک سلام اجازت طلب کرنے کے لئے ہوتا ہے، اور ایک سلام اجازت مل چکنے کے بعد داخل ہونے کے لئے ہوتا ہے۔

جب فاروقِ عظیم نے حضرت آشعریؑ سے گواہ طلب کیے

۸۷:- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإن لا فارجع. (متفقٌ عليه).

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اجازت طلب کرنا تین مرتبہ ہے، اگر ان تین مرتبہ میں تمہیں اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے؛ ورنہ آپ واپس لوٹ جائیے۔

افادات:- یہاں ایک قصہ بھی ہے جو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دورِ خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے کاموں میں مصروف تھے، اسی دوران حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ عنہ ان کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی۔ چوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کام میں مصروف تھے اس وقت اجازت نہیں دی، خاموش رہے۔ ایک مرتبہ اجازت طلب کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ انہوں نے اجازت طلب کی، پھر بھی جواب نہیں ملا، تیسرا مرتبہ اجازت طلب کی، پھر بھی جواب نہیں ملا تو وہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کاموں سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا: ابھی میں نے ابو موسیٰ کی آواز سنی تھی کہ وہ اجازت طلب کر رہے تھے، ان کو بلا و۔ جب آدمی باہر گیا تو دیکھا کہ حضرت ابو موسیٰ آشعری رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں، اس نے آکر کہا کہ وہ تو چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ان کو بلا و۔

آدمی گیا اور بلا لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تم واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے کہا: میں نے نبی کریم ﷺ سے سنائے ہے کہ اجازت تین مرتبہ طلب کرنی چاہیے، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اجازت نہ دی جائے، یا صاف صاف انکار کر دیا جائے کہ آپ واپس تشریف لے جائیے؛ دونوں صورتوں میں واپس لوٹ جانا ہپا ہیے۔ اور حدیث بھی یہی ادب بتلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے: ﴿وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا مِنْهُمْ مِمَّا أَنْتُمْ مِنْهُ بِهِ﴾^(سورہ النور آیۃ: ۲۸) اس آیت میں صاف حکم ہے کہ اگر گھروالے کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اس وقت واپس تشریف لے جائیے، میں ملاقات کی پوزیشن میں نہیں ہوں، یا اس وقت میرے پاس ملاقات کے لئے گنجائش اور موقع نہیں ہے، تو آپ برانہ مانے، بلکہ واپس تشریف لے جائیے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد حضرت عمرؓ کو سنا کر عرض کیا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت طلب کی تھی اور آپ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اس لئے میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: تم حضور اکرم ﷺ کا جو ارشاد نقل کر رہے ہو؛ سپر تمہارے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اگر ہے تو گواہ پیش کرو؛ ورنہ میں سزادوں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے اور گھبرائے ہوئے واپس لوٹے کہ میں نے تو نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد سنائے ہے، دوسرے کن کن لوگوں نے سنائے ہے، یہ مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد سنائیں تھا۔

چنان چہ اس موقعہ پر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کتاب الاحکام میں ایک باب لائے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم ﷺ کے بڑے بڑے صحابہ کے علم میں حضور اکرم ﷺ کی کوئی بات نہ آئی ہو، اور اس باب میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہی قصہ ذکر کیا ہے کہ حضرت

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور ﷺ کا یہ ارشاد معلوم نہیں تھا۔

بہر حال! حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ کا مطالبہ کیا تو وہ گواہ تلاش کرنے کے لئے نکل، بخاری شریف میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانصار ہیں، ان کی مجلس لگی ہوئی تھی جہاں سب انصار ہی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرائے ہوئے وہاں پہنچے اور کہا: تم میں سے کسی نے نبی کریم ﷺ کا یہ ارشاد سننا ہے؟ کہ تین مرتبہ اجازت طلب کرو، اگر مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ اس لئے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے اس بات پر گواہ طلب کئے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس مجلس کے صدر نہیں تھے انہوں نے کہا: یہاں جتنے لوگ موجود ہیں سب نے حضور اکرم ﷺ کا یہ ارشاد سننا ہے، اور آپ کی گواہی کے لئے اس مجلس میں جو سب سے چھوٹی عمر کا آدمی ہے اس کو ہم بھیجنیں گے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ: اس مجلس میں سب سے چھوٹی عمر کا میں ہی تھا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: ان کے ساتھ جاؤ، اور گواہی دو۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور گواہی دی، تب کہیں ان کی جان چھوٹی۔

گواہ طلب کرنے کی تکوینی وجہ

ہمارے حضرت مفتی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ایک چیز ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: یہاں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ پیش آیا اس کی ایک تکوینی وجہ بھی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں ایک موقع

پرقبیلہ آشعر کے لوگوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری طلب کرنے کے لئے بھیجا کہ آپ ہمارے لئے سواری طلب کیجئے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے موقع پر پہنچ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پر کسی وجہ سے ناراض تھے۔ انہوں نے سواری طلب کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سواری نہیں تھی، اس لئے مجیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: میرے پاس سواری نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھالی کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپس چلے آئے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے سواری کے جانور آگئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابو موسیٰ سواری طلب کرنے کے لئے آئے تھے، ان کو بلا و بلوایا گیا پھر فرمایا: سواری کے یہ جانور لے جاؤ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے جانور لے کر چلے گئے۔

جس وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری طلب کرنے کے لئے آئے تھے اس وقت ان کے ساتھ ان کے قبیلے کے دوآدمی اور بھی ساتھ تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے جانور عنایت فرمائے اور وہ ان کو لے کر اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ: دیکھو! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے جانور تو عنایت فرمادے لیکن پہلی مرتبہ جب میں گیا تھا اور سواری طلب کی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا تھا اور قسم کھالی تھی کہ میں سواری نہیں دوں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قسم بھول گئے۔ اگر ایسی حالت میں یہ سواری کے جانور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائے ہوں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا علمی میں رکھ کر جانور لے لیں، تو ہمارے لئے اس میں برکت نہیں ہوگی، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کرنی چاہیے۔ اور ان دوآدمیوں سے جو پہلی مرتبہ ان کے ساتھ تھے۔ کہا: تم میرے ساتھ گواہی دینے کے لئے حضور، تاکہ تم

گواہی دے سکو۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے اللہ عنہ ان دوآدمیوں کو لے کر حضور اکرم ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سواری نہ دینے کا ارادہ فرمایا تھا اور اس پر قسم کھائی تھی کہ نہیں دوں گا، اور دونوں گواہ بھی پیش کئے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: مجھے اپنی قسم یاد تھی، لیکن یہ سواری کے جانور میں نہیں دیئے، اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میں کسی بات پر قسم کھالوں اور پھر مجھے یہ پتہ چلے کہ اس کے خلاف میں خیر اور بھلاکی ہے، تو میں اپنی قسم توڑ دیتا ہوں اور کفارہ دیدیتا ہوں۔

شرح فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں تکوینیات کے قبل سے ہوتی ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم ﷺ نے کوئی گواہ طلب نہیں کئے تھے، لیکن حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے اللہ عنہ دوآدمی لے جانے کا اہتمام اپنی طور پر کیا، تو اس کی تکوینی سزا یہ بھلکتی کہ حضرت عمرؓ کے دورِ خلافت میں ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔

استیذ ان کے وقت تاک جھانک نہ کرے

۱۷:- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْأَسْتِيذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ۔ (متفق عليه)

ترجمہ: - حضرت سہل بن سعدؓ نے اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اجازت لینے کا حکم زگاہ کو کسی کے گھر میں بلا اجازت ڈالنے سے بچنے کے لئے دیا گیا ہے۔

افنادات: - کسی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہیں ہونا چاہیے جب تک داخل ہونے کی اجازت نہ مل جائے۔ یہ حکم شریعت نے اس لئے دیا ہے کہ اگر آپ بغیر اجازت کے داخل ہو جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کسی ایسی ہیئت میں بیٹھا ہو جس

حالت میں کوئی اس کو دیکھے، یہ اس کو ناپسند ہو، یا کوئی ایسی چیز اس کے گھر میں موجود ہو جس پر کسی اجنبی کی نگاہ پڑنے کو وہ گوارہ نہ کرتا ہو؛ اس لئے اگر پہلے سے اجازت لے لیں گے تو وہ جن چیزوں کو آنے والے سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے؛ ان کو یہ چھپا دے گا پھر داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ اب اگر آپ باہر کھڑے کھڑے اجازت تو طلب کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر میں جھانک بھی رہے ہیں جیسا کہ بعضوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس اجازت کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لئے اس روایت میں اجازت طلب کرنے کا طریقہ بتلا یا جارہا ہے کہ اس طرح اجازت نہ لو کہ آپ اندر جھانک رہے ہو، بلکہ دروازہ کے سامنے سے ہٹ کر ایک کنارے پر ایسے کھڑے ہو کہ اجازت طلب کرو کہ تمہاری نگاہ بھول سے بھی اندر نہ پڑنے پائے، پھر جب اجازت مل جائے تب ہی گھر میں داخل ہونا چاہیے۔

گھس سکتا ہوں، یا آسکتا ہوں

۸۷۲:- وَعَنْ رِبْعَيٍّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ أَذَّهُ أَسْتَأْذَنَ عَلَى اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ وَهُوَ فِي بَيْتٍ، فَقَالَ: أَأَجِعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ: أُخْرُجْ إِلَى هَذَا، فَعَلِمَهُ الْإِسْتِئْذَانَ. فَقُلْ لَهُ: قُلْ: إِسْلَامٌ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلْ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ، فَقَالَ: إِسْلَامٌ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُخَلٍ. (رواہ أبو داود بسناد صحيح)

ترجمہ:- حضرت ربیع بن حراش رض فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو عامر کے ایک آدمی نے مجھے یہ قصہ بیان کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسالم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسالم گھر ہی میں تشریف فرماتھے، اس نے کہا: أَأَجِعُ؟ (جس کا لفظی ترجمہ یوں ہوتا ہے کہ کیا

میں اندر گھسوں؟) تو حضور اکرم ﷺ نے اپنے خادم سے فرمایا: باہر جاؤ اور اس آدمی کو اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ، اس سے کہو کہ یوں کہے: **السلام علیکم، آدُّخُلْ؟** ”السلام علیکم“ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس آدمی نے باہر ہی سے یہ بات سن لی اور فوراً کہا: **السلام علیکم، آدُّخُلْ؟** ”السلام علیکم“ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! آ جاؤ؛ تو پھر وہ داخل ہوا۔

افادات: - کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لئے اچھا الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے: ”کیا میں آپ کے گھر میں گھس سکتا ہوں؟“ اس کے بجائے کہے: ”کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟“ تو آپ ہی غور کیجئے کہ مفہوم تدونوں کا ایک ہی ہے، لیکن دوسرے جملہ میں جواب ہے وہ پہلے میں نہیں ہے۔ ادب اور تعبیر کے اعتبار سے دونوں میں بڑا فرق ہے۔

یہاں پر اس آدمی نے اجازت طلب کرنے کے لئے ایک تو سلام نہیں کیا، اور پھر ان الفاظ میں اجازت مانگی؛ تو حضور اکرم ﷺ نے اپنے خادم کے ذریعہ اس کو اجازت لینے کا طریقہ سکھانے کو فرمایا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اجازت طلب کرنے کے لئے خلافِ ادب الفاظ و کلمات استعمال کرے تو اس کو اجازت دینے سے روک سکتے ہیں اور اس کو ادب سکھایا جاسکتا ہے۔

یادگار تنبیہ

٨٧٣: عَنْ كَلْمَةِ بْنِ الْحَبْيلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أَسْلِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ارْجِعْ فَقْلَ: الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ، آدُّخُلْ؟

(رواہ أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت کلدہ بن عنبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور بغیر سلام کے آپ کے گھر میں داخل ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: واپس جاؤ اور کہو: السلام علیکم، کیا میں آ سکتا ہوں؟

افادات:- معلوم ہوا کہ کسی آدمی کی تعلیم و تربیت کی غرض سے اگر اس طرح کا معاملہ کیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ چون کسی بڑے کی طرف سے بطور تنبیہ کے اگر ایسا کیا جاتا ہے، تو یہ تنبیہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر زندگی بھر یاد رہ جاتی ہے، اور اس سے اس غلطی کی ہمیشہ کے لئے اصلاح ہو جاتی ہے، اس لئے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔

بَابُ بِيَانِ أَنَّ السَّنَةَ إِذَا قِيلَ لِلْمُسْتَأْذِنِ:
مَنْ أَنْتُ؟ أَنْ يَقُولُ فَلَانٌ، فِي سَمِّي نَفْسِهِ
بِمَا يَعْرِفُ بِهِ مِنْ اسْمٍ أَوْ كُنْيَةَ
وَكُراهِيَّةُ قَوْلِهِ أَنَا وَنَحْوُهَا
اجازت طلب کرنے والے سے جب پوچھا
جائے: کون ہو؟ تو جواب میں وہ اپنانام بتائے،
یا وہ لقب، کنیت یا صفت جس سے وہ مشہور ہو۔
”میں ہوں“ نہ کہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

گھروالے کے پوچھنے پر جواب دینے کا مسنون طریقہ

جب کوئی آدمی کسی کے گھر میں جانے کی اجازت طلب کرے، اور گھروالے کی طرف سے پوچھا جائے کہ کون ہو؟ تو جواب میں وہ اپنا نام، یا وہ لقب، کنیت اور صفت جس سے وہ مشہور ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گھروالے کو پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی اجازت طلب کر رہا ہے۔ جواب میں یوں نہ کہے کہ: میں ہوں۔ یا ایسا لفظ استعمال نہ کرے جس سے گھروالوں کو پتہ چل سکے کہ کون ہے۔ اس لئے کہ گھروالے کے پوچھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اجازت طلب کرنے والی شخصیت کون ہے، تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دوں یا نہ دوں۔ جب آپ اپنا نام لیں گے تب ہی تو اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں؟ ”میں“ یا کوئی ایسا لفظ جس سے تعارف نہ ہوتا ہو؛ تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔

٨٧٣:- وَعَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّٰهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ الْمَشْهُورِ فِي الْإِسْرَاءِ، قَالَ قَالَ
 رسول الله ﷺ: ثُمَّ صَدَعَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتُفْتَحَ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. ثُمَّ صَدَعَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَاسْتُفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيلُ. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. وَالثَّالِثَةُ وَالرَّابِعَةُ وَسَائِرُهُنَّ وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: مَنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: جِبْرِيلُ.

(متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت انس بن مالکؓ کے حوالہ سے (حدیث کی کتابوں میں) معراج کا مشہور واقعہ نقل کیا گیا ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب حضرت جبریل علیہ السلام مجھے

لے کر آسمانوں کے اوپر پہنچے، اور پہلے آسمان کا دروازہ کھلوایا، تو اندر سے پوچھا گیا: کون ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ پھر دوسرے آسمان کا دروازہ کھلوایا، تو اندر سے یہی پوچھا گیا: کون ہو؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب میں کہا: میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا: آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں۔ پھر تیسرا پوچھتے اور تمام آسمانوں پر یہی صورت پیش آئی کہ (جب دروازہ کھلوانے کے لئے درخواست کی جاتی تو) اندر سے سوال کیا جاتا کہ کون ہو؟ اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کہتے: میں جبریل ہوں۔

افادات: - حضرت جبریل علیہ السلام اپنا نام لیتے تھے کہ میں جبریل ہوں، یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ہوں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر گھروالے کی طرف سے ساتھ میں آنے والوں کے متعلق پوچھا جائے تو اس کا بھی نام بتلانا چاہیے کہ میرے ساتھ فلاں ہے۔

۸۷۵: - وَعَنْ أَبِي ذِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ لِيَلَةً مِنَ اللَّيْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ، فَإِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَمَحَدِّهُ، فَجَعَلْتُ أَمْثِيلَهُ فِي ظَلِّ الْقَمَرِ، فَأَتَفَقَتْ فَرَآتِي، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَلَّتْ: أَبُو ذِرٍ. (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: - حضرت ابوذر بن عقبہؓ نے فرماتے ہیں کہ میں ایک رات گھر سے باہر نکلا (چاندنی رات تھی) میں نے دیکھا کہ یہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں بھی ذرا دور ہٹ کر چاند کی روشنی میں چلنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچے مڑ کر مجھے دیکھا اور پوچھا: کون ہو؟ میں نے کہا: ابوذر ہوں۔

افادات: - دیکھو! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا: کون ہو؟ تو انہوں نے جواب میں اپنا نام بتلا�ا۔ بعض لوگ "میں" بولتے ہیں، یا چپ چاپ رہتے ہیں، کچھ بولتے ہی نہیں؛ یہ بھی غلط ہے۔ جب پوچھا جائے کہ کون ہو؟ تو اپنے متعلق بتلا دے۔ یہ قصہ پہلے

بھی کسی موقع پر تفصیل سے آچکا ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: اچھا! میرے ساتھ چلو، تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے ساتھ چلے، آپ ﷺ بستی سے باہر تشریف لے گئے، ایک جگہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں، یہاں سے نہ ہٹنا، اس کے بعد حضور ﷺ کی حضرت جبریل سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔

۸۷۶:- وَعَنْ أُمِّ هَانِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتَرُهُ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ. (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت اُم ہانیؓ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئی تو آپ غسل فرمائے تھے، حضرت فاطمہؓ پر پردہ کئے ہوئے تھیں۔ حضور اکرم ﷺ نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے کہا: میں اُم ہانی ہوں۔ (یہ روایت پچھلی مجلس میں گزر چکی)

”میں“، کہنا، صحیح جواب نہیں

۸۷۷:- وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَقَّقْتُ الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، أَنَا! كَانَهُ كَرِهَهَا. (متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور دروازہ کٹکھٹایا تو آپ ﷺ نے پوچھا: کون ہو؟ میں نے کہا: ”میں“۔ تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ”میں، میں“ (کیا کرتے ہو؟) گویا آپ ﷺ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔

افنادات:- اس لئے کہ ”میں“ کہنے سے تعارف تو ہوتا نہیں، اس لیے اس جواب پر آپ ﷺ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ: یہ ”میں“ کوئی جواب تھوڑا ہی ہے۔ ان سب روایتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ کون ہو؟ تو جواب میں اپنانام بتلائے؛ تاکہ پوچھنے والا پہچان لے۔

استحباب تشمیت العاطس اذا حمد الله تعالى
وكرابه تشمیته اذا لم يحمد الله تعالى
وبیان آداب التشمیت والعطاس والتلاؤب

چھینک کھانے والے کو جواب دینے کا مستحب ہونا؛ اگر وہ

الحمد لله کہے

اگر وہ الحمد لله نہ کہے تو اس کو جواب نہ دیا جائے

اور چھینک کھانے اور جمائی لینے کے آداب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اسبابِ چستی پسندیدہ، اسبابِ سستی ناپسندیدہ

۸۷۸:- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَطَاسَ، وَيَكْرَهُ التَّشاؤبَ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ حَقًا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ: يَبْحَمُكَ اللَّهُ، وَأَمْمًا التَّشاؤبُ فِيمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَشَاءَتْ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْدَدْهَا مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا تَشَاءَتْ صَحَّافَتْ مِنْهُ الشَّيْطَانُ.

(رواية البخاري)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ چھینک کو پسند کرتے ہیں، اور جمائی لینے کو ناپسند کرتے ہیں، جب کوئی آدمی چھینک کھا کر الحمد للہ کہے تو جو مسلمان بھی اس کو سنے اس پر ضروری ہے کہ جواب میں یہ حمک اللہ کہے۔ اور جمائی لینا شیطان کے اثر سے ہوا کرتا ہے، اس لئے اگر کسی کو جمائی آنے لگتا تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس لئے کہم میں سے جب کسی کو جمائی آتی ہے (اور وہ اپنا منھ چوڑا کرتا ہے) تو شیطان اس پر ہستا ہے۔

افادات:- چھینک اور جمائی دونوں غیر اختیاری چیزیں ہیں تو پھر اس میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا کیا مطلب؟ جو چیز آدمی کو غیر اختیاری طور پر پیش آئے اس کے بارے میں حضور اکرم ﷺ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جمائی آنے کے کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں، جیسے آدمی زیادہ کھائے تو اس کی وجہ سے سستی رہتی ہے اور اسی کے نتیجہ میں جمائی آتی ہے۔ گویا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آدمی کا ایسے اسباب اختیار کرنا جس کے نتیجہ میں جمائیاں آنے لگیں؛ اس کو پسند نہیں

کیا گیا ہے، اس لئے آدمی زیادہ نہ کھائے اور اپنی طبیعت پر سستی نہ طاری کرے۔ اور چھینک کو جو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے وہ اس لئے کہ اطباء لکھتے ہیں کہ چھینک کا آنا صحبت کی علامت ہے، اور چھینک کی وجہ سے آدمی کے دماغ کے خلیوں میں جو کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور آدمی ایک طرح کا نشاط محسوس کرتا ہے۔ چھینک سے پہلے آدمی کی طبیعت میں سستی تھی، چھینک آجائے کے بعد اس کی طبیعت میں نشاط اور سستی آجائی ہے، اس لئے اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ چستی کے اسباب کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اور سستی کے اسباب کو ناپسند کرتے ہیں۔ اس لئے مومن کو بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ایک دم ایکٹیو (Active) اور چست رہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی بیٹھیں گے تو ٹانگیں اوپھی کر کے اس پر سر رکھ دیں گے کہ نیندا اور سستی نہ آتی ہو؛ تب بھی آنے لگے۔ گویا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں کہ ”آ جانیند؛ مجھے پکڑ لے، آستی؛ میرے اوپ سوار ہو جا“، اس کو شریعت پسندیدہ قرار نہیں دیتی۔ آدمی کو چاہیے کہ سستی کے اسباب کو اپنے سے دور بھگائے۔

اور کوئی آدمی چھینک کھا کر الحمد للہ کہے تو شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس کے جواب میں یرحک اللہ کھا جائے یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے۔ یہ چھینک کھانے والے کا جواب ہے۔ رہا جمائی کا معاملہ، جس کو ہم گجراتی میں ”نالسا ۵۷“ کہتے ہیں؛ تو وہ شیطان کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اس لئے اگر کسی کو جمائی آنے لگے تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، یعنی ایسی تدبیر کرے کہ جمائی نہ آنے پائے۔

ایک لطیفہ

یہاں گجراتی والا جمائی (داماد) مراد نہیں ہے۔ کسی بڑھیانے کہیں بیان میں سن لیا تھا کہ جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرو۔ توجہ بھی وہ اپنے داماد کو آتا ہوا دیکھتی تھی تو فوراً دروازہ بند کر لیا کرتی تھی۔

خیر! اگر کسی کو جمائی آنے لگے تو جتنا ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس لئے کہ تم میں سے جب کسی کو جمائی آتی ہے اور وہ اپنا منہ چوڑا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ دراصل مؤمن کے ساتھ جب کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے جس میں مؤمن کی شان کے خلاف کوئی بات ہو، یا مؤمن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، تو اس پر شیطان کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جمائی کے اندر جب آدمی کا منہ کھلتا ہے اور منہ کی بیت اور شکل ذرا بگڑ جاتی ہے؛ تو اس پر بھی شیطان خوشی مانتا اور ہنستا ہے۔ اسی لئے آدمی کو جمائی کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ آدمی کو جب جمائی آنے لگے تو یہ تصور کرے کہ حضور اکرم ﷺ اور انبیاء کرام علیہم السلام کو جمائی نہیں آتی تھی؛ تو وہ رک جائے گی اور نہیں آئے گی۔ (شای) اس لئے جمائی کو روکنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود اگر آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے۔

چھینکنے اور جمائی لینے کے آداب

۸۷۹:- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدٌ كُمْ فَلَيَقُلْ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ)، وَلَيَقُلْ لَهُ أَخْوَهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرِحْمَكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرِحْمَكَ اللَّهُ، فَلَيَقُلْ: يَهْدِي كُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَّكُمْ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو چاہیے کہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے، اور اس کا جہانی یا ساتھی (جو وہاں موجود ہو، جب وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ سنے تو) جواب میں ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ“ کہے۔ اور جب یہ ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ“ کہے تو اب چھینک کھانے والا جواب میں اس کو یہ دعا ہے: ”يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَّكُمْ“ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو درست رکھے۔

افنادات: - چھینک کھانے پر ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہنا تو مستحب ہے، لیکن اس کے جواب میں ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ“ کہنا واجب ہے، اگر نہیں کہو گے تو گنت گار ہو گے، اور ”يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَّكُمْ“ کہنا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحبات میں سے ہے۔

۸۸۰:- وَعَنْ أَبِي مُوسَى ؓ نَبَيَّنَ لِعَالَمِ فَرَمَأَ لِمَعْثُرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ :

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَيْتُوْهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِدِ اللَّهَ فَلَا تُشَيْتُوْهُ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: - حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے لشاغل عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی کو چھینک آئے اور وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے، تو تم اس کے جواب میں ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ“ کہو، لیکن اگر وہ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ نہ کہے، تو تم جواب میں ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ“ بھی مت کہو۔

افنادات: - معلوم ہوا کہ اگر چھینکنے والا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہے تو ہم کو جواب میں ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ“ کہنا ہے۔ اور اگر ہم نے اس کا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہنا نہ سنا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں: ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ، إِنْ تَحْمِدَ اللَّهَ“ یعنی اگر تو نے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہا ہے تو میں بھی ”يَرَحْمَكَ اللَّهُ“ کہتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی دور ہوتا ہے، اس کی چھینک کی آواز تو ہمیں آئی، لیکن اس نے ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ کہایا نہیں، یہ میں پتہ نہیں چلا، تو ایسے وقت ہم یوں بول سکتے ہیں۔

۸۸۱:- وَعَنْ أَنْسِ ؓ نَبَيَّنَ لِعَالَمِ فَرَمَأَ لِمَعْثُرَ رَجُلًا عَنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَيْتَ

أَحَدٌ هُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْهُ: عَطَسٌ فُلَانٌ فَشَمَّتَهُ.

وَعَطَسْتُ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي؟ فَقَالَ: هَذَا حَمْدَ اللَّهِ، وَإِنَّكَ لَمْ تَحْمِدِ اللَّهَ. (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت انس بن مالک عَلَيْهِ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ کے پاس دو امیوں کو چھینک آئی، ان میں سے ایک کو حضور اکرم ﷺ نے جواب میں ”يرحمك الله“ کہا، اور دوسرا کو نہیں کہا۔ تو جس کو ”يرحمك الله“ نہیں کہا تھا، اس نے شکایت کی کہ: اے اللہ کے رسول! آپ نے فلاں کو ”يرحمك الله“ کہا، اور مجھے نہیں کہا؟ تو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس نے ”الحمد لله“ کہا تھا (اس لئے میں نے ”يرحمك الله“ کہا) اور تو نے ”الحمد لله“ نہیں کہا۔

٨٨٢: وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كَلَّا إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوَبَهُ عَلَى فِيهِ، وَخَفَضَ -أَوْ غَضَ- إِلَيْهَا صَوْتَهُ. شک الراؤی۔

(رواہ أبو داود والترمذنی. وقال: حدیث حسن صحیح)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ عَلَيْهِ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو جب چھینک آتی تھی، تو اپنا ہاتھ یا کپڑا پنہ پر رکھ لیتے تھے، اور اپنی آواز کو پست کرتے تھے۔

افنادات:- معلوم ہوا کہ جب چھینک آئے تو ہاتھ یا کپڑا منہ پر رکھ لینا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ چھینک کے اندر بلغم یا تھوک کا کچھ حصہ باہر آتا ہے، اور قریب والے آدمی کے چہرے یا اس کے کپڑوں پر جا گرتا ہے، اور یہ چیز اس کے لئے ناگواری کا باعث ہوتی ہے، اس لئے حضور اکرم ﷺ کا یہی معمول تھا اور تعلیم بھی یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ چھینک کی سخت آواز بھی کپڑا رکھنے کی وجہ سے دب جائے گی، اس لئے کہ بعض مرتبہ اس آواز کی وجہ سے چھوٹا بچہ ڈر جاتا ہے اور رو نے لگتا ہے، اس لئے آواز کو پست کرنے کی تعلیم ہے۔

٨٨٣: وَعَنْ أَبِي مُوسَيْنَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يَتَعَاطُسُونَ عِنْدَ

رسول اللہ ﷺ، يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : يَرْجُمُ كُمُّ اللَّهِ، فَيَقُولُ : يَعْلَمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمُّ۔ (رواہ أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن صحيح)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں آکر اس امید پر چھینکیں کھایا کرتے تھے کہ حضور اکرم ﷺ جواب میں ان کو ”يرحمك الله“، کہیں، لیکن حضور اکرم ﷺ ان کو ”يرحمك الله“ نہیں کہتے تھے، بلکہ ”يَعْلَمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمُّ“ کہا کرتے تھے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال ٹھیک کرے۔ (یہودیوں کی شرارتیں چلتی رہتی تھیں۔)

۸۸۳:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ثُنِيَّةً عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا تَشَاءَ بِأَحْدُلْ كُمُّ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے جب کسی کو جمائی آئے، تو اپنا ہاتھ منھ پر رکھ لے، اس لئے کہ جس وقت منھ کھوتا ہے تو شیطان اندر گھستتا ہے۔

افادات:- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمائی آئے اس وقت بھی ہاتھ رکھ لینا چاہیے، اور ادب یہ ہے کہ بایاں ہاتھ رکھ کے، تاکہ اگر کوئی ملوث کرنے والی چیز ہو تو بایاں ہاتھ ملوث ہو، دایاں ہاتھ ملوث ہونے کی نوبت نہ آئے۔

استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه
وتقبيل يد الرجل الصالح، وتقبيل ولده شفقة
ومعانقة القادر من سفره كراهية الانحناء

ملاقات کے وقت مصافحہ کا مستحب ہونا
چہرے کو مسکراتا ہوا رکھنا
نیک آدمی کے ہاتھ چومنا، اور اپنی اولاد کو محبت سے بوسہ دینا
اور اگر کوئی آدمی سفر سے واپس آئے تو اس سے معانقہ کرنا
اور جھکنے کا ناپسندیدہ ہونا

۲۵۔ رجب المجب ۲۲ مئی ۱۳۲۲ھ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۱۳ اکتوبر ۲۰۰۷ء
 سلام کا بیان چل رہا ہے اور چوں کہ مصافحہ بھی سلام کی تکمیل ہی ہے، اس لئے جب کسی آدمی سے ملاقات ہو تو سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرنا مستحب ہے۔ اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سلام تو کر رہے ہیں لیکن منہ بگڑا ہوا ہے، اس سے تو سلام کا سارا امراضی کر کر اہوجاتا ہے۔ اور سلام کے وقت نیک آدمی کا ہاتھ اس کی تعظیم اور ادب کے طور پر چونما بھی اچھا ہے۔ اور اگر جھوٹا بچھے ہے تو اس کو شفقت اور محبت کی وجہ سے چونما بھی پسندیدہ ہے۔ اور کوئی آدمی اگر سفر سے آیا ہے تو اس سے معافانہ کرنا۔ اور آدمی سلام اس طرح نہ کرے کہ پورا جھک جائے جس کو فرشی سلام کہتے ہیں۔ اگر جھنک کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔

مصطفیٰ دونوں ہاتھ سے کرنا، ہی سنت ہے

۸۸۵:- عن أبي الخطاب قتادة بن شعالة عن قال: قُلْتُ لَأَنِّي: أَكَانَتِ الْمُصَافحةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت قتادہ بن شعالة فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن شعالةؓ سے پوچھا: کیا نبی کریم ﷺ کے صحابہ کے درمیان مصافحہ کار و اج اور دستور تھا؟ کہا: جی ہاں۔

افرادات:- جب دو آدمی آپس میں ملیں اس وقت ان کو دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ ” المصافحہ“ یعنی ایک آدمی کی ہتھیلی والا حصہ دوسرے آدمی کی ہتھیلی والے حصہ سے ملا یا جائے۔ ہتھیلی ”صفحة اليد“ کہلاتی ہے۔ اور مصافحہ کی کامل سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کیا جائے اور دونوں ہاتھ سے کیا جائے۔

بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چوں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا غیر وں کا شعار اور

ان کا طریقہ ہے؛ اس لئے اس سے بچا جائے۔

بعض لوگ دوستوں سے مصافحہ کرنے کو بدعت قرار دیتے ہیں؛ ان کی یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ لوگ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں۔ حالاں کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے تو مصافحہ کا مستقل باب قائم کیا ہے جس میں مصافحہ کا سنت ہونا بتایا ہے، اور پھر دوسرا باب قائم کیا：“بَابُ الْأَخْزِنِ بِاللَّيْدَيْنِ” یعنی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، اور اس میں انہوں نے یہ اثر ذکر فرمایا: حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ اور پھر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بھی لائے کہ مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسی حالت میں تسلیم کی کہ میرا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ (بخاری، حدیث: ۲۲۶۵)

”میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا“ سے استدلال کرتے ہوئے غیر مقلدین یوں کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ ارے بھائی! جب صراحةً موجود ہے کہ میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ”دونوں ہاتھوں“ میں تھا؛ تو اب کچھ بھی کہنے کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ اور رہا ان کا یہ کہنا کہ ”کفی“ ”میرا ہاتھ“! تو اس میں اس بات کی تصریح کہاں ہے کہ انہوں نے ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ ان کا ایک ہی ہاتھ ہوگا، خاص کر جبکہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و تعظیم کا جو معاملہ کرتے تھے اس کے پیش نظر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دونوں ہاتھ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے بڑھائیں اور وہ اپنا صرف ایک ہی ہاتھ دیں!

یہاں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ وہ اپنے لئے فخر کی ایک چیز بیان کر رہے ہیں۔ ویسے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دونوں ہاتھ تھے، اور انہوں نے بھی دونوں ہاتھ ہی بڑھائے تھے؛ تواب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اس لئے کہ جب بھی دو آدمی مصالحے کریں گے، تو ہر ایک کا ایک ہی ہاتھ دوسرے کے دونوں ہاتھوں میں ہو گا۔ اب یہاں تعبیر کی ایک شکل یہ تھی کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک میرے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ لیکن چوں کہ اپنی سعادت اور فخر کے طور پر ایک چیز بیان کرتے ہیں، اور اس تعبیر میں سعادت زیادہ ہے کہ میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا، اس لئے انہوں نے یہ تعبیر اختیار کی، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مصالحے کے وقت ان کا ایک ہی ہاتھ تھا۔ اور اگر مان لو کہ ایک ہی ہاتھ ہتا تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دونوں ہاتھ اسی روایت سے ثابت ہو رہے ہیں۔

ہمارے شیخ الشیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوپال تشریف لے گئے وہاں کچھ غیر مقلد یں ملاقات کے لئے آئے اور ایک ہاتھ سے مصالحہ کرنا چاہا، تو حضرت نے دونوں ہاتھ بڑھا کر فرمایا: مصالحہ اس طرح ہوتا ہے۔ اس پر ان میں سے ایک آدمی فوراً بول پڑا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ ہیں: ”کانَ كَفَّيْ
بَيْنَ كَفَّيْ الْخِ“، میرا ہاتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ تو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دو ہی ہاتھ تھے نا! اب غور کرلو کہ سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں، یا آپ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دونوں ہاتھوں سے مصالحہ ہی ثابت ہوتا ہے۔ بہر حال! دونوں ہاتھوں سے مصالحہ کو سنت قرار دیا گیا ہے۔

مصطفیٰ کے موبد

۸۸۶:- عن أنس بن ثابت عن النبي قال: لَمَّا جَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ الْيَمَنِ، وَهُمْ أَوْلُ مَنْ جَاءَ بِالْمُصَافَحَةِ۔ (رواہ أبو داود بسناد صحیح)

ترجمہ:- حضرت انس بن ثابت عن النبي فرماتے ہیں کہ یمن کے لوگ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے پاس یمن والے آئے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے مصافحہ کا طریقہ لائے۔

۸۸۷:- عن البراء بن ثابت عن النبي قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ إِلَّا تَتَقَبَّلُهُ أَنْ يَفْتَرِقَا۔ (رواہ أبو داود)

ترجمہ:- حضرت براء بن ثابت عن النبي فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

افادات:- دیکھو! مصافحہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے! لیکن ساتھ میں سلام بھی کرنا چاہیے، اس لئے کہ مصافحہ تو سلام کی تکمیل ہے، صرف مصافحہ کرے اور سلام نہ کرے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

مصطفیٰ، معا نق، بوسہ؛ کیا کرے، کیا نہیں؟

۸۸۸:- عن أنس بن ثابت عن النبي قال: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْهَا يُلْقِي أَخَاهُ، أَوْ صَدِيقَهُ، أَيْنَحْنِي لَهُ؟ قَالَ: لَا۔ قَالَ: أَفَيُلْتَرْمُهُ وَيُقِبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا۔ قَالَ: فَيَا أَخُذْ بِيَدِهِ وَيُصَافِعْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ۔ (رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت انس بن ثابت عن النبي فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا: اے اللہ کے

رسول! ہم میں سے کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی یا کسی دوست سے ملاقات کرتا ہے، تو کیا اس وقت جھک سکتا ہے؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ اس نے کہا: اس سے معاف نہ کر کے اس کو بوسہ دے سکتا ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نہیں۔ اس آدمی نے پوچھا: اچھا! اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بھی ہاں! یہ کر سکتا ہے۔

دست بوئی و قدم بوئی

۸۸۹:- وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَيْشَةَ مَالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ قَالَ: قَالَ يَهُودَىٰ وَدِيُّ الصَّاحِبِ: اذْهَبْ إِلَىٰ هَذَا النَّبِيِّ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَاهُ عَنْ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ... فَلَمَّا كَرَّ الْحَدِيثُ إِلَىٰ قَوْلِهِ: فَقَبَّلَاهُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، وَقَالَ: نَشَهُدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ.

(رواہ الترمذی وغیرہ باسنید صحیحة)

ترجمہ:- حضرت صفوان بن عساں شیخ الشعائی عن فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا: ہمیں اس نبی (یعنی حضور اکرم ﷺ) کے پاس لے چلو۔ دونوں حضور اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے ”تسع آیات بیینات“ (یعنی نوازی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) حضور سوال کیا (یہ ایک لمبی روایت ہے جس کو مختصر کرتے ہوئے علامہ نووی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) حضور اکرم ﷺ نے ان کے سوالات کے جوابات دیئے، تو ان دونوں نے نبی کریم ﷺ کے دست مبارک اور پاؤں کو بوسہ دیا، اور کہنے لگے: ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔

افادات:- بس! یہاں اس روایت کو لا کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے دست مبارک کو بوسہ دیا معلوم ہوا کہ کوئی آدمی قابل تعظیم ہو، جیسے: استاذ، باپ، یا کوئی بڑا عالم؛ تو اس کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں، اسی طریقہ سے ماں باپ کے پاؤں کو بھی بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی شکل جو عبادت کی ہو، وہ نہ پائی

جانی چاہیے، اس سے بچتے ہوئے اس کی اجازت ہے۔

۸۹۰:- وَعَنْ أَبْنَىٰ عُمَرَ رضي الله عنهما قِصَّةً، قَالَ فِيهَا: فَدَنَوْنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَّلَنَا

یَدَهُ (رواہ أبو داود)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے (اس قصے کو یہاں انہوں نے چھوڑ دیا ہے) آخر میں یہ ہے کہ ہم نیز کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔

یہاں یہ روایت اسی نسبت سے لائے ہیں کہ ہاتھ کو بوسہ دیا جاسکتا ہے۔

۸۹۱:- وَعَنْ عَائِشَةَ زَوْجِهِ قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِيِّ، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْرُ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ۔ (رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت عائشہ زوجہ حضرت نبی مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف فرماتھے، انہوں نے آکر حضور کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا لگھیتھے ہوئے اٹھے اور حضرت زید کو گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔

افادات:- اس سے معاملہ لیتی گلے سے لگانا اور بوسہ دینے کو بتلانا چاہتے ہیں۔

۸۹۲:- وَعَنْ أَبِي ذِرٍ رضي الله عنه قال: قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحِقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْعَقِي أَخَالَكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: کسی بھی نیکی کے کام کو معمولی نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے ہنستے چہرے کے ساتھ ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔

افادات:- بعض مرتبہ آدمی کسی کام کو یہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ چھوٹا سا تو کام

ہے، اس کو کیا کریں! پہلے بھی بتلا یا جا چکا ہے کہ نیکی بہر حال نیکی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی مغفرت کا پروانہ حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لئے کہ کب کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس کے متعلق کوئی بات گارنٹی سے کہی نہیں جاسکتی۔ اس لئے نبی کریم ﷺ نے تاکید فرمائی کہ کسی بھی نیکی کے کام کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دتے دو، بلکہ اس کو انعام دیدیا کرو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت اپنا چہرہ ہستہ ہوا رکھنا چاہیے، کیوں کہ ملاقات کرنا ایک مستقل نیکی ہے، اور ہستہ ہوئے چہرے کے ساتھ ملنا الگ نیکی ہے، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے، اور اس سے مسلمان بھائی کا جی بھی خوش ہوتا ہے۔

یہ جذبہ شفقت کا، ہی تقاضہ ہے

۸۹۳:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَبْلَ الْبَيْنِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَاتِمٍ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِمَّا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرِثْ كُمْ لَا يُرِثْ كُمْ! (متافق علیہما)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے (اپنے نواسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے) حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا (دیہات کے رہنے والے ایک صحابی حضرت) اقرع بن حاتم رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا: میرے دس بچے ہیں، لیکن میں نے تو آج تک کسی ایک کو بھی بوسہ نہیں دیا! تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو آدمی رحم، شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔

افادات:- بعض روایتوں میں یہ بھی ہے: ”أَوَ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَرَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ۔ (بخاری شریف: باب رَحْمَةُ الْوَالِدِ وَتَقْبِيلُهُ وَمُعَاوَقَتُهُ)“ تمہارے دل سے اللہ تعالیٰ نے شفقت نکال دی؛ تو اس کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ تو شفقت اور مہربانی کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کیا ہے، اور اس جذبہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ آتا ہے تو اس کا جگی چاہتا ہے کہ محبت سے اس کو بوسہ دے۔

چوں کہ انہوں نے باب کا جو عنوان قائم کیا تھا اس میں بچوں کو محبت سے بوسہ دینا بھی تھا، اسی نسبت سے یہ روایت لائے ہیں۔

کتاب عِیادۃ الْمَریض، وتشییع
البیت، والصلاتۃ علیہ، وحضور
دفنہ، والیکث عند قبرہ بعد دفنه

الخ

بیمار کی خبر گیری اور تیمارداری۔ کوئی انتقال کر جائے تو اس کے
جنازہ کے ساتھ جانا۔ جنازہ کی نماز پڑھنا۔ تدفین کے وقت
حاضر ہنا، دفن کے بعد اس کی قبر کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر جانا
”دعائے تثبت“، یعنی نکیرین کے سوال کے وقت اس کے
ثابت قدم رہنے کی دعا کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

باب عيادة المريض

”عيادة“ حق مسلم سمجھ کر کر یں، رواج سماج سمجھ کرنہیں
 بیمار کی عيادت بھی ایک مستقل نیکی کا کام ہے اور جو حقوق ایک مؤمن کے دوسرے پر لازم کئے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؛ یہ سمجھ کر آدمی کو بیمار کی عيادت کے لئے جانا چاہیے۔

ایک بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ بعض نیکی کے کام وہ ہیں جن کو ہم انجام تو دیتے ہیں، لیکن اپنے معاشرہ کے رواج اور چلن کی وجہ سے جس وقت ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں تب ہمارے دل میں یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، بلکہ عام طور پر ہم ایک رسم و رواج کے طور پر اور بدله کی کارروائی کے طور پر کرتے ہیں۔ جیسے: ایک آدمی بیمار ہوا تو ہم سب اس کی خبر گیری کے لئے جاتے ہیں، ہمارے معاشرہ میں یہ سلسلہ ہے، لیکن عام طور پر آدمی سوچتا ہے کہ جب میں بیمار ہوا تھا تو یہ آدمی میری خبر پوچھنے کے لئے میرے گھر آیا تھا۔ میرا بیٹا بیمار ہوا تھا تب بھی آیا تھا، چلو! اب میں بھی اس کے پاس ہواؤں۔ حالانکہ یہ ایک مؤمن کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والی نسبت سے اہل ایمان کے درمیان ایک علمی رشتہ قائم کیا ہے، اور ایمان والوں کی مستقل برادری اور پریوار (۴۷۹۱۲) بنایا ہے، اسی نسبت سے آپسی حقوق قائم کئے ہیں۔ تو ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن پر یہ حق ہے کہ چاہے کوئی اور

پہچان نہ ہو، تب بھی جب معلوم ہو کہ فلاں مسلم بھائی بیمار ہے تو اس کی عیادت اور خبرگیری کے لئے جائے، اور اسی حیثیت سے جانا چاہیے، اسی طرح جنازہ میں شرکت بھی اسی حیثیت سے ہونی چاہیے۔

نیت طول لیں

بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ہماری سوسائٹی اور سماج میں چلن ہے، ہم ان چیزوں کو انجام دیتے ہیں، جیسے: رشتہ داروں کے ساتھ موقعاً نے پر بھلائی کا سلوک کر لیتے ہیں، کسی کا انتقال ہوا تو جنازہ میں حاضری دیدیتے ہیں، کوئی بیمار ہوا تو اس کی خبرگیری کے لئے جاتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسا مزار بنتا جا رہا ہے کہ یہ کام ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر نہیں، بلکہ ایک رسم و رواج اور بدلہ کی کارروائی کے طور پر کرتے ہیں۔ اگر ایسے جذبہ سے کریں گے تو پھر وہ عبادت نہیں کھلانے گی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب نہیں ملے گا۔

شیطان ہمارا ازی دشمن ہے، وہ ہماری ہر چیز میں اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچے۔ اب دیکھئے! یہ سب نیکی کے کام ہیں اور ہمیں اس کی تاکید کی گئی ہے نبی کریم ﷺ نے بڑے اہتمام سے اس کا حکم دیا ہے جیسا کہ روایتوں میں موجود ہے، اور ہم ان کاموں کو انجام بھی دیتے ہیں، لیکن جس وقت ہم ان کاموں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے دل میں دور دور بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم یہ اس لئے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم ﷺ کی سنت ہے، اور شریعت نے مؤمن ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ حق لازم کیا ہے؛ بلکہ دوسرے جذبات اور خیالات کا فرم ہوتے ہیں، تو پھر وہ اجر و ثواب اور بڑے بڑے وعدے جو اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ان اعمال پر کئے گئے ہیں حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لئے بڑی بڑی نیکیاں جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان پر اجر و ثواب اسی صورت میں حاصل ہو گا جب ہم ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اور ایک مؤمن کا حق سمجھتے ہوئے اللہ ہی کے واسطے انجام دیں گے، اگر رسم و رواج یا بدله کی کارروائی کے طور پر کریں گے؛ تو یہ چیز حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا جب ہم وہ کام کرتی رہے ہیں تو اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔

بنیادو، ہی ہو

حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ساکہ: ایک مرتبہ ایک جنازہ میں جانے سے پہلے سوچنے لگے کہ اس جنازہ میں کس لئے جارہا ہوں؟ فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کا بیٹا ہے؛ اس لئے جارہا ہوں؟ یا ایک مؤمن کا جنازہ ہے اس لئے جارہا ہوں۔ عام طور پر جب ہم لوگ جنازوں میں جاتے ہیں، تو اس کے پس پر دہ یہی چیز مؤثر ہوتی ہے کہ فلاں کے ابا کا انتقال ہوا اس لئے چلو، یعنی اگر یہ اس کا باپ نہ ہوتا تو ہم نہ جاتے۔ حالاں کہ شریعت نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس میں یہ نکتہ ملحوظ رکھنے کے لئے کہا ہے کہ ایک مؤمن ہونے کی حیثیت سے آپ جائیے، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور حیثیت کو بھی ملحوظ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اصل بنیادو، ہی ہونی چاہیے۔

ہمیں حضور نے حکم دیا.....

۸۹۳:- عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أَمْرَّ قَارِسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِعِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَإِتَّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْبِيهِ الْعَاطِسِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ، وَنَصَرِ الْمَظْلُومِ.

وَإِجَابَةُ الدَّاعِي وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ۔ (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہاں کی خبر گیری، جنمازوں کے ساتھ چلنے، کوئی آدمی چھینک کھا کر الحمد للہ کہے تو اس کے جواب میں یہ حکم اللہ کہنے، قسم دینے والے کو اس کی قسم میں بری کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے، اور سلام کو پھیلانے کا حکم دیا ہے۔

افادات:- چوں کہ یہاں کی حالت میں یہاں کے اندر ایک خاص شکستگی پیدا ہو جاتی ہے، آدمی اپنی طبیعت پر تنگی اور پریشانی محسوس کرتا ہے، آپ جب اس کی عیادت اور خبر گیری کے لئے جائیں گے تو اس کی وجہ سے اس کو خوشی اور فرحت محسوس ہوگی۔ قسم دینے والے کو اس کی قسم میں بری کرنا۔ مثلاً: کسی آدمی نے آپ کو قسم دے کر کسی چیز کا مطالبہ کیا اور آپ اس کا مطالبہ پورا کر سکتے ہیں، اگر آپ اس کام کو انجام نہیں دیں گے تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ اپنی قسم میں حانت ہو جائے گا، اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے گا؛ تو اس کو اس کی قسم میں حانت ہونے اور کفارہ واجب ہونے سے بچانے کے لئے آپ کو چاہیے کہ وہ کام کر دیں۔

یہاں یہ روایت اس لئے پیش کی ہے کہ اس میں پہلے نمبر پر یہاں کی خبر گیری کے لئے جانے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسلمان کے مسلمان پر پانچ حقوق

۸۹۵: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْ سُ: زَدُ اللَّهُمَّ لَأَمْ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيهُ الْعَاطِسِ۔ (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رض نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر پائچ حقوق ہیں: -سلام کا جواب دینا (یہ واجب ہے) بیمار کی خبری گیری کرنا۔ جنازہ کے ساتھ جانا۔ دعوت کو قول کرنا۔ چھینک کھانے والا "الحمد للہ" کہے تو "يرحمك الله" سے جواب دینا۔

اوہ دات:- اگر کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے، اور خبر گیری نہ کرنے کی صورت میں اس کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، تو اس کی خبر گیری ضروری ہے، اگر کوئی نہیں کرے گا اور فوت ہو جائے گا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسا خبر گیری کرنے والا ہے کہ یہ ضائع ہونے سے نجح جائے گا تو دوسروں کے لئے سنت ہے۔

بندہ سے اللہ تعالیٰ کی شکایت

۸۹۶: وَعَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام: إِنَّ اللَّهَ -عَزَّوَجَلَّ- يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعْدِنِي! قَالَ: يَا أَرَبِّ! كَيْفَ أُعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانُ مَرِضَ فَلَمْ تَعْدُهُ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُذْتَ لَوْ جَدْتَنِي عِنْدَهُ! يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطَعْتُكَ فَلَمْ تُظْعِنِي! قَالَ: يَا أَرَبِّ، كَيْفَ أُطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعْتَكَ عَبْدِي فُلَانُ فَلَمْ تُطْعِمْهُ! يَا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي! قَالَ: يَا أَرَبِّ، كَيْفَ أُسْقِيَكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانُ فَلَمْ تَسْقِهِ! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ لَوْ جَدَتْ ذَلِكَ عِنْدِي! (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وس علیہ السلام نے ارشاد

فرمایا: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے: اے اہن آدم! میں بیمار ہو تو میری خبر لینے کے لئے نہیں آیا؟ انسان کہے گا: باری تعالیٰ! میں آپ کی خبر لینے کیسے آتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پالے والے ہیں، آپ کہاں بیمار ہو سکتے ہیں۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے: تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، لیکن تو اس کی خبر لینے کے لئے نہیں گیا تھا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کے لئے جاتا، تو مجھے بھی اس کے پاس پاتا (یعنی میری رضا مندی تجھے حاصل ہوتی)۔ پھر باری تعالیٰ فرمائیں گے: اے انسان! میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا لیکن تو نے مجھ کو کھانا نہیں دیا؟ انسان عرض کرے گا: باری تعالیٰ! میں بھلا آپ کو کیا کھانا دیتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پالے والے ہیں۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے: کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اس کو کھانا نہیں دیا تھا۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اس کو کھانا دیتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ (یعنی کھانا دینے کا ثواب تجھے یہاں حاصل ہوتا)۔

پھر باری تعالیٰ کہیں گے: اے انسان! میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ بندہ عرض کرے گا: باری تعالیٰ! میں کیسے آپ کو پانی پلاتا؟ آپ تو سارے جہانوں کے پالے والے ہیں؟ باری تعالیٰ فرمائیں گے: میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا لیکن تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ تجھے معلوم نہیں کہ اگر تو اسے پانی پلاتا تو اس کا ثواب یہاں پاتا۔

افادات: - کیسی عجیب و غریب روایت ہے! اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بیمار کی خبر گیری کے لئے جانے کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں کہ گویا میری خبر لینے کے لئے آیا۔ ایک بھوکے کے کھلانے کو تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے کھلایا، ایک پیاس سے کے پانی پلانے کو تعبیر کرتے ہیں کہ مجھے پلایا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں لیکن ان کا مous کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا مقام ہے! ان پر عمل کرنے سے بڑا مقام حاصل ہوتا ہے۔

بیمار کی عیادت کے فضائل

۸۶۷:- وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُودُوا الْمَرِيضَ، وَأَنْظِعُمُوا الْجَائِعَ، وَفُكُّوْا الْعَانِيَ۔ (رواہ البخاری) ((العلانی)) :الأیسیہ۔

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیمار کی خبر لو، یعنی تیاداری کے لئے جاؤ۔ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ اور قیدی کو چھڑاؤ۔

افنادات:- اگر کسی مسلمان بھائی کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے تو اس کو چھڑاؤ۔ اس روایت میں بیمار کی خبر لینے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے یہاں لائے ہیں۔ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیمار کی خبر لینے کا مستقل حکم دیا ہے۔

۸۶۸:- وَعَنْ ثُوبَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، لَمْ يَزُلْ فِي خُرُوفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا خُرُوفُهُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: جَنَّاهَا۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک مسلمان جب اپنے بیمار بھائی کی خبر کے لئے جاتا ہے، تو وہ برادر جنت کے خوف میں رہتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ پوچھا گیا کہ جنت کے خوف کیا ہیں؟ تو ارشاد فرمایا: جنت کے میوے اور پھل۔ **افنادات:-** گویا اس کے اس عمل پر اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت کے پھل ملیں گے۔

دو منٹ میں ستر ہزار فرشتوں کی بارہ گھنٹوں کے لئے ڈیوٹی

۸۶۹:- وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدُوةٍ إِلَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ۔ قَدْ أَنْ

عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلِكٍ حَتَّى يُصْبَحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ.

(رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

((الخریف)): الشَّمْرُ الْمَخْرُوفُ، أَيْ: الْمُجْتَنَى.

ترجمہ: - حضرت علی رضا^{علیہ السلام} فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سن: جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت یعنی تیارداری کے لئے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر شام کو کسی مسلمان کی خبر گیری کے لئے گیا تو صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جنت میں پھل اور میوے تیار ہوتے ہیں۔

افادات: - دیکھئے! کتنا بڑا ثواب ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل اور دو منٹ کا کام ہے لیکن ستر ہزار فرشتوں کو بارہ گھنٹے کے واسطے کام میں لگادیا۔

غیر مسلم کی عیادت

٩٠٠ : وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامًا يَهُودِيًّا وَدِيْنِ يَقْنُدُمُ النَّبَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوِذْهُ، فَقَعَدَ عَنْ دَرَأِ سَهِّ، فَقَالَ لَهُ: ((أَسْلِمْ)) فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ؛ فَقَالَ: أَطْعُ أَبَا الْقَاسِمِ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَقُولُ: ((الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ)) (رواہ البخاری)

ترجمہ: - حضرت انس رضا^{رضی اللہ عنہ} فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا جی کریم ﷺ کی خدمت کرتا تھا، آپ کے کام کا ج کر دیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا، جب حضور اکرم ﷺ کو معلوم ہوا تو آپ اس کی خبر گیری کے لئے گئے اور اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے کہا: اسلام لے آ۔ (اس کا باپ وہی موجود تھا) وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا (گویا باپ سے پوچھ رہا تھا کہ میں

ان کی بات مانوں؟) باپ نے کہا: ابوالقاسم جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لو (یعنی ایمان لے آؤ۔ یہودی حضور ﷺ کو ابوالقاسم ہی کہا کرتے تھے) چنانچہ وہ اسلام لے آیا (اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا) نبی کریم ﷺ وہاں سے یہ کہتے ہوئے باہر تشریف لائے کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے اسے جہنم سے چھکا را دیدیا (یعنی موت سے پہلے ایمان کی توفیق دی اور جہنم سے فجع گیا)۔

افنادات: - اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم پڑوسی ہو، یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروباری لائے سے، یا کسی اور نسبت سے تعلق ہو، اور وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بھی خبر گیری اور تیارداری کے لئے آدمی کو جانا چاہیے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس باب میں یہی بات بتانا چاہتے ہیں کہ بیمار کی خبر گیری کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ کی سنت ہے۔

اب بیمار کے پاس جب خبر گیری کے لئے جائے تو اس کے کیا حکام ہیں، اور وہاں جا کر کیا کہنا چاہیے، اور کس طرح خبر دریافت کرنی چاہیے، اس کو اگلے باب میں بتلا رہے ہیں۔

بَابِ مَأْيَدِ عَلِيٍّ لِلْمَرِيضِ

بیمار کے لئے کیا دعا کی جائے

إِسْمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پھوڑے پھنسی اور زخم کا دم

٩٠١:- عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّجَاعَةَ مِنْهُ أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ صَبُّعَهُ هَكَذَا - وَوَضَعَ سُفَيَّانَ بْنَ عَيْنَيْتَةَ الرَّاوِيَ سَبَّيَّاً بْنَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا - وَقَالَ: إِسْمُ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةَ بَعْضِنَا، يُشْفَى بِهِ سَقِيمُنَا، بِإِدْنِ رَبِّنَا. (متتفق عَلَيْهِ).

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا یعنی اس کو کوئی زخم، یا پھوڑا پھنسی ہوتی تو نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اپنی انگلی لاعب مبارک سے ترکر کے زمین کے اوپر رکھتے (اس پر منٹی لگ جاتی) راوی حضرت سفیان بن عینیہ (جو بڑے محدث ہیں انہوں) نے انگلی زمین پر رکھی پھر اٹھا کر بتلا�ا (کہ اس طرح کرتے تھے۔ پھر حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اپنی وہ انگلی اس پھوڑے، پھنسی، یا زخم پر رکھتے تھے) اور یہ دعا پڑھتے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے، ہماری زمین کی منٹی، ہم میں سے کسی کے لاعب کے ذریعہ سے، ہمارے بیمار کو شفادی جائے گی، اللہ کے حکم سے۔ (تو اس سے وہ زخم ٹھیک ہو جاتا تھا)۔

افادات:- معلوم ہوا کہ کوئی پھنسی یا زخم ہو جائے تو اس موقع پر ایسا کیا جائے۔ بیمار خود بھی کر سکتا ہے، اور دوسرا بھی کر سکتا ہے، بشرطیکہ کوئی شرعی رکاوٹ موجود

نہ ہو، جیسے نامحرم عورت ہو، تو وہاں عمل نہیں کریں گے۔

عیادت کی دعا

۹۰۲:- وَعَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيَمَنَى، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، أَذْهِبْ الْبَأْسَ، اشْفِ أُنْثَ اللَّهَّ أَفِ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرْ سَقْمًاً۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ اپنے گھروالوں میں کسی کی عیادت کے لئے جب تشریف لے جاتے تو انہا انہا تھاں کی پیشانی یا جسم پر پھیرتے تھے اور یہ دعا پڑھتے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ! لوگوں کے پروردگار، بیماری دور کر دے اور تندرتی دے، تو ہی تندرتی دینے والا ہے، تندرتی تیری ہی دی ہوئی ہے، ایسی تندرتی دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہ جائے۔

افادات:- یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، ہم لوگ عیادت کے لئے تو جاتے ہیں، لیکن عیادت کے موقع پر جو دعائیں پڑھنی چاہیے ان کا اہتمام نہیں کرتے، اس وقت ہمیں یاد ہی نہیں رہتا اور اس کا تھیاں ہی نہیں آتا کہ یہ دعائیں بھی یاد کر لینی چاہیں۔ اگر عربی میں یہ دعا یاد نہ ہو تو اس کا ترجمہ اور مفہوم ہی ادا کر لیا کریں؛ تب بھی یہ دعا ہو جائے گی۔ کوئی لمبی دعا نہیں ہے، مختصر ہے، یاد کر لینی چاہیے۔

۹۰۳:- وَعَنْ أَنَسِ بْنِ ثَالِثٍ قَالَ لِشَابِطٍ رَحْمَهُ اللَّهُ: أَلَا أَرْقِيكَ بِرُؤْقِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبُ الْبَأْسِ، اشْفِ أُنْثَ اللَّهَّ أَفِ لَا شَافٌِ إِلَّا أُنْثَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرْ سَقْمًاً۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ثابتؓ سے کہا: میں تم کو نبی کریم ﷺ کے آداب

والی جھاڑ پھونک نہ کر دوں؟ (یعنی حضور اکرم ﷺ کسی بیمار کو جود عاپڑھ کردم کرتے تھے اس طرح دم کر دوں؟) انہوں نے کہا: کیوں نہیں! ضرور۔ تو حضرت اُس رشیش تعالیٰ نے اوپر والی دعا پڑھی (اور پھر دم بھی کر دیا)۔

۹۰۳:- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَكْبَرُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت سعد بن ابی وفات ص رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی کریم ﷺ کی عیادت کے لئے آئے اور آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ! سعد کو شفادے، اے اللہ! سعد کو شفادے، اے اللہ! سعد کو شفادے۔

نبوی پین کلر (Pain Killer)

۹۰۵:- وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّهُ شَكَأَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَكْبَرِ وَجَعًا مَيْجُدًا فِي جَسَدِهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَكْبَرِ: ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثَةً، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَمِنْ شَرِّ مَا أَجْدُ وَأَحَذِرُ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت عثمان بن ابی العاص شفیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے اپنے جسم میں درد کی فریاد کی (ان کو کسی جگہ درد تھا تو کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے یہاں درد رہتا ہے) تو حضور اکرم ﷺ نے ان سے کہا: درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھو:۔ بِسْمِ اللَّهِ، بِسْمِ اللَّهِ، بِسْمِ اللَّهِ۔ پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھو:۔ أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَمِنْ شَرِّ مَا أَجْدُ وَأَحَذِرُ۔ ترجمہ:۔ اے اللہ! تیری قدرت اور عزت کے واسطے سے میں پناہ چاہتا ہوں اس درد اور تکلیف کے ثرے سے جس کو میں محسوس کر رہا ہوں اور آئندہ مجھے جس کا خطرہ ہے۔

افادات:- معلوم ہوا کہ خود بیمار ہی اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور پھر سات مرتبہ یہ دعا پڑھے۔

..... تو مریض کو شفا ہو، ہی جائے گی

۹۰۶: - وَعَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَجْعُلْهُ أَجْلُلَهُ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَضِ۔

رواہ أبو داؤد والترمذی و قال : ((حدیث حسن)) . و قال الحاکم : ((حدیث صحیح علی شرط البخاری)) .

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کوئی آدمی کسی ایسے بیماری خبرگیری کے لئے جائے جس کی موت مقدر نہیں ہے (یعنی اس بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے موت نہیں رکھی ہے، اور اچھا ہونے والا ہے) اور سات مرتبہ یہ دعا پڑھے: - أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيَكَ: میں سوال کرتا ہوں عظمت والے رب سے، اس اللہ سے جو عظمت والے عرش کا مالک ہے؛ وہ تم کو تندرستی دیدے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے تندرستی دے ہی دے گا۔

افادات:- یعنی ابھی موت مقدر نہیں ہے تو تندرستی ضرور مل جائے گی۔ یہ دعا بھی بڑی مختصری ہے، اس کو بھی یاد کر لینا چاہیے۔ کوئی بھی دعا یاد کروتا کہ بیمار کی خبرگیری کے جو آداب ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے اس کے پاس جا کر پڑھ سکو۔

ایک اور دعا

۷۰۹: - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابٍ يَعُودُهُ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَنْ يَعُودُهُ، قَالَ: لَا يَأْسَ، ظَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . (رواہ البخاری)

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے پاس برائے عیادت تشریف لے گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لئے جاتے تو فرمایا کرتے تھے: کوئی گھبرا نے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بیماری تمہارے لئے گناہوں سے پا کی کا ذریعہ بنے گی۔

افادات: - اس لئے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مُؤمن کو ذرایسی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کاشا بھی چھتنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں، اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ یہ بیماری بھی آئی تو گھبرا نے کی کوئی بات نہیں ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کریں گے۔

روح الامین کا الصادق الامین پر دم

۹۰۸:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَخْمَدُ اشْتَكَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيَكَ. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيَكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِلٍ. اللَّهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيَكَ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ: - حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا: اے محمد! (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ مجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں۔ تو انہوں نے یہی دعا پڑھی: "بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيَكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيَكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِلٍ. اللَّهُ يَشْفِيْكَ، بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيَكَ۔" : اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں ہر اس چیز پر جو آپ کے لئے تکلیف کا باعث ہے، اور پناہ مانگتا ہوں ہرجاندار کے شر سے، اور حاصل کی نگاہ بد سے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفادے، پھر اللہ تعالیٰ کے نام سے دم کرتا ہوں۔

افادات: - یہ سب دعائیں یاد نہ ہوں تو اتنا مختصر تو ضرور کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ

آپ کو تقدیرستی دے، جیسے کہ حضرت سعد بن علیؓ کے متعلق حضور اکرم ﷺ نے دعا کی تھی۔

.....تو اسے جہنم نہیں کھائے گی

۶۰۹:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، صَدَقَهُ رَبُّهُ، فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ: يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ. وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي. وَكَانَ يَقُولُ: مَنْ قَاتَهَا فِي مَرْضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ. (رواہ الترمذی وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ دونوں نبی کریم ﷺ کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کوئی آدمی کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ» اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ ہی بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَأَنَا أَكْبَرُ» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں ہی بڑا ہوں۔ اور بندہ جب یہ کلمات کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی تہنا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، لَا شَرِيكَ لِي» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں ہی یکتا عبادت کے لائق ہوں، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور بندہ جب کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ» اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری حکومت اور سارے اختیارات اللہ ہی کے دستِ قدرت میں ہیں، اور تمام تعریفیں اسی

کے لئے سزاوار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، لِي الْبُلْكُ وَلِيَ الْحَمْدُ» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لاائق نہیں، میرے ہی ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں اور میں ہی تعریف کے لئے سزاوار ہوں۔ اور جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ» اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاائق نہیں اور گناہوں سے بچنے کی قوت اور نیکی کے کام کرنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ ہی کی توفیق سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: «لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِي» میرے علاوہ کوئی عبادت کے لاائق نہیں اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کام کی طاقت میری توفیق کے علاوہ نہیں مل سکتی۔ جب کوئی آدمی یہ کلمات اپنی بیماری کے زمانہ میں کہتا ہے، پھر اس کو موت آ جاتی ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں کھا سکتی۔

ادھر تعریف، ادھر پذیرائی

افادات:- دیکھو! جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت و کبریائی کے کلمات کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیہاں اس کا کتنا اونچا مقام ہے اور کسی پذیرائی ہوتی ہے؟ ورنہ معمولی درجے کا آدمی کسی بڑے سیٹھ صاحب کی تعریف کرنے تو وہ سیٹھ ادھر کان بھی لگانے کی زحمت گوارا نہیں کرتا۔ لیکن بندے کی طرف سے پیش کی جانے والی تعریف اور توصیف، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے جو الفاظ ادا کئے جاتے ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کے بیہاں ایسی پذیرائی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ان کلمات کا خود ہی جواب دیتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔

بیہاں پر اس آخری ارشاد کی وجہ سے لائے ہیں کہ آدمی کو اپنی بیماری کے زمانہ میں ان ہی کلمات کو کہنا چاہیے، اگر اس زمانہ میں موت آگئی تو پھر جہنم کی آگ سے محفوظ رہے گا۔

استحباب سوال اہل المرض عن حالہ بیمار کے گھر والوں سے بیمار کے متعلق دریافت کرنا

۲ رشعبان المعظم ۱۴۲۲ھ ۱۰ اکتوبر ۱۹۰۰ء

عیادت؛ نہ ہوشکایت

ایک شکل یہ ہے کہ آپ خود بیمار کی عیادت اور خبرگیری کے لئے تشریف لے جائیں، لیکن یہ روزانہ ممکن نہیں ہوتا، اور روزانہ جانا بیمار کے لئے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے، اس لئے بیماری کے زمانہ میں کبھی کبھار ہی اس کی نوبت آتی ہے۔

پہلے بتلا یا تھا کہ بیماری کے زمانہ میں کوئی آدمی کسی کی خبرگیری کے لئے جائے تو اس کو چاہیے کہ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے۔ عیادت کے آداب میں سے یہ ہے کہ بیمار کے پاس تھوڑی دیر ہی بیٹھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے: “الْعِيَادَةُ فُوَاقُ نَاقَةٍ” عیادت؛ اُنٹی کا دودھ دو ہے کے درمیانی وقفہ کے برابر ہوتی ہے۔

”فُوَاقٌ“ کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ صبح کو دودھ دو ہا جاتا ہے اور شام کو دو ہا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیانی وقفہ کو ”فُوَاقٌ“ کہتے ہیں۔ لیکن یہ وقفہ تو لمبا ہوتا ہے۔ اور ”فُوَاقٌ“ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہو گا کہ جانور کو دو ہے کے درمیان دو ہے والا اس کے تھن کے سرے پر انگلی رکھ کر دباتا ہے، جب ایک مرتبہ دباتا ہے تو جو دودھ نیچے آیا ہوا ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، پھر دبائے والا تھن کو چند سینٹر کے لئے چھوڑ دیتا ہے، پھر دباتا ہے۔ تو چند سینٹر کے لئے جو چھوڑا ہت اسی کو عربی میں

”فُوَاق“ کہتے ہیں۔ یہاں یہی مطلب مراد لیا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیمار کی خبر گیری کے لئے جائے، تو زیادہ دیر وہاں نہ بیٹھے، بلکہ گیا، چند منٹ میں خیر خیریت معلوم کی، اور واپس لوٹ آیا۔ چوں کہ بیماری کی حالت میں مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، کبھی آرام کا تقاضہ ہوتا ہے، کبھی بیمار کی طبیعت تہائی چاہتی ہے، اب اگر کوئی آدمی جا کر ایسا بیٹھ گیا کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا؛ تو بیمار کے لئے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔

اے اللہ! عیادت کا طریقہ سکھلا

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقاۃ میں واقعہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سرسی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ عیادت کے لئے گئے اور وہاں دعا کی درخواست کی غرض سے بیٹھ رہے، اٹھ ہی نہیں رہے تھے، جب کچھ دیر کے بعد موقعہ ملا تو پھر درخواست کی کہ حضرت! دعا کر دیجئے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی: اے اللہ! ہم کو بیمار کی عیادت کا طریقہ سکھلا۔ اس طرح گویا ان کو اپنی کوتا ہی پر تنبیہ فرمائی۔

دروازہ باہر سے بند کر دینا

ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے (اس میں انہوں نے نام نہیں لکھا ہے، لیکن دوسری جگہ میں نے نام بھی پڑھا) کہ حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب عیادت کے لئے گئے، اور ایسے بیٹھے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ جیسے بعض لوگ فیوی کول (Fevicol) کا ڈب لے کر جاتے ہیں، ایسے چپکے رہتے ہیں کہ اٹھتے ہی نہیں۔ تو وہ بھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب کافی دیر ہو گئی تو حضرت عبد اللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے: ایک تو بیماری کی تکلیف ہے اور آنے والے بھی عجیب لوگ ہوتے ہیں کہ جلدی جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس پر وہ صاحب کہنے لگے: حضرت!

اگر آپ اجازت دیں تو دروازہ بند کر دوں؟ حضرت نے کہا: ہاں! بالکل صحیح ہے، لیکن باہر سے بند کرنا۔

اس لئے ضروری ہے کہ بیمار کا خیال رکھا جائے۔ ہاں بعض اشخاص ایسے ہوتے ہیں کہ بیمار کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ان کے دریتک بیٹھنے کی وجہ سے بیمار کو تکلیف نہیں، بلکہ راحت ہوتی ہے، بلکہ بیمار خود چاہتا ہے کہ یہ بیٹھیں؛ ایسے لوگ اس قaudہ سے مستثنی ہیں، یعنی ان کے لئے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو دریتک بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو بھی یہ اندازہ ہو کہ بیمار اس وقت تنہائی چاہتا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔

خیر! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر وقت بیمار کے پاس آنا جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ خیریت پوچھ کر آئے تو پھر اس کی کوئی خیریت، ہی معلوم نہیں کرتے، بلکہ اس کے گھروالوں سے اس کے متعلق پوچھتے رہنا چاہیے، یہ باب اسی بات کو بتلانے کے لئے قائم کیا ہے کہ یہ بھی مستحب ہے کہ بیمار کے گھروالوں سے بیمار کے متعلق دریافت کرے، مثلاً: آپ کی اہلیہ بیمار تھی، اب کیا حال ہے؟ آپ کا بیٹا بیمار تھا، اب کیسا ہے؟ آپ کے والد صاحب بیمار تھے، اس وقت ان کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی پھر ان کے احوال کو مدنظر رکھتے ہوئے دعا کرے گا، اور دوسرا یہ کہ جن کی خیرت پوچھی جا رہی ہے ان کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ چنان چاہی کا استحباب اور پسندیدہ ہونا بتلانے کے لئے یہ روایت پیش کی ہے۔

وفات کے دن صحیح حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی کیفیت

۹۱۰:- عن ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبٍ ثَنَاعَةً عَنْ حَرَجَ مَنْ عَنِدَ

رسولِ اللہ ﷺ فِي وَجْهِهِ الَّذِي تُوْفَى فِيهِ، فَقَالَ اللَّهُمَّ أَسْأُلُكَ الْحَسَنَ! كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ مَلِئَةً؟ قَالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللَّهِ بَارِئًا۔ (رواه البخاري)

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی جس بیماری میں وفات ہوئی، اسی بیماری کے زمانہ میں حضرت علیؓ نے نبی کریم ﷺ کے حجرہ شریفہ سے باہر نکل، تو بعض ایسے لوگوں نے - جو اندر نہیں جا سکتے تھے - حضرت علیؓ نے پوچھا: اے ابو الحسن! اللہ کے رسول ﷺ نے صحیح کیسی حالت میں کی؟ (یعنی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟) تو حضرت علیؓ نے کہا: الحمد للہ! آپ نے صحت کی حالت میں صحیح کی ہے۔

افادات:- یہ اسی روز کا واقعہ ہے جس دن حضور اکرم ﷺ کی وفات ہوئی، اس دن صحیح کے وقت آپ ﷺ کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن آپ ﷺ کی یہ صحت ہنگامی تھی، اسی دن زوال کے وقت آپ ﷺ کا انتقال ہو گیا۔

بَابٌ مَا يَقُولُ مِنْ أَيْسِ مِنْ حَيَاتِهِ

جس کو اندازہ ہو جائے کہ اب میری موت کا
وقت قریب آچکا ہے؟ وہ کیا دعا کرے؟

۹۱۱:- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صل الله عليه وسلم وهو مستعداً إلى الموت يقول: اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. (متفق عليه)
ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سناؤ را آپ صل اللہ علیہ وسلم سے سہارا لیے ہوئے تھے: اے اللہ! میری مغفرت فرمادے، اور مجھ پر رحم کر، اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچاو۔
افادات:- آپ صل اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر اپنے جسم کا سہارا دیئے ہوئے تھیں، اس موقع پر نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگ رہے تھے۔

یہ موت مانگنا نہیں ہے

”وَالْحَقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى“، اس دعا میں عافیت کے ساتھ موت مانگی جا رہی ہے، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے (اور جیسا کہ پہلے بھی آیا تھا) کہ موت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں مستقل باب قائم کیا ہے جس میں یہ بتایا ہے کہ موت کی دعا نہیں مانگنی چاہیے، اور اس موقع پر جہاں اور روایتیں موت کی

دعا کی ممانعت کے سلسلہ میں پیش کی ہیں، وہیں یہ روایت بھی لائے ہیں۔
 بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم ﷺ کی حالت ایسی تھی کہ آپ ﷺ کو
 یقین ہو چکا تھا کہ اب میری موت کا وقت آچکا ہے، اور جب کسی آدمی کو یہ یقین
 ہو جائے کہ اب میں عقریب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو اس وقت اگر اچھی
 موت کی دعا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ موت مانگنا نہیں ہے،
 اس لئے کہ اس کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ موت تو آہی رہی ہے، البتہ اچھی حالت میں موت
 آئے اس کی دعاء مانگی جاسکتی ہے۔

ممانعت تو اس کی ہے

جس چیز کی ممانعت آئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی مصیبت کی وجہ سے موت کا سوال کرے۔ حالات ایسے آگئے، پریشانی ایسی لاحق ہوئی کہ اس پریشانی سے گھبرا کر سوال کرتا ہے کہ: اے اللہ! مجھے موت دیدے؟ تو اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے کہ یہ بزدلی کی علامت ہے۔ مؤمن کی شان تو یہ ہے کہ حالات کا مقابلہ کرے اور حالات کے مناسب تدبیر میں اختیار کرے، نہیں کہ گھبرا کر موت کا سوال کرنے لگے۔

موت کی حالت شدت والی ہے

٩١٢:- وَعَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْتِ، عَنْدَهُ فَدَحٌ
فِيهِ مَا ءَيْدِيَ وَهُوَ يُدْخَلُ يَدَكُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ
أَعُنْهُ عَلَى غُمَرَاتِ الْبَوْتِ وَسَكَرَاتِ الْبَوْتِ. (رواوه الترمذى)

ترجمہ:- حضرت عائشہ شافعیۃ العالیہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا حال یہ کہ آپ موت کے قریب چاہکے تھے (یعنی موت کی حالت آپ پر طاری ہو چکی تھی) آپ ﷺ

کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، اور آپ اپنے دستِ مبارک کو اس پیالہ میں داخل کرتے اور پھر وہ پانی اپنے چہرے کے اوپر لگا لیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فرماتے تھے: اے اللہ! موت کی سختیوں اور موت کی شدتؤں پر میری مدد فرم۔ (موت کی حالت بڑی سختی اور شدت والی ہوتی ہے اس لئے اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا سوال کیا۔

بَابِ اسْتِحْبَابِ وَصِيَةِ أَهْلِ الْمَرِيضِ
وَمَن يَخْدِمُه بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَاحْتِمَالُه
وَالصَّبْرُ عَلَى مَا يُشَقُّ مِنْ أَمْرٍ
وَكَذَا الْوَصِيَّةُ مِنْ قَرْبِ سَبْبِ مَوْتِهِ
بِحَدَّ أَوْ قَصَاصٍ وَنَحْوِهِما

بیمار کے گھروالے اور وہ لوگ جو اس کی خدمت میں
لگے ہوئے ہیں، ان کو بیمار کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور
اس کو برداشت کرنے اور صبر و تحمل سے کام لینے کی تاکید
اور جس آدمی کی موت کا کوئی سبب یقینی ہو جیسے حد جاری کی
جانے والی ہے یا جس سزا میں موت یقینی ہے تو اس کے
ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جب گھر کے لوگ یماری تیمارداری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی یماری طول پکڑ لیتی ہے، اس کے نتیج میں گھروالوں کی طبیعتوں پر بھی کبھی گرانی ہو جاتی ہے، اور خدمت کرتے کرتے چڑھڑاپن آ جاتا ہے؛ تو گھروالوں کو تاکید کی جارہی ہے کہ یماری طرف سے ایسی کچھ صورت پیش آئے تو اس کو برداشت کرو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چڑھڑے پن والا معاملہ مت کرو۔ وہ تو یماری کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ اس کے جواب میں ویسا سلوک نہ کرو۔

سمانج کے ایک غلط مزاج کی اصلاح

۹: - عن عمران بن الحصينِ رضي الله عنهما أنَّ أَمْرًا كَمُنْ جَهِينَةَ أَتَتِ النَّبِيِّ ﷺ مَلِكًا عَذَابَهُ
وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الْزِّنَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَصَبِّتُ حَدًّا أَفَقِهُ هُوَ عَلَىٰ؟ فَدَعَاهُ رَسُولُ
اللَّهِ مَلِكَ عَذَابِهِ وَلِيَهَا، فَقَالَ: أَخْسِنِ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعْتَ فَأَتَيْتَهَا مَا فَعَلْتَ، فَأَمْرَهُمَا
النَّبِيِّ مَلِكَ عَذَابِهِ، فَشُدَّدَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمْرَهُمَا فَرِجَمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمَا۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ جہینہ کی ایک عورت نی کریم مالک عذاب کی خدمت میں حاضر ہوئی ایسی حالت میں کہ زنا کی وجہ سے حاملہ تھیں۔ اس نے آکر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مقر کی ہوئی سزا کی میں حقدار ہوں، آپ مجھ پر اس سزا کو حباری کیجئے (چوں کہ اس وقت تو وہ حالتِ حمل میں تھی، اگر اسی حالت میں اس کو سنگسار کیا جاتا تو ظاہر ہے کہ پیٹ میں جو بچہ تھا وہ بھی موت کا شکار ہو جاتا، حالاں کہ اس کا تو کوئی قصور تھا نہیں) اس لئے نی کریم مالک عذاب کے نے اس عورت کے ولی بلا کر (ان کے حوالہ کیا اور) تاکید فرمائی کہ اس کے ساتھ بھلانی کا سلوک

کرنا۔ جب بچ پیدا ہو جائے تو پھر میرے پاس لے آنا (تاکہ اس پر حد جاری کی جائے) چنانچہ اس کے ولی نے ایسا ہی کیا۔ جب بچ پیدا ہو گیا تو اس کو لے کر نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آیا، حضور اکرم ﷺ نے سنگساری (پتھر مارنے) کا حکم دیا، اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ دیئے گئے (تاکہ سنگساری کے دوران کہیں سے ستر کھلنے نہ پائے) اور اس کو سنگسار کر دیا گیا، پھر نبی کریم ﷺ نے اس کی نمازِ جنازہ بھی پڑھی۔

افادات:- میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مقام کتنا اونچا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو جاری کرنے کے لئے انہوں نے اپنے آپ کو برضاور غبت پیش کیا۔

(اس کی تفصیل حدیث کے اصلاحی مضامین، جلد اول، صفحہ ۱۸۲ تا ۱۹۹ پر آچکی ہے۔ ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ مرتب۔) ہمارے سماج میں ایسا مزاج ہے کہ کسی آدمی سے اگر کسی جرم کا صدور ہو جائے تو اس کو سزا تو دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایسا حقارت اور ذلت آمیز سلوک کیا جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ! حالاں کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھو! مجرم کا جرم اپنی جگہ پر ہے، اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ ضرور دیکھئے، اس سزا کے اس پر جاری کرنے کے معاملہ میں ذرا بھی رحم نہیں کرنا ہے، لیکن سزا بس سزا تک رہے، اس کے علاوہ باقی جو معاملات تذليل و توہین کے کئے جاتے ہیں اور اس کو بے آبرو کیا جاتا ہے، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ بخاری شریف میں روایت ہے ”إِذَا زَنَتْ أُمَّةً أَحَدٌ كُفَّرَتِيَّبَيْنَ زَنَاهَا فَلَيَجِلُّهَا الْعَذَّابُ وَلَا يُثْرِبَ عَلَيْهَا“ (باب بیع المدبب) مجی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر کسی کی باندی زنا کرے اور اس کا زنا ثابت ہو جائے تو آقا کو چاہیے کہ اس پر حد جاری کرے لیکن اس پر طعن و تشنیع نہ کرے، ہمارے سماج میں طعن و تشنیع والا بہت بڑا روگ ہے، حالاں کہ اس کی کسی بھی حال میں

اجازت نہیں۔

شریعت کی تعلیم کتنی اعلیٰ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے اس عورت کے ولی کو بلا کران کے حوالہ کیا اور تاکید فرمائی کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نہیں فرمایا: اس کو ذلت کے ساتھ رکھیو اور ایک کال کو ٹھہری میں ڈال دیجیو اور روزانہ اس کو رسوا کجھیو۔ یہی اسلام کی تعلیمات کا حسن ہے جس کو اختیار کرنا چاہیے۔

باب جواز قول المريض: أنا واجع، أو شدید
الوجع أو مَوْعِكُ أو وارأساًه ونحو ذلك
وبیان أنه لا کراهة في ذلك إِذَا لَمْ يَکن
عَلَى سبیل التسخّط وإِظہار الجزع
بیمار کا یہ کہنا کہ میں بیمار ہوں، یا مجھے بہت تکلیف ہے، یا
مجھے بخار ہے۔ یا یوں کہنا کہ ہائے! سر میں بہت درد ہے
اگر کوئی بیمار ایسا کوئی جملہ کہتا ہے اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ
کے کسی فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا اور بے صبری ظاہر
کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی بیماری سامنے والے کو بتلانا اور
اپنی کیفیت کو ظاہر کرنا مقصود ہے؛ تو اس میں کوئی حرج
کی بات نہیں ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر بے چینی اور بے صبری پیدا ہوتی ہے، اور اسی بے صبری میں وہ چلتا اور شور مچاتا ہے کہ میں مر گیا، مجھے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور یوں ہوا اور توں ہوا۔

دیکھو! شور مچانے کے وسیب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ شور مچا کر نجوعذ باللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ایسے لوگوں کی زبان سے توجہ جملے اور الفاظ نکلتے ہیں وہ الگ ہی ہوتے ہیں، جیسے: نجوعذ باللہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”کیا میں ہی ملا تھا؟“ - ”اور کوئی نہیں تھا؟“ - ”میرے اوپر ہی یہ مصیبت کیوں آئی؟“ وغیرہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔

اور اگر کسی آدمی کا مقصد شور مچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ جیسے: کوئی کہے: ”مجھے بہت شدید تکلیف ہو رہی ہے، میرے لئے دعا کریں“ - یا وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی، تو بالکل بے چین ہو کر زبان سے یہ بولتا ہے ”اس کا کوئی علاج اور تدبیر کرو“ اس میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر ناراضگی مقصود نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کی اجازت دی گئی ہے۔

حضور اکرم صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کا شدّتِ بخار

۹۱۷:- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَهُوَ يُوعَدُ، فَمَسَسْتُهُ، فَقلْتُ: إِنَّكَ لَتُوَعَدُ وَعَكَاشَدِيداً، فَقَالَ: أَجْلُ! إِنِّي أُوعَدُ كَمَا يُوعَدُ رَجُلٌ مِنْكُمْ . (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ شدید بخار میں مبتلا تھے، میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم ﷺ کے جسم اطہر کو چھووا (جو لوگ عیادت کے لئے آتے ہیں تو بخار کی کیا کیفیت ہے، یہ دیکھنے کے لئے آدمی کے بدن کو چھوٹے ہیں) تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کو شدید بخار ہے۔ چنانچہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو تو برا سخت بخار ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، اتنا مجھا کیلے کو ہوتا ہے۔

افادات: - دیکھو! حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب نبی کریم ﷺ سے کہا کہ آپ کو تو برا سخت بخار ہے، تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں۔ آپ نے اپنے بخار کو چھپا یا نہیں، بلکہ ظاہر فرمایا کہ تم میں سے دو آدمیوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، اتنا مجھا کیلے کو ہوتا ہے۔ چنانچہ ردا یتوں میں ہے کہ اس پر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ کو ثواب بھی تو دو ہرا (ڈبل) ملتا ہے نا! تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جی ہاں (بخاری شریف: ۵۱۴۸) (جیسا آدمی ہوتا ہے اسی کے مناسب معاملہ ہوتا ہے) یہاں تو یہ روایت اس لئے لائے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے اپنے بخار کا اظہار فرمایا۔

صحابی کا اظہارِ مرض

۹۱۵: - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْوُدُنِي مِنْ وَجْهِ اشْتَدَّتِي، فَقَلَّتْ بَلَغَيْ مَا تَرَى، وَأَنَّا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. (متفقٌ عليه)

ترجمہ: - حضرت سعد بن ابی وقار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری بیماری سخت ہو گئی حضور اکرم ﷺ میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ میں نے کہا: میری حالت یہاں تک پہنچ

چکی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں (یعنی میں تو اس بیماری میں بالکل مرنے کے قریب ہو گیا ہوں) اور آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس مال ہے، اور میرے وارثوں میں میری صرف ایک بیٹی ہی ہے۔ آگے پورا قصہ ہے (یقصد حدیث کے اصلاحی مضامین جلد اول صفحہ ۲۸ تا ۲۹ پر گزرا چکا ہے۔ مرتب)۔

افادات: - یہ روایت یہ بتلانے کے لئے لائے ہیں کہ دیکھو! حضرت سعد بن ابی وقارؓ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖہْ وَسَلَّمَ نے اپنی بیماری کو ان الفاظ میں نبی کریم ﷺ کے سامنے پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول! میری جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں بیماری میں بیہاں تک پہنچ چکا ہوں کہ اب میرے پہنچ کی بالکل امید نہیں ہے۔ اور حضور اکرم ﷺ نے اس کی کوئی تردید نہیں فرمائی۔ حضور اکرم ﷺ نے بھی ان کی بات سن کر برقرار کھا، معلوم ہوا کہ آدمی اپنی حالت اس طرح بیان کر سکتا ہے۔

أَمَّا الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَا اظْهَارِ دِرِسْرَ

۹۱:- وَعَنْ الْقَاسِمِ بْنِ حَمْدَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَارَأْسَاهُ! فَقَالَ

الْعَبْيُونِيَّةُ: بَلْ أَنَا، وَارَأْسَاهُ!... وَذَكَرَ الْحَدِيثَ۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ: - حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا، جب حضور اکرم ﷺ ان کے گھر پر پہنچ تھا وہ (اپنے سر کے درد کو ظاہر کرتے ہوئے) کہنے لگیں ہائے میرا سر (یعنی درد کی شدت کی وجہ سے میرا سر بالکل اڑا جا رہا ہے) یہ سن کر حضور اکرم ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: بلکہ ہائے میرا سر۔ (یعنی مجھے سر درد کی شدید تکلیف ہے)۔

افادات: - یقصد اس زمانہ کا ہے جس میں نبی کریم ﷺ کا مرض الوفات شروع ہو چکا تھا، اسی زمانہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا، پھر حضور اکرم ﷺ

نے یہ بھی فرمایا: اگر اس بیماری میں تمہارا انتقال ہو گیا تو میں موجود ہوں، میں تمہاری جنازہ کی نماز پڑھوں گا اور تمہارے لئے دعائے مغفرت کروں گا۔ (سنن بیحقی: ۷۰۳۱)

یہاں تو صرف اتنا بتلانا ہے کہ دیکھو! حضور ﷺ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے سر کے درد کی تکلیف کو ان الفاظ میں پیش کیا، اور حضور ﷺ نے بھی ان کو اپنے سر کے درد کی تکلیف بتائی۔ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو اپنی وہ تکلیف سامنے والے کو بتانے کے لئے اگر ظاہر کرتا ہے، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بس! اتنا ہے کہ اس میں شکایت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو آدمی اس انداز سے بیان نہ کرے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر شکایت کا احساس ہونے لگے۔

بَاب تلقين المحتضر: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جس کی موت کا وقت قریب ہوا سکو

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“، کی تلقین کرنا

یعنی آداب اور مستحبات میں سے ہے۔

۷۹۱:- عن معاذ بن شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. (رواہ أبو داود والحاکم، وقال: صحيح الإسناد)

ترجمہ: - حضرت معاذ بن جبل بن شعیبؓ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس کا آخری کلام ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

افادات: - اب ظاہر ہے کہ اس کا آخری کلام ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہو جائے، اس کے لئے کوشش کے طور تلقین کی جائے گی۔ چنانچہ آگے اسی کو پیش کرتے ہیں۔

۷۹۱۸:- وعن أبي سعيد الخدري بن شعيب عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَقِنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. (رواہ مسلم)

ترجمہ: - حضرت ابو سعید خدری بن شعیبؓ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اپنے مرنے والوں کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرو۔

افادات: - یعنی جس کی موت کا وقت قریب آگیا ہو اور انداز یہ ہو کہ اب نزع شروع ہو چکا ہے، تو اس کو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور تلقین کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ذرا آواز سے اس طرح کلمہ پڑھتے رہیں کہ

اس کے کان میں آواز پہنچے، تاکہ ان کو پڑھتا ہو اسن کر خود ہی ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے یوں کہانہ جائے کہ تم کلمہ پڑھو، تلقین کا یہ طریقہ نہیں ہے، اس لئے کہ کبھی موت کی شدت اور سختی ایسی ہوتی ہے کہ اگر اس کو کلمہ پڑھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو اس شدت کی وجہ سے آدمی انکار کر دیتا ہے۔ اس لئے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھو، بلکہ وہاں موجود لوگ ذرا آواز سے پڑھتے رہیں، ان کو پڑھتا ہو اسن کر ان شاء اللہ وہ بھی پڑھ لے گا۔

باب ما يقوله بعد تغییض المیت

جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آداب میں سے یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اگر کھلی ہیں تو بند کر دی جائیں۔ منہ کھلا ہے تو کپڑے کی پٹی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لے کر سر کے اوپر باندھ دیا جائے، تاکہ منہ کھلانہ رہ جائے۔ اسی طرح پیٹ کے اوپر کوئی وزنی چیز رکھ دی جائے تاکہ پیٹ پھولنے نہ پائے۔ اور اعضاء، ہاتھ پاؤں وغیرہ کو سیدھا کر دیا جائے، اس لئے کافوری طور پر روح نکلی ہے تو اس کا جسم زرم ہے، اس وقت اعضاء ٹھیک ہو سکتے ہیں، اگر اس وقت ٹھیک کرنے کا ہتمام نہیں کیا گیا تو پھر ٹھوڑی دیر کے بعد جب جسم مکمل طور پر ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر اس کے اعضاء کو سیدھا کرنا چاہیں گے، تب بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لئے آداب میں سے یہ ہے کہ مرنے والے کے جسم کو اچھی ہیئت میں کر لیا جائے، یہاں آنکھیں بند کرنے والی چیز کو حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔

موت کے وقت اور بعد کیا کرے؟ کیا نہیں؟

۶۱۹: عن أُمِّ سَلَمَةَ حَنْتَشِيَّةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أُبَيِّ سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوْحَ إِذَا فُيَضَ، تَيَعَّهُ الْبَصَرُ. فَضَّجَّ نَاسٌ مِّنْ أَهْلِهِ، فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا يُجْبِرُ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَوْمَ مُنْتَوْنَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيَّينَ، وَأَخْلُفْهُ فِي عَيْقَبَهُ فِي الْغَارِيْبَيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسُحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ بن شعاۃ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھیں (یعنی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور آنکھیں کھلی رہ گئی تھیں) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو اپنے دست مبارک سے بند کیا اور فرمایا: آدمی کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اس روح کو جاتے ہوئے آنکھیں دیکھتی ہیں (اسی لئے آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، لہذا آدمی کے انتقال کے بعد اس کی آنکھوں کو بند کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس بات سے) گھر والوں نے (سمجھ لیا کہ حضرت ابو سلمہ بن شعاۃ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، اس لئے انہوں) نے شورچایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کو تنبیہ فرمائی کہ اپنے لئے اس موقعہ پر اچھائی ہی کی دعا کرنی چاہیے (ایسی مصیبت کے موقعہ پر بعض مرتبہ عورتیں دعا کے ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکلتی ہیں جو، جائے فائدہ کے نقصان کا سبب بنتے ہیں) اس لئے کفر شتے تمہاری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرماء، اور ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں ان کے درجہ کو بلند فرماء، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں تو ان کا جائزین بن جا (مطلوب یہ ہے کہ ان کے ذریعہ جو ضرورت پوری ہوتی تھی تو ان ضرورتوں کی خزانۃ غیب سے کفالت فرمائے) اے سارے جہانوں کے پروردگار! ہماری بھی مغفرت فرماء اور ان کی بھی مغفرت فرماء، اور ان کی قبر کو کشادہ فرماء اور ان کے لئے ان کی قبر میں روشنی کر دے۔

افادات:- اس لئے ہمارے اکابر اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جب کسی کی موت سے متعلقین اور قریبی رشتہ داروں (جیسے باپ کا انتقال ہوا تو اس کی اولاد۔ یا شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی وغیرہ) پر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک خاص تعلق اور رجوع نصیب ہوتا ہے، اس لئے ان حالات سے فائدہ اٹھالینا چاہیے اور ایسے موقع پر اچھی اچھی دعائیں کر لینا چاہیے، یہ دعائیں قبول

ہونے کا وقت ہوتا ہے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ: لوگ اس حالت و کیفیت اور وقت کو رو نے دھونے میں ضالع کر دیتے ہیں، حالاں کہ یہی وقت ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر جو مانگنا ہو مانگ لے۔ ایسی قسمی چیزوں کو ہم خود ہی نادانی میں ضالع کر دیا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے اور رونے کی بجائے مرنے والے کے لئے اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے، یہی چیز ہے جس کا فائدہ ہوتا ہے۔

بَابِ مَا يُقَالُ عِنْ الدِّيْنِ

وَمَا يُقَالُهُ مِنْ مَاتَ لَهُ مِيتٌ

جب کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ وہاں پہنچیں

تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟

اور جس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہو؛

وہ خود کیا کہے؟

اس دعا کی برکت سے بہت بہتر بدل ملا

۹۲۰:- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَضَرَ تُمُّ الْمَرِيضِ أَوَ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ۔
قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَّا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ. قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقبَى حَسَنَةً۔
فَقُلْتُ: فَأَعْقَبْنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ: مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

رواه مسلم. هكذا: ((إذا حضر تُمُّ المريض أو الميت)). على الشَّكْ. ورواه أبو داود وغيره: ((البيت)) بلا شَكْ.

ترجمہ:- حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی بیمار یا کسی مرنے والے کے پاس پہنچو (یعنی جس کے اوپر موت کے حالات طاری ہو چکے ہوں اور وہ سکرات کے عالم میں ہو، روح قبض کی جا رہی ہے) تو وہاں اپنی زبان سے اچھی بات اور دعا نئی کلمات کہو، اس لئے کہ اس وقت آپ جوبات کہتے ہیں، فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا، تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس حاضر ہوئی، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: یوں کہو: اے اللہ! تو میرے اور ان کے گناہوں کو معاف فرماء، اور مجھے ان کا اچھا بدلہ اور اچھا جانشین عطا فرم۔ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی اس تلقین اور ارشاد پر میں نے یہ دعا پڑھ لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے میرے شوہر ابو سلمہ کے بدلہ میں ایسی ذات (یعنی نبی کریم ﷺ) عطا فرمائی جو ان سے بہت اچھی تھی۔

افادات:- بیمار کی عیادت کے لئے جائے تو وہاں اچھے کلمات کہنے چاہئیں کہ اللہ تعالیٰ تند رسی دے، اطمینان رکھو، اچھے ہو جاؤ گے۔ اور کسی کی موت کا وقت ہو تو وہاں بھی اس کے مناسب اچھے کلمات کہنے چاہئیں، جیسے اپنے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے تو یوں کہنا چاہیے: اے اللہ! میرے گناہوں کو بھی معاف فرمادے اور اس کے بھی گناہوں کو معاف فرمادے۔

”وَأَعْقِنِي مِنْهُ عَقْبَيْ حَسَنَةً“:- اگر فوت شدہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا دنیا میں بدل مل سکتا ہے، مثلاً: شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں دے سکتے ہیں، اس لیے دعا مگئی گئی کہ اس سے اچھا بدل عطا فرم۔ اور اگر وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا بدل نہیں ہے، جیسے: ماں باپ؛ کہ ان کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، اس لئے اس دعا میں ”عَقْبَيْ حَسَنَةً“ کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا

اچھا معاوضہ عطا فرما۔ یعنی اگر دنیوی اعتبار سے بدل مل سکتا ہے تو وہ دے، ورنہ اخروی اعتبار سے اچھا اجر و ثواب عطا فرما۔

”فَأَعْقَبَنَا اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِّمِنْهُ: هُجَّةً سَمَاءً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“:- اللہ تعالیٰ نے اس کا بہت اچھا بدل نبی کریم ﷺ کی شکل میں عطا فرمایا، اس لئے کہ عدت کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ کے زکاح میں آئیں۔

دوسری روایت میں ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت میں یہ دعامنگ رہی تھی تو اپنے جی میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا مجھے کون ملے گا؟ لیکن جب نبی کریم ﷺ کے ساتھ زکاح ہوا، تب پتہ چلا کہ واقعی اس دعا کی برکت سے بہت بہتر بدل ملا۔

حضور اکرم ﷺ نے اس موقع پر جو دعا ہمیں بتلائی ہے، ہمیں تو ایمان و تلقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اس دعا کے اثرات کا انتظار کرنا چاہیے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں: ”أَنَا عَنِّدَ ظَلِّ عَبْدِيِّ يٰ بَنْدَهِ اللَّهِ تَعَالَى“ کے ساتھ چیزیں امید قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی لئے دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ جب دعا کرے تو اس یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی۔

۹۲۱:- وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلُفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَجْرَكُ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُصِيبَتِهِ وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْرًا مِنْهَا۔ قَالَتْ: فَلَمَّا تُؤْمِنُ بْنُو سَلَمَةَ قَلْتُ كَمَا أَمْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْلَفَ اللَّهُ لِي خَيْرًا مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد

فرماتے ہوئے سن: جب کسی بندہ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ یہ پڑھتا ہے: "إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" اے اللہ! اس مصیبت میں تو مجھے ثواب عطا فرما، اور اس مصیبت کی وجہ سے مجھے جو نقصان پہنچا ہے اس کا مجھے اچھا بدلہ دے؛ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اس مصیبت میں اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو نقصان ہوا اس کا اچھا بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اُمّ سلمہ رض فرماتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا مجھے حکم دیا ویسا ہی میں نے پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلہ میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔

افنادات: - کسی کا انتقال ہو جانا بھی مصیبت کی ایک قسم ہے۔ یہ روایت پہلی روایت کے مقابلہ میں عام ہے، وہاں تو صرف موت کا تذکرہ تھا، اس روایت میں ہر مصیبت کا تذکرہ ہے۔ جیسے تجارت میں گھٹا اور خارہ ہو گیا، کوئی چیزوں کی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چیز گم ہو گئی؛ یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔

هم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان کو سیکھ لینا چاہیے۔ تکلیفیں و مصیبتوں اور حالات تو ہر وقت آتے ہی رہتے ہیں، اور ہم لوگ شکایتوں کرتے رہتے ہیں کہ یوں ہوا، فلاں ہو گیا، نقصان و گھٹا ہو گیا، جب یہ دعا یاد کر لیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو ان شاء اللہ اجر بھی ملے گا اور جو نقصان ہوا ہے اس کا بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔

بچے کے انتقال پر صبر کی عظیم فضیلت

۹۲۲:- وَعَنْ أَبِي مُوسَى رض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: إِذَا مَاتَ وَلْدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ: قَبْضَتُمْ وَلَدَعَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ قَبْضَتُمْ ثَمَرَةً فُؤَادِهِ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ. فَيَقُولُ: مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟

فَيَقُولُونَ: حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَحَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّوْا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُونُهُ بَيْتُ الْحَمْدِ.

(رواہ الترمذی و قال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعریؑ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں: تم نے میرے بندہ کے بچ کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ تو باری تعالیٰ پوچھتے ہیں: تم نے میرے بندہ کے دل کے ٹکڑے کو لے لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں: جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں: اچھا! تو میرے بندہ نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں: باری تعالیٰ! اس بندہ نے تو تیری تعریف کے کلمات کہے، اور ”انا للہ وانا الیہ راجعون“ پڑھا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں: میرے بندہ کے لئے جنت میں ایک مکان بناؤ، اور اس مکان کا نام ”بیت الحمد“ رکھو۔

افادات:- دیکھو کتنا بڑا بدالہ ملا! یہاں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کیسا تعلق ہے! بندہ تو ایسے موقع پر شور مچاتا ہے، آہ و واویلا کرتا ہے، شکوئے شکایتیں کرتا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ سب جانتے ہوئے بھی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، اور بندہ نے زبان سے کیا جملے کہے؟ معلوم ہوا کہ یہ جو حالات پیش آتے ہیں؛ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ ایک محب اپنے محبوب کو، یا محبوب اپنے محب کو آزماتا ہے۔ تو بندہ جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ان حالات کے ذریعہ آزماتے ہیں۔ اور وہ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا ہے، لیکن چوں کہ فرشتوں کے سامنے بندہ کی تعریف کا انہمار مقصود ہوتا ہے۔

یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے انسان کی پیدائش کے وقت کہا ہتا: **أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِلُ الْدِمَاءَ**، باری تعالیٰ! آپ روئے زمین پر ایسے انسانوں کو پیدا کرنے جارہے ہیں جو دنیا میں خون بھائیں گے اور فساد پھیلائیں گے؟

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں: تم تو کہتے تھے کہ فساد مچائے گا۔ تمہارے دعوے کا کیا ہوا؟ جب کسی کے بچے کی روح قبض کی گئی تو وہی فرشتے جو روح قبض کرنے کے لئے گئے تھے، انہی سے باری تعالیٰ پوچھتے ہیں: میرے بندہ کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر لی تو اس نے کیا کہا؟ فرشتے گواہی دیتے ہیں، گویا ان کی گواہی نوٹ کروائی جاتی ہے۔ حالاں کہ باری تعالیٰ تو سب جانتے ہیں لیکن ان پر جحت و دلیل قائم کرنے کے لئے ان سے ہی بلوایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں: باری تعالیٰ! اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی، اور تیرے فیصلے پر راضی رہا اور تیری حمد بیان کی۔ باری تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنواتے ہیں جس کا نام ”بیت الحمد“ ہوتا ہے۔

ان تعلیمات کو عام کرو

نبی کریم ﷺ کی یہ ساری تعلیمات اگر ہر وقت ہمارے پیش نظر ہیں تو ہمیں جو حالات، تکلیفیں اور مصائب پیش آتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ہم جو آزمائے جاتے ہیں اور ان موقع پر ہم جو جزع فزع اور شکوہ شکایتیں کرتے ہیں اس کی نوبت ہی نہ آئے۔ ایسے موقع پر حضور اکرم ﷺ کی یہ حدیث ہمارے سامنے آئے گی اور ہم یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر ہی معاملہ ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ میکھنے کہ ایک عورت ہے لیکن حضور ﷺ نے ان کو ایک بات بتلا دی کہ مصیبت آئی تو یہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا اور اس کا اچھا بدلہ بھی ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسی یقین کے ساتھ وہ دعا پڑھی، تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اچھا شوہر بھی کریم ﷺ کی شکل میں عطا فرمایا۔

بہر حال! اصل کی وکزوری ہماری ہے کہ ہم حضور اکرم ﷺ کی ان تعلیمات سے ناواقف ہیں، جانتے ہی نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ہر موقع پر ان تعلیمات پر عمل کریں کسی بھی حوال میں حضور اکرم ﷺ نے ہمیں بغیر ڈائرکشن (Direction) کے تنہا چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر ہر موقع پر کیا کرنا چاہیے وہ موجود ہے، اب یہ ہماری کمزوری اور ناواقفیت ہے کہ ہم ان تعلیمات کو جانتے نہیں ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آہ دوا میلا کرتے ہیں اور شکوئے شکایتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔

لہذا یہ ساری چیزیں سن کر ان کونوٹ کرنا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے، لوگوں کو بتلانا چاہیے اور ان کو عام کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرہ اور سماج میں سے یہ ساری چیزیں نکل گئیں، پرانے زمانہ میں لوگوں میں یہ چیزیں تھیں کہ کوئی معاملہ پیش آتا تو بڑے بتلاتے تھے کہ اس موقع پر یہ پڑھو، یہ کرو۔ اور آج تو جو لوگ جانتے ہیں وہ بھی کسی کو سکھانے کے لئے تیار نہیں ہیں، ان تعلیمات کو ہر ہر گھر میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایسا کوئی معاملہ پیش آئے، وہاں اگر دوسرا باتیں ہوں تو فوراً ان کو متوجہ کرو کہ اس موقع پر حضور اکرم ﷺ کی تعلیم یہ ہے، اس لئے یوں کہو، پھر دیکھو کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟

مصیبت کے وقت کا مراقبہ

۹۲۳ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: مَا لِعَنِبِيِ الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِّنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، ثُمَّ

احْتَسَبَهُ إِلَّا جَنَّةً۔ (رواۃ البخاری)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رض نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: باری تعالیٰ فرماتے ہیں (یہ حدیث قدسی ہے) جب میں کسی بندہ کی دنیا کی چیزوں میں سے کسی بھی پسندیدہ چیز کو لے لیتا ہوں، اور وہ بندہ اس پر ثواب کی امید رکھتا ہے؛ تو میرے اس بندہ کے لئے میرے یہاں جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ نہیں ہے۔

افادات:- ”صَفِيَّةُ“ پسندیدہ اور محبوب چیز، اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے اور دوسرا جو محبوب چیز ہے ہوتی ہیں وہ بھی سب آ جاتی ہیں۔ اسی لئے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی بینائی لے لیتے ہیں اور وہ آدمی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں۔

ہمارے اکابر میں حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ گزرے ہیں، اخیر عمر میں حضرت کوموتیا نکل آیا تھا، اور اس زمانہ میں موتیا کا آپریشن اتنا آسان نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا آپریشن کرنا پڑے گا جس میں لیٹے رہنا پڑے گا اور سجدہ بھی اشارہ سے کرنا پڑے گا۔ حضرت نے فرمایا: نہیں بھائی! مجھے یہ گوارہ نہیں کہ سجدہ اشارہ سے کرو۔ لوگوں نے کہا: حضرت! صرف ایک دن کا معاملہ ہے۔ تو اس پر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بغیر اختیار کے ایک بشارت عطا فرمائی ہے؛ تو اب میں اس کو کیوں چھوڑ دوں؟

”ثُمَّ احْتَسَبَهُ“ کسی عمل پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا ”احتساب“ کہلاتا ہے۔ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز تھی، میرے پاس امانت تھی، جب تک میرے پاس رہی؛ تب تک رہی، اب اس نے مجھ سے لے لی، اس میں اس کی مصلحتیں ہیں، وہ مالک و مختار ہے، لہذا اس پر مجھے صبر کرنا چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ مجھے اجر و ثواب دے گا۔ کوئی بھی مصیبت آنے پر یہ سوچ لینا چاہیے۔

جود یا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اور جو لے گا وہ بھی اللہ ہی کا

۹۲۲:- وَعَنْ أَسَّاَمَةَ بْنِ زَيْنِ الدِّينِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ تَعَالَى مَذْكُورَةً فَقَالَ لِلرَّسُولِ: أَرْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَا أَخْذَ وَلَمْ مَا أَعْطَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ إِلَّا جَلٍ مُسَمٍّ، فَمُؤْمِنٌ هُوَ، فَلَتَصِيرْ وَلَتَحْتَسِبْ))... وَذَكَرَ تَمَامُ الْحَدِيثِ۔ (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کریم ملکی علیہ السلام کی صاحزادیوں میں سے ایک نے آپ ملکی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی کے ذریعہ آپ کو بلاں کے لئے پیغام بھیجا (یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی بڑی صاحزادی ہیں، ان کا ایک چھوٹا بیٹا ایسا یار ہوا کہ بالکل جاں کنی کے عالم میں تھا، سانس تیز چلنے لگی، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہے گا تو انہوں نے اب اپ کہلوایا کہ آپ تشریف لائیے) میرا بچ بالکل آخری حالت میں ہے، تو حضور اکرم ملکی علیہ السلام نے اسی قاصد کے ذریعہ بات کہلوائی کہ بھائی! تم بیٹی کے پاس جاؤ اور ان کو بتلاؤ کہ جود یا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو لے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے، اس لئے میری بیٹی سے کہہ دو کہ صبر سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے اس پر ثواب کی امید رکھے (اس پر ملنے والا اجر و ثواب اس نعمت کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے)۔

و ذکر تامماً الحدیث۔

افادات:- اولاد کے ہم مالک تو ہیں نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس سے ہمیں ایک مدت کے لئے خوش ہونے اور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا ہے، اولاد جب چھوٹی ہوتی ہے تو آدمی اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب بڑی ہوتی ہے تو اس سے راحت پہنچتی ہے۔ اور درحقیقت یہ اسی کی چیز تھی، اب اسی نے لے لی۔

ایک عورت کے صبر کا عجیب قصہ

حضرت اُم سلَّیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، ایک بچہ پیدا ہوا جو بیمار تھا، اسی دوران حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر میں نکلے، رات کو جب واپس آئے تو بچہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ سفر سے آتے ہی پوچھا کہ بچہ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت اُم سلَّیم نے جواب دیا: پہلے سے زیادہ آرام میں ہے (اور واقعہ بھی یہی ہے کہ پہلے تو بیماری کی تکلیف میں تھا، جب انتقال ہو گیا تو اس بیماری کی تکلیف سے آرام میں ہو گیا) اس جواب سے وہ یوں سمجھے کہ طبیعت ٹھیک ہے۔

حضرات شریح نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو چاہیے کہ شوہر جب گھر میں آئے تو ایسی کوئی خبر جو اس کی طبیعت پر فوری اثر کرنے والی ہو، اس کے سامنے نہ رکھے، وہ ذراطمینان حاصل کر لے، اس کے بعد کہے۔

خیر! انہوں نے کہا: کھانا لاو، تو کھانا پیش کیا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہا: بستر کا انتظام کرو، ان کو ضرورت تھی وہ پوری کی، اس وقت تک بھی بتایا نہیں کہ اس بچہ کا انتقال ہو چکا ہے، جب ضرورت سے فارغ ہوئے اور آرام ہو گیا تو پھر صح سے پہلے کہا: بچے کا انتقال ہو گیا ہے اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو۔

دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ خبر دینے سے پہلے انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا: کوئی آدمی کوئی چیز امانت کے طور پر تمہیں دے، پھر تم سے وہ چیز واپس مانگے؛ تو کیا آپ ناراض ہوں گے؟ انہوں نے کہا: نہیں! کیوں ناراض ہوؤں گا؟ اس کی چیز ہے، وہ اس کا مالک ہے، جب مانگے گا تو ضرور واپس کروں گا۔ تو

پھر حضرت اُم سُلَيْمَانُ بْنُ عَمَّارٍ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچہ بطور امانت کے دیا تھا، وہ اس کا مالک تھا، اس نے ہم سے واپس لے لیا، اب اس کے کفن فن کا انتظام کرو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑا ناگوار گزر کہ میں نے یہ سب کر لیا تب تک تم نے بتایا نہیں؟ پھر صبح حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ کی خدمت میں یہ قصہ عرض کیا، تو حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے ان کو برکت کی دعا دی۔ روایتوں میں ہے کہ اس صحبت سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبد اللہ رکھا جس کی اولاد میں نوبڑے عالم پیدا ہوئے۔ (بخاری و مسلم)

(یہ قصہ حدیث کے اصلاحی مضامین، جلد اص: ۳۲۳۰۷۳۲۳ پر تفصیل میں موجود ہے۔ مرتب۔)

اس روایت میں حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ: ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر کوئی چیز کئی تو یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی۔ «وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمٍّ» اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، تو اس کے لئے ایک وقت مقرر ہے، اس کی زندگی طے ہے، جتنے دن وہ کر دنیا میں آیا ہے اتنے ہی دن رہے گا۔ اور کوئی چیز ہے، جیسے: آپ کو موڑ کار دی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے وہیں تک وہ آپ کے پاس رہے گی۔ مکان، دوکان، جاندار، بے جان؛ ہر چیز کا یہی قاعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جتنی بھی چیزیں دے رکھی ہیں؛ ہر ایک چیز کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔ انسان کی آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، اعضاء بدن، مال و دولت، مکان، دوکان، تجارت، فیکٹری؛ یہ ساری چیزیں ایک مقررہ وقت تک کے لئے دی جاتی ہیں، جب وہ وقت ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ واپس لے لے گا۔ یہ روایت پہلے (۲۲۲۳/۱) آچکی ہے۔ جب تمیٰ کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلَہٖ وَسَلَّمَ نے اس قاصد کے ذریعہ صاحبزادی کو صبر کا پیغام بھجوایا تو اس کے جواب میں ان صاحبزادی صاحبہ

نے قسم دے کر دوبارہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کو قسم دیتی ہوں کہ آپ ضرور تشریف لائیے، تو نبی کریم ﷺ کے پاس تشریف لائے اور دوسرا بڑے بڑے صحابہؓ ساتھ ہو لئے، جب آپ ﷺ اپنی صاحبزادی کے پاس پہنچ تو اس چھوٹے بچے کو جس کی جاں کنی کی حالت تھی۔ اٹھا کر آپ کے گود میں دیا گیا، اس وقت اس کی سانس بہت تیز چل رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھنے کیرم ﷺ کی آنکھ سے آنسو پکا، تو حضرت سعد بن عبادہ ؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ کیا؟ وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول ہیں اس لئے ایسے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہئیں۔ تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: محبت و شفقت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھا ہے؛ یہ اسی کا اثر ہے۔ وہ انسان ہی کیا جس کے دل میں محبت و شفقت کا جذبہ نہ ہو؟ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ﷺ کے اس بچے کو گود میں لینے کے بعد انسان کی وہ تیزی ختم ہو گئی اور بچہ ٹھیک و تدرست ہو گیا، بعد میں وہ زندہ بھی رہا۔

اس روایت پر ”فیض الباری“ میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ: اس بچکی جاں کنی کی بالکل اخیری حالت تھی لیکن نبی کریم ﷺ کے گود میں دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا؛ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کے ذریعہ سے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے۔

بَابِ جُوازِ البَكَاء عَلَى الْمَيْتِ

بَغْيِرِ نَدْبٍ وَ لَا نِيَاحَةٍ

مرنے والے کے اوپر بغیر آہ وو واویلا

اور نوحہ کے ارادہ و نیت کے رونا جائز ہے

زمانہ جاہلیت میں رونے کی کچھ شکلیں تھیں، ایک شکل نوحہ کی تھی۔ جو پرانے لوگ ہیں جنہوں نے غیر مسلموں کو دیکھا ہو گا وہ سمجھیں گے کہ ان کے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو خاص رونے کے لئے عورتیں جمع ہوتی ہیں، وہ باتیں کرتے ہوئے آتی ہیں اور جہاں محلے کا انکڑ آتا ہے کہ زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہیں، چھوٹے بچے ساتھ میں ہوتے ہیں وہ بھی گھبرا جاتے ہیں کہ اچانک کیا ہو گیا۔ پھر گھومتے ہوئے سینہ کوٹتی ہیں، اپنے چہرے پر طماضے لگاتی ہیں، بالوں کو بکھیرتی ہیں اور تنم کے ساتھ رونے کی آوازیں نکلتی ہیں؛ یہ نوحہ کہلاتا ہے جو حرام ہے۔ اور اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عورت کسی کے یہاں رونے جاتی تھی اس کو نوٹ کیا جاتا تھا۔ جیسے: شادی بیاہ کے موقع پر نوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں نے کتنا دیا، تاکہ جب اس کے یہاں شادی بیاہ کا موقع ہو تو اتنا ہی دیا جائے، اسی طرح یہاں بھی نوٹ کیا جاتا تھا کہ کون سی عورت ہمارے یہاں رونے آئی، تاکہ جب اس کے یہاں موقع آئے تو ہم بھی رونے کے واسطے اس کے وہاں جائیں، یہ بھی حرام ہے اور یہ بھی اس زمانہ کا ایک خاص انداز تھا۔

اور جس کے گھر پر جتنی زیادہ عورتیں نوحہ کرتیں اس کو اتنا ہی بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، بلکہ لوگ وصیت کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد نوحہ کرنے کا خوب اہتمام کرنا، تاکہ لوگوں کو پوتہ چلے کہ بڑی شخصیت تھی۔ حضور اکرم ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے۔

دوسری شکل ”ندبہ“ کی تھی۔ اس میں نوحہ کی طرح پروفیشنل طریقہ سے رونا تو نہیں ہوتا، لیکن اندازو ہتی ہوتا ہے کہ مرنے والے پر زور زور سے کہا جاتا ہے کہ آپ تو میرے لئے ماویٰ و ملجا تھے، اور اس زمانہ میں بولتے تھے: ”وَاجْبَلَةٌ، وَارْأَسَاءُ، وَامْلَجَاهُ“ ہائے میرا پہاڑ، ہائے میرے سرتاج، ہائے میری پناہ۔ آپ تو ایسے تھے، اور یوں کرتے تھے، آپ تو ہاتھ لگادیتے تھے تو یوں ہو جاتا تھا؛ اور پورا ایک سلسلہ چلتا تھا؛ یہ ندبہ کہلاتا ہے۔ شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔

تو یہ دونوں چیزیں منوع ہیں، باقی کسی کے انتقال کی وجہ سے دل میں غم کا ہونا ضروری ہے، اس غم کی وجہ سے آنکھ کے آنسو نکل آئیں، تو اس سے شریعت نے منع بھی نہیں کیا ہے، یا شدت غم کی وجہ سے رونے کی آواز کا بلند ہو جانا بھی منع نہیں ہے۔ اس باب میں یہی بتلانا چاہتے ہیں:-

رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے؟

أَمَّا النِّيَاكَةُ فَحَرَامٌ وَسَيِّئَاتٍ فِيهَا بَابٌ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَأَمَّا الْبُكَاءُ فَجَاءَ أَحَادِيثُ بَالنَّبِيِّ عَنْهُ، وَأَنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، وَهِيَ مُتَنَّوَّلَةٌ وَمَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ أُوصَى بِهِ، وَالنَّهُمَّ إِنَّمَا هُوَ عَنِ الْبُكَاءِ الَّذِي فِيهِ نَذْبٌ، أَوْ نِيَاكَةٌ، وَالدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ الْبُكَاءِ بِغَيْرِ نَذْبٍ وَلَا نِيَاكَةٍ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:

علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نوحہ حرام ہے، اور آگے جہاں ممنوع بالتوں کا بیان آئے گا وہاں اس سلسلہ میں مستقل باب لائیں گے۔ رونے کے سلسلہ میں بہت سی روایتوں میں ممانعت آئی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے: ﴿إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَعْذَبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ﴾ (بخاری شریف: باب قول النبی ﷺ یعذبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنْنَتِهِ)۔ مرنے والے کو اس کے گھروالوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً روناجا نہیں۔ لیکن دوسری روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ اُس زمانہ میں لوگ باقاعدہ وصیت کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد روئیو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ توجہ آدمی نے وصیت کی ہو اور اس کے نتیجہ میں لوگ روئیں تو وہ گناہ گار ہوگا، اور لوگوں کے رونے پر اس مرنے والے کو عذاب بھی ہوگا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس نے وصیت تو نہیں کی، لیکن کسی علاقہ میں مرنے والے کی موت کے بعد اس طرح رونے کا رواج ہے، اور مرنے والے کو معلوم ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد رونامت۔ اس کی وصیت کے باوجود بھی وہ روئیں گے تو اس صورت میں مرنے والے کو ان شاء اللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کو معلوم ہے کہ لوگ روتے ہیں، اس کے باوجود اس نے ممانعت کی وصیت نہیں کی؛ تو اس صورت میں وہ گناہ گار ہوگا اور لوگوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب بھی ہوگا۔

اس لیے غور کرنے کی بات یہ ہے کہ رونے والے اس پر رورہے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی خیرخواہی کر رہے ہیں، لیکن الٹا اس کے لئے عذاب کا ذریعہ بن رہے ہیں۔

عذاب توز بان کی وجہ سے ہوتا ہے

۹۲۵:- عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَادَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ، وَمَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ شَيْخُهُمْ، فَبَكَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ مُبَكَّأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ بَكَّوْا، فَقَالَ: أَلَا تَسْمَعُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا يُحْزِنِ الْقَلْبُ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ إِهْنَدًا أَوْ يَرْحُمُ، وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ حضرت سعد بن عبادہ رضي الله عنهما کی عیادت کے لئے تشریف لائے، اس وقت آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي واقص اور عبد اللہ بن مسعود رضي الله عنہم بھی تھے، ان کی حالت دیکھ کر نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ روئے، جب لوگوں نے آپ کا رونادیکھا تو لوگ بھی رونے لگے۔ حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ نے ارشاد فرمایا: کیا تم لوگ سنتے ہو؟ اللہ تعالیٰ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کی وجہ سے عذاب نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے، یا رحم فرماتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ نے زبان کی طرف اشارہ فرمایا۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کی موت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں غم کی کیفیت پیدا ہوئی، تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ تو فطری اور طبعی چیز ہے، لیکن زبان سے جو آہ و واویا اور شکوہ شکایت کرتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کپڑا اور گرفت ہوگی۔

ہر انسان کے دل میں جذبہ رحمت رکھا ہے

۹۲۶:- وَعَنْ أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ رَفَعَ إِلَيْهِ أَبْنَ

ابنَتِهٗ وَهُوَ فِي الْبَوْتِ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اللَّهُ سَعْدٌ: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحْمَاءَ۔ (متفق عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے پاس آپ کی بیٹی کا بیٹا (یعنی نواسہ) اٹھا کر دیا گیا اور بالکل موت کی حالت میں تھا، اس کی یہ کیفیت دیکھ کر نبی کریم ﷺ کی مبارک آنکھ میں آنسو آگئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! یہ کیا؟ (وہ یوں سمجھے کہ یہ چیز کہیں شانِ نبوت کے خلاف تو نہیں) نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے سعد! یہ محبت اور رحمت و شفقت کا جذبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ودیعت فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے انہیں بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے۔

افادات:- حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کے سو حصے ہیں اور اس میں سے ایک حصہ دنیا میں رکھا ہے، اسی کی وجہ سے حب اور بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ہر انسان کے دل میں جذبہ رحمت رکھا ہے، اس کا تقاضہ ہے کہ کوئی آدمی جب کسی کو بھی تکلیف کی حالت میں دیکھتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اپنا بچہ ہو، یا کسی اور کا بچہ ہو، بلکہ بعض مرتبہ کسی جانور کو بھی تکلیف کی حالت میں جب دیکھتا ہے؛ تو اس کا دل زم ہو جاتا ہے اور پسچ جاتا ہے۔

غمگین ہونا اور آنسو نکلنا برا نہیں

۹۲۔ وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَجْوُدُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَذَرِّفَانَ۔

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَوْفٍ! إِنَّهَا رَحْمَةٌ. ثُمَّ أَتَبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَخْرُنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرِضِي رَبَّنَا، وَإِنَّ الْفِرَاقَ إِلَيْ إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ۔ (رواہ البخاری وروی مسلم بعضہ)

ترجمہ:- حضرت انس بن مالک عَنْ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رَبِّنَا عَنْ کے پاس تشریف لائے ایسی حالت میں کہ ان کی روح قبول ہو رہی تھی (ان کی یہ کیفیت دیکھ کر) نبی کریم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رَبِّنَا عَنْ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ بھی رور ہے ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابن عوف! یہ تو محبت و شفقت کا تقاضہ ہے (جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رکھی ہے، ایسی کیفیت دیکھ کر غیر اختیاری طور پر آنسو آہی جاتے ہیں) پھر (دوسرا بات ارشاد) فرمائی کہ آنکھ آنسوگراتی ہے، دل غم کرتا ہے، اور ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو خوش کرنے والی ہو، اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی پر غمگین ہیں۔

افادات:- خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کی موت پر اگر آنکھوں سے آنسو نکلیں، دل میں غم ہو، تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ شدت غم میں آواز ذرا تیز ہو جاتی ہے وہ بھی منوع نہیں ہے، ہال پر تکلف ایسا نہ کرے۔

الکف عن مَا يری من المیت من مکروہ

میت میں کوئی نامناسب بات نظر آئے

تو اس کو چھپانا چاہیے

میت کے سلسلہ میں احکام چل رہے تھے، ایک باب قائم کیا ہے کہ مرنے والے کے جسم میں ناپسندیدہ بات، یا کوئی بڑی چیز دیکھئے تو اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں روایت لائے ہیں۔

۹۲۸:- وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ أَسْلَمَ مُولَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتَمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً.

(رواہ الحاکم۔ وقال: صحیح علی شرط مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: کسی آدمی نے میت کو غسل دیا اور غسل کے دوران کوئی ناگوار اور نامناسب چیز اس کے علم میں آئی اور اس نے اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ اس کی مغفرت فرمائیں گے (کسی گناہ کو چالیس مرتبہ بھی کیا ہوگا پھر بھی اس کو معاف کر دیں گے)

افادات:- مثلاً: میت کے جسم سے بدبو آئی، یا اس کے چہرے کے اندر

سیاہی آگئی، یا چہرہ مسخ ہو گیا، یا بعض مرتبہ بدن میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ غسل کے دوران ایسی کوئی نامناسب چیز میت میں نظر آگئی؛ تو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو چھپائے۔ اسی لیے غسل دینے میں شریک ہونے

والوں کے لیے بتایا گیا ہے کہ وہ امام اندر اور صاحبِ فتنہ کے لوگ ہونے چاہئیں، تاکہ ایسی کوئی چیز نظر آجائے تو اس کو ظاہرنہ کریں۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے کہ جو آدمی ایسی چیز کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ چالیس مرتبہ اس کی مغفرت فرمائیں گے یعنی اگر کسی گناہ کو چالیس مرتبہ کیا ہوگا پھر بھی اس کو معاف کر دیں گے۔

ویسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بدعت، یا کسی حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب علانية طور پر کرتا تھا، مثلاً: کوئی آدمی گویا (Pop Singer) تھا، یا حلم کھلا سودخور تھا، یا لوگوں کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا، اور ایسے آدمی کے مرنے کے وقت اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز نظر آئے، تو اس کو چھپایا جانے جائے، بلکہ اس کو ظاہر کیا جائے؛ تاکہ لوگ اس قسم کے جرم سے بچیں، جب لوگوں کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ یہ آدمی ایسا کرتا تھا تو ایسا ہو گیا؛ تو ان کو عبرت ہوگی۔ ورنہ عام طور پر ایسی چیزیں نظر آئے تو اس کو ظاہرنہ کرے بلکہ اس کو چھپائے۔ ہاں! اگر کوئی اچھی چیز نظر آئے، مثلاً: اس کے جسم میں سے خوبیوں کی، یا چہرہ کے اندر نورانیت نظر آئی، تو اس کو پوشیدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔

الصلوة علی المیت و تشيیعه

و حضور دفنه و کراہۃ اتباع النساء الجنائز

وَقَدْ سَبَقَ فَضْلُ التَّشْيِيع

نماز جنازہ کا بیان

جنازہ کے ساتھ جانا اور تدفین میں شریک ہونا

اور عورتوں کا دفن میں شریک ہونا مکروہ ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نمازِ جنازہ اور تدفین میں شریک ہونے کی فضیلت

۹۲۹:- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلح عليها، فله قيراطٌ، ومن شهد لها حتى تدفع، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. (متفق عليه)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی جنازہ میں حاضر ہوا، یہاں تک کہ نماز پڑھنے تک اس کے ساتھ شریک رہا، اس کو ایک قیراط

ثواب ملے گا۔ اور جو نماز کے بعد دفن میں بھی شریک رہا، اس کو دو قیراط اثواب ملے گا۔ پوچھا گیا: قیراط سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: دو بڑے پہاڑوں کے برابر۔

اندادات:- قیراط ایک درہم کے چھٹے حصہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں قیراط سے دو بڑے پہاڑوں کے برابر مقدار مراد ہے یعنی ثواب کا بہت بڑا حصہ۔ تو جو آدمی جنازہ کی نماز میں بھی شریک رہا اور دفن میں بھی شریک ہوا؛ اس کو دو قیراط کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف جنازہ کی نماز پر اکتفاء نہ کیا جائے، بلکہ اگر موقعہ اور وقت ہو تو آدمی کو چاہیے کہ دفن میں بھی شریک ہو جائے۔

آج کل عام مزاج یہ بن گیا ہے کہ جنازہ کی نماز میں شریک ہو کر چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی ضروری کام ہے تو بات دوسرا ہے، لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ جنازہ کی نماز کے بعد اگر جانا چاہتے ہیں تو جنازہ کے ولی سے اجازت لینی چاہیے یعنی اس کو کہہ کر جائے۔ اگر اس کو کہہ بغیر جائے گا تو کوئی حرام کام نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، لیکن آداب میں سے ہے، اور اچھا تاویہ ہے کہ دفن میں شریک ہو جائے۔ اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، میں پچھیں منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اور اتنا بڑا ثواب مل جاتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازہ کی نماز میں شریک ہو کر حپلے جاتے تھے، جب یہ روایت سامنے آئی تو بڑا افسوس کرتے ہوئے کہنے لگے: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيظَ كَشِيرَةً (صحیح بخاری: ۱۳۲۵ / صحیح مسلم: ۲۲۳۲) ہم نے تو بہت سے قیراطوں کا نقصان کر دیا۔ وہ حضرات اس کا اہتمام کرتے تھے۔

۹۳۰ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةً مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَأَحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصْلَى عَلَيْهَا وَيُفَرَّغُ مِنْ دَفْنِهِ مَا فِي أَذْنَهُ يُرَجَّعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحْدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ،

فَإِنَّهُ يَرْجُعُ بِقِيرَاطٍ .
(رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی کسی مسلمان کے جنازہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ گیا، اور جنازہ کے ساتھ رہا یہاں تک کہ نماز پڑھی گئی اور دفن سے بھی فارغ ہو گیا؛ تو وہ آدمی دو قیراط لے کر واپس لوٹتا ہے، اور ہر قیراط اُحد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور جس آدمی نے نماز پڑھی اور دفن سے پہلے لوٹ آیا؛ تو وہ ایک قیراط لے کر لوٹے گا۔

افادات:- کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتا۔ اور ایمان کے ساتھ احتساب بھی ہو، ”احتساب“ یعنی وہ عمل خالص اللہ تعالیٰ کے خاطر کرنا، اور اس امید کے ساتھ اس عمل کو انجام دینا کہ اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دیں گے؛ اسی کا نام ”احتساب“ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی جنازہ کے ساتھ گیا اور یہ دونوں شرطیں ہیں تو وہ فضیلت حاصل ہو گی۔ اگر یہ ارادہ ہے کہ فلاں کو دکھانے کے لیے جانا پڑے گا، تو پھر وہ بات نہیں رہے گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ جب جنازہ کے ساتھ جائے تو نماز اور دفن دونوں میں شریک رہے۔ بعض لوگ جنازہ کے ساتھ جاتے ہیں لیکن نماز میں شریک نہیں ہوتے، الگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بات ہے، الگ کیوں کھڑے ہو؟ تو کہتے ہیں: وضو نہیں ہے؛ تو ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔

عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا گیا

۹۳۱: وَعَنْ أَمْرِ عَطِيَّةَ ضِيَّبَاقَالْتِ: مُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ

يُعَزَّمْ عَلَيْنَا. (متفق عَلَيْهِ) و معناه: **وَلَمْ يُشَدَّدْ فِي الْمَهْمِيِّ كَمَا يُشَدَّدْ فِي الْمُحَرَّمَاتِ.**

ترجمہ:- حضرت امام عطیہ بنی شہبہ فرماتی ہیں کہ ہم (عورتوں) کو جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا، اور یہ ممانعت کوئی پکی نہیں۔ (جیسے: حرام چیزوں سے شدت اور قوت کے ساتھ روکا جاتا ہے، بلکہ ناپسند قرار دیا گیا۔)

افتادات:- عورتوں کو جنازہ کے ساتھ جانا اور قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ اس سلسلہ میں احناف کے بیہاں دونوں باتیں لکھی گئی ہیں۔ بعضوں نے اس کو حرام بتایا ہے، اس لئے کہ عام طور پر جب عورتیں کسی قبر پر جاتی ہیں تو اگر وہ کسی رشتہ دار کی قبر ہوئی تو نوحہ کرے گی، روئے دھوئے گی، حالاں کہ روئے دھونے سے منع کیا گیا ہے، اور نوحہ حرام ہے۔ اور اگر اللہ کے کسی نیک بندے اور بزرگ کی قبر ہوگی تو بدعت میں مبتلا ہوگی، اس سے حاجتیں مانگے گی۔ اس لئے منع کیا گیا ہے کہ عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے۔

اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی طرف سے ان دو باتوں کا خطرہ نہ ہو، اور جوان بھی نہیں ہے بلکہ بوڑھی ہے؛ تو اس صورت میں جانے کی گنجائش ہے۔ لیکن پھر بھی بہتر بات یہی کہی گئی کہ عورتوں کو قبرستان جانے سے روکا جائے۔

بَابِ اسْتِحْبَابِ تَكْشِيرِ الْمُصْلِينَ عَلَى الْجَنَازَةِ وَجَعْلِ صَفْوَفَهُمْ ثَلَاثَةَ فَاكَثُرٌ

نمازِ جنازہ میں شریک ہونے والوں کی تعداد کا زیادہ ہونا

پسندیدہ ہے

اور صفیں تین یا اس سے زیادہ بنائی جائیں؛ یہ بھی اچھا ہے
ویسے ایک بات ضرور ہے کہ کسی کے جنازہ میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوں
تو اس کی مغفرت کا ذریعہ بتتا ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو جنازہ میں شریک کرنے کے لیے
تدفین میں تاخیر کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ مستقل باب لا کراس کا حکم
بتائیں گے، بلکہ فقہ کی کتابوں میں تو یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی کا جمعہ کے دن
انتقال ہو گیا جنازہ تیار ہو گیا، اور ساری تیاریاں بھی مکمل ہو گئیں، اس کے بعد محض اس
لیے نمازِ جنازہ کو جمعہ کی نماز کے وقت تک مؤخر (لیٹ) کرنا کہ جمعہ کی نماز میں زیادہ
لوگ آئیں گے اور جنازہ میں زیادہ لوگ شریک ہوں گے؛ تو فقہاء اس کی بھی اجازت
نہیں دیتے۔ ہاں! اتنی تاخیر تو کی جاسکتی ہے کہ غسل اور کفن سے فارغ ہو جبا نہیں اور
ادھر قبر تیار ہو جائے، اتنا وقت تو لگانا ہی پڑے گا، اس کے بغیر توبات بنے گی ہی نہیں،
لیکن سب تیاریاں مکمل ہو چکنے کے بعد زیادہ لوگ آؤں اس لیے تاخیر کرنے کی
شریعت اجازت نہیں دیتی۔

سوآدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت

٩٣٢:- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميتٍ يُصلى عليه أمةٌ من المسلمين، يبلغون مئةً كثيرون يشفعون له إلا شفاعة فيه.

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: وہ میت جس کے اوپر مسلمانوں کی ایک جماعت نے نماز پڑھی جن کی تعداد سو کے برابر ہو جائے کہ ان میں سے ہر ایک اس کی سفارش کرتا ہے (یعنی دعائے مغفرت کرتا ہے) تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لیتے ہیں اور اس دعا پر مرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔

افادات:- جو بھی جنازہ کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ جنازہ کے لئے دعائے مغفرت ہی کرتا ہے، گویا یہی اس کے لیے سفارش ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ کسی کے جنازہ میں سوآدمی شریک ہوئے تو یہ اس کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔

چالیس آدمی جنازہ پڑھیں تو مغفرت

٩٣٣:- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً ليشركونه بالله شيئاً إلا شفاعتهم الله فيه.

(رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اور اس کے جنازہ پر چالیس آدمی نماز کے لیے کھڑے ہوں جو ایسے ہوں کہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں (یعنی مسلمان ہوں) تو اللہ تعالیٰ مرنے والے کے حق میں ان کی سفارش قبول فرمائیتے ہیں اور اس کی مغفرت

فرمادی جاتی ہے۔

افنادات:- اوپر والی روایت میں سوکی تعداد بتائی تھی اور اس روایت کے مطابق تو چالیس پر بھی یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔

جس کے جنازہ میں تین صفیں ہوں

۹۳۷: وَعَنْ مَرْثِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِئِيِّ، قَالَ: كَانَ مَا لِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ شَنِيْلَةَ عَلَى الْجَنَازَةِ، فَتَنَقَّلَ النَّاسُ عَلَيْهَا، جَزَّأَهُمْ عَلَيْهَا ثَلَاثَةً أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةً صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ.

(رواہ أبو داؤد والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت مرشد بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن ہبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنازہ کی نماز پڑھاتے اور لوگ کم نظر آتے تو ان کے تین حصے بنالیتے تھے اور فرماتے تھے کہ: نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس آدمی پر تین صفوں نے نماز جنازہ پڑھی، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔

افنادات:- شرح نے لکھا ہے کہ اگر صرف سات آدمی ہیں، تو ایک آدمی امام بنے، پہلی صفت میں تین آدمی، دوسری صفت میں دو، اور تیسرا صفت میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے۔ اس طرح سات آدمیوں سے بھی تین صفیں پوری ہو جائیں گی، اور اگر زیادہ ہوں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ بہر حال! تین صفوں پر بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔

نماز جناہ کی دعا تکیں

اب کیا دعا میں پڑھی جائیں؟ تو ایک دعا تو وہی ہے جو بالغ مردو عورت کے لئے پڑھی جاتی ہے: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَسِينَا وَمَيِّتَنَا، وَشَاهِدَنَا وَغَائِبَنَا وَصَغِيرَنَا

وَكَبِيرَاً وَذَكِيرَاً وَأَنْشَائَاً، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنْ مَا فَاعَلَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنْ أَنْفَقْتُهُ عَلَى الْإِيمَانِ،“ اور بھی دعا کیں ہیں جو آگے آ رہی ہیں۔

٩٣٥:- عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلَّى رسول

الله صلَّى اللهُ عَلَى جَنَازَةِ فَحَفِظَتْ مِنْ دُعَائِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْجُهُ، وَعَافِهُ وَاغْفُ عَنْهُ، وَأَكِرْ مُنْزَلَهُ، وَوَسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالشَّلْجِ وَالبَرَدِ، وَنَقِّهُ مِنَ الْخَطَايا كَمَا نَقَّيْتَ التَّوْبَ الْأَبَيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدُلْهُ دَارَأَ خَيْرًا مِنْ دَارَةِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ“ حَتَّى تَمَتَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَّا ذِلَّكَ الْمَيِّتَ.

(رواۃ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو عبد الرحمن عوف بن مالک رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی، اس نماز میں نبی کریم صلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا نے جو عافر مائی وہ میں نے یاد کر لی۔ نبی کریم صلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا یہ دعا پڑھ رہے تھے: ترجمہ:- یا اللہ! تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، اور اس پر رحم فرما، اس کو عافیت عطا فرما، اس سے درگذر فرما، میزبانی میں اس کا کرام فرم، اس کی قبر کو شادہ فرم، اس کے گناہوں کو پانی سے اور برف سے اور اولوں سے دھو دے۔ اس کو گناہوں سے بالکل پاک کر دے، جیسے: سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، یہاں اس کا جو گھر تھا اس کے بدل میں اس سے اچھا گھر اس کو عطا فرما، اس کے گھروالوں سے اچھے گھروالے دے، اس کی بیوی سے اچھی بیوی دے، اس کو جنت میں داخل کر دے اور اس کو عذاب قبر اور جہنم سے بچائے رکھیو۔ حضرت عوف بن مالک رضي الله عنه (جو اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں) فرماتے ہیں کہ (جب نبی کریم صلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا کی یہ دعائیں نے سنی تو) میں دل میں تمذا کرنے لگا: کاش! اس میت کی جگہ پر میری میت ہوتی (تاکہ نبی کریم صلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا کی یہ دعا کیں مجھے نصیب ہوتیں)۔

افادات:- ”وَأَكْرِمْ نُزْلَةً“، کوئی مہمان جب کسی کے یہاں جاتا ہے تو شروع میں اس کے سامنے بطور اکرام کے جو کچھ پیش کیا جاتا ہے اس کو ”نُزْلَةٌ“ کہتے ہیں، گویا یہ عالمِ برزخ میں پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا جائے۔

”وَوِسِعْ مُدْخَلَةٍ“، ”مُدْخَلُ“ یعنی داخل ہونے کی جگہ، اس سے قبر مراد ہے۔

گنہگار کو چین نصیب نہیں ہوتا

”وَاغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ“ علامہ ابن قیم رضی اللہ عنہ نے لکھا ہے کہ: پانی کے ساتھ ”الثَّلْجُ“ برف، اور ”البَرَدِ“ اولوں کا تذکرہ کیا ہے، حالاں کہ کسی بھی گندگی اور میل کچیل کو دور کرنے کے لئے صرف پانی کافی ہے، لیکن گویا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بارش کے ساتھ آسمان سے جو اولے گرتے ہیں ان کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو جہاں اس کے قلب کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے، وہیں ایک طرح کی حرارت اور گناہ کی گرمی بھی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گنہگار کو بے چینی ہوتی ہے، گنہگار کو بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوتا، جب تک وہ توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لے وہاں تک یہ کیفیت دور نہیں ہوتی، اور وہی اس کو بے چین کئے رہتی ہے۔ تو یہاں برف اور اولوں کا تذکرہ کیا، گویا گناہوں کے نتیجہ میں جو حرارت اور بے چینی پیدا ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے۔

پہلی دعا کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لی جائے، اور اس دعا کو چھوڑ کر صرف یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دونوں دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

دیگر مختلف دعا نعمتیں

- وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي إِبْرَاهِيمَ الْأَشْهَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ -

وَأَبْوَهِ صَحَّابَيْ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَالَ: أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُنَّا وَمَيِّنَا، وَصَغِيرَنَا وَكَبِيرَنَا، وَذَرْرَنَا وَأُنْشَانَا، وَشَاهِدَنَا وَغَائِبَنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتُهُ مِنْتَ آفَأْخُصِّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّ فِيْتُهُ مِنْتَ آفَتُوْفِهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تُخْرِجْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُفْتَنْنَا بَعْدَهُ.

(رواہ الترمذی من روایة أبي هريرة والأشهلي. ورواه أبو داود من روایة أبي هريرة وأبي قتادة. قال الحاكم: ((Hadith Abu Herryah صحيح على شرط البخاري ومسلم)). قال الترمذی: ((قال البخاری: أصح روایات هذی الحدیث روایة الأشهلي. قال البخاری: وأصح شيء في هذی الباب حدیث عوف ابن مالک))

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو قتادہ اور ابو ابراہیم اشہلی اپنے والد سے جو صحابی تھے۔ نقل کرتے ہیں کہ میں کریم ﷺ نے ایک جنازہ کی نماز پڑھائی اور آپ نے یہ دعا فرمائی: اے اللہ! تو مغفرت فرمادے ہمارے زندوں کی، اور معاف فرمادے ہمارے مردوں کے گناہوں کو۔ ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کے گناہوں کو۔ ہمارے مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو۔ اور ہمارے جو موجود ہیں ان کو اور جو موجود نہیں ہیں ان کو۔ اے اللہ! تو ہم میں سے جس کو زندہ رکھئے اس کو اسلام پر زندہ رکھیو۔ اور ہم میں سے جس کو موت دے اس کو ایمان پر موت عطا فرمائیو۔ اے اللہ! اس کے مرنے پر ہم جو صبر کریں اس کے اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہ کیجو، اور اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں فتنہ میں نہ ڈالیو۔

افادات:- جتنے بھی ظاہری اعمال ہیں: نماز، روزہ، حج و غیرہ ان پر اسلام کا اطلاق ہوتا ہے، اور زندگی میں یہ سارے اعمال انجام دیئے جاتے ہیں، اس

لیے زندگی کے ساتھ لفظ اسلام کو جوڑا۔ اور موت کے وقت اعمال کرنے کا وقت باقی نہیں رہتا، ایمان ایسی چیز ہے جس کا تعلق دل کے یقین سے ہے، اس لیے یہاں ایمان کا تذکرہ کیا۔ اور اللہ کے مقبول بندے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے باعث فتنہ ہوتے ہیں، اس لیے اس دعا میں اس کو بھی شریک کر لیا ہے کہ اس کے بعد فتنہ میں بیتلانہ کرنا۔

۷: ۹۳۔ وَعَنْ أَبِي هَرِيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: إِذَا

صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ، فَأَخْلِصُوهُ الْدُّعَاءِ۔ (رواہ أبو داود)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رض عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب تم میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھو: تو سچے دل سے اس کے لئے دعا کرو (اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیتے ہیں)

۹۳۸۔ وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: أَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبضْتَ رُوحَهَا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، وَقَدْ جَنَّاكَ شُفَعَاءَ لَهُ، فَاغْفِرْ لَهُ۔ (رواہ أبو داود)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رض عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ کی نماز میں یہ دعا بھی پڑھی: اے اللہ! اس میت کا تو ہی رب اور پروردگار ہے، تو نے ہی اس کو پیدا کیا، اور تو نے ہی اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، تو نے ہی اس کی روح کو قبض کیا، تو اس کے چھپے اور کھلے گناہوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اے اللہ! ہم تیرے حضور میں اس کی سفارش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں؛ لہذا تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔

۹۳۹۔ وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْعَجِ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَارِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ

وَحَبْلٍ جَوَارِكَ، فَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَعَذَابَ النَّذَارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحُمْدِ،
اللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْجِعْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (رواہ آبوداؤد)

ترجمہ: - حضرت واٹلہ بن اسقون رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے ہم کو ایک مسلمان کی نماز جنازہ پر ہائی تو میں نے آپ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ! فلاں بن فلاں (یہاں مرنے والے کا نام لیا) تیرے حضور میں آیا ہے، ہم نے اسے تیرے عدو بیان میں دیا، اور ہم اسے تیرے حوالہ کرتے ہیں، الہذا تو اس کی قبر کے فتنہ اور جہنم کے عذاب سے حفاظت فرمائیو۔ اے اللہ! تو وعدہ کو پورا کرنے والا اور تعریف کے لائق ہے۔ اے اللہ! تو اس کو خش دے، اس پر رحم فرماء، بیشک تو ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔

۹۲۰ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما: أَنَّهُ كَبَرَ عَلَى جَنَازَةِ ابْنَةِ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ النَّتَّ كَبِيرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُو، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ هَذَنَا۔

وفی روایة: كَبَرَ أَرْبَعًا فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّى ظَنِنَتْ أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْسًا،
ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمَّا أَنْصَرَ فَقْلَالَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَزِيدُ كُلَّمَ عَلَى مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، أَوْ: هَذَا صَنْعُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(رواہ الحاکم، وقال: حدیث صحیح)

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن ابی اوی فی رضی اللہ عنہما نے اپنی ایک بیٹی کے جنازہ پر جو نماز پڑھائی اس میں چار تکبیریں کہیں، چوتھی تکبیر میں اتنی دیر کھڑے رہے جتنا دو تکبیروں کے درمیان میں کھڑے رہتے ہیں اور اس میں میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے، پھر فرمایا: نبی کریم ﷺ اسی طرح کرتے تھے۔

دوسری روایت میں ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد اتنی دیر کھڑے کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ

پانچویں تکبیر کہیں گے، لیکن پھر بغیر تکبیر کہے ہی سلام پھیر دیا۔ جب پیچھے مڑے تو ہم نے کہا: یہ کیا کیا؟ (یعنی چوتھی تکبیر کے بعد اتنا زیادہ توقف کیوں کیا؟) تو اس پر فرمایا: میں نے کچھ زیادہ نہ ہیں کیا، بلکہ جتنا نبی کریم ﷺ کو کرتے ہوئے دیکھا، ویسا ہی کیا۔

افادات:- اس سے یہ بتانا ہے کہ چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعا کر سکتے

ہیں۔

بَابُ الْأَسْرَاعِ بِالْجَنَازَةِ

جنازہ کو جلدی لے جانا

٩٣١:- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صاححة، فخير تقدموها إلينه، وإن تك سوءاً ذلها، فشرس تضعونه عن رقابكم. (متفق عليه)

وفي رواية لمسلم: ((فخير تقدموها عليه)).

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جنازہ کو جلدی سے لے چلو۔ اگر وہ نیک ہے تو ایک بھلانی کی چیز ہے جس کی طرف تم اس کو بڑھا رہے ہو، اور اگر وہ برا ہے تو ایک برا ای ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔

افادات:- جنازہ کو جلدی سے جلدی لے جانے کا حکم ہے، لیکن اتنی جلدی نہیں ہونی چاہیے کہ میت ملنے لگے، بلکہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایسی تیزی ہو کہ میت پرسکون رہے۔

اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکی کا بدلہ دلوانے کے لئے جلدی پہنچانا چاہیے۔ اور اگر وہ برا ہے تو پھر کیوں برائی کا بوجھا اپنے کندھوں پر اٹھائے رکھتے ہو، جتنا جلدی نیچے اتارو، اتنا اچھا ہے۔

٩٣٢:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: إِذَا وُضِعَتُ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمِلْهَا الْجَاءُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَالُوا:

قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحةٍ، قَالَتْ لِأَهْلِهَا: يَا وَيْلَهَا أَئِنْ تَذَهَّبُونَ إِلَيْهَا؟

يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا إِلَّا إِنْسَانٌ، وَلَوْ سَمِعَ إِلَّا إِنْسَانٌ لَصَعْقَةً۔ (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جب جنازہ لے جانے کے لئے رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ اپنے اٹھانے والوں سے کہتا ہے: مجھے جلدی سے آگے بڑھاؤ۔ اور اگر وہ نیک نہیں ہوتا تو اٹھانے والوں سے کہتا ہے: ہائے افسوس! تم مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ اس کی یہ پکار سوائے انسان کے ہر کوئی سنتا ہے۔ اگر انسان سن لے تو بیہوش ہو کر گر پڑے۔

افنادات:- ایمان بالغیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، محض مبین کریم ﷺ کے ارشاد پر ہم ان کو مانتے ہیں، ورنہ پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ پھر بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت کے واسطے کچھ چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں۔

بَاب تعجِيل قضاء الَّذِينَ عَنِ الْمِيتِ وَالْمُبَادرَة إِلَى تجهيزه إِلَّا أَن يَمُوت فجأة فَيَتَرَك حَتَّى يُتَيقَّنَ مَوْتُه میت کے قرض کی ادائیگی

اور اس کی تیاری میں جلدی کا اہتمام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بیماری اور موت سے متعلق احکامات کی تفصیل چل رہی ہے، اس سلسلہ میں عنوان قائم کیا ہے: مرنے والے کے ویتن یعنی قرض کی ادائیگی میں جلدی کی جائے۔ یعنی جس آدمی کا انتقال ہو گیا اس پر لوگوں کے جو حقوق ہیں، چاہے مالی ہوں یا جانی؛ ان کی ادائیگی اور معاف کرانے کے معاملہ میں عجلت سے کام لیا جائے۔ بلکہ اکابر کے یہاں توسیع رہا ہے کہ دفن کرنے سے پہلے ہی اس کی ادائیگی اور مطالبات کی معافی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ویسے شرعی طور پر بھی ذیون کی ادائیگی کو مقدم رکھا گیا ہے۔

وراثت کی تقسیم کے احکام پہلا حصہ

جهاں وراثت کی تقسیم کے احکام بیان کیے ہیں وہاں مرنے والا جو مال چھوڑ کر

جاتا ہے، اس میں فقہاء نے بالترتیب چار چیزیں لکھی ہیں:-

۱۔ اس کے چھوڑے ہوئے مال میں پہلا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تجویز و تکفین درمیانی طریقہ سے بغیر فضول خرچی اور بغیر بخل کے سنت کے مطابق کی جائے۔ یعنی اس کے غسل کا انتظام کیا جائے، کفن کا انتظام کیا جائے، جہاں بغیر پیسوں کے زمین میسر نہیں ہوتی وہاں پر قبر کے لیے اگر زمین خریدنا ضروری ہو تو وہ حسرہ یہی جائے؛ یہ تجویز و تکفین کہلاتی ہے۔

اب چھوڑے ہوئے مال سے مراد فقط نقد پیٹھیں ہیں، بلکہ جو کچھ بھی اس نے چھوڑا ہے، جیسے: مکان، دوکان، زمین، زیورات، مکان کا سامان وغیرہ، اور لوگوں سے جو قرض وصول کرنے ہیں، ان سب کو ”ترکہ“ کہتے ہیں۔ ”مَا تَرَكَ كُهُ الْمَيِّتُ“، مرنے والا موت کے وقت جتنی بھی چیزیں مال کے قبیل سے چھوڑ کر جائے؛ وہ ”ترکہ“ ہے۔

بعض غلط رواج

بعض چیزیں وہ ہیں جن کو لوگوں نے کفن کا حصہ سمجھ لیا ہے، لیکن شرعی طور پر وہ اس میں داخل نہیں ہیں، مثلاً: نہلانے کے لیے نیابرتن لانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، حالاں کہ یہ صحیح نہیں ہے، جو برتن موجود ہے اسی کو استعمال کیا جائے۔ یا بعض مرتبہ اس کے مرنے کے بعد تیجہ کیا جاتا ہے، اور زیارت کے نام سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے، وہ بھی مرنے والے کے مال میں سے کیا جاتا ہے؛ یہ بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ اگر ورثاء میں نابالغ موجود ہیں تو ان کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، اور اس صورت میں اگر اس مال میں سے کھانا پکا کیا گیا ہے تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ توبہ دعت ہے۔ یا بعض جگہ پر امام صاحب کے مصلیٰ کاررواج ہے کہ کفن کے علاوہ

زاں کپڑا لایا جاتا ہے جو نماز پڑھانے والے کے لیے مصلیٰ کے طور پر بچھایا جاتا ہے، اور وہ کپڑا پھر امام صاحب ہی کو دے دیا جاتا ہے؛ یہ بھی اس میں داخل نہیں ہے۔
 بہر حال! سنت کے مطابق جو کفن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تین اور عورتوں کے لیے پانچ، درمیانی قسم کے ایسے کپڑے خریدے جائیں جو وہ اپنی زندگی میں پہنچتا تھا، اور غسل کے لیے پانی اور پانی گرم کرنے وغیرہ کا سارا خرچہ اس میں سے دیا جائے گا۔

دوسری حق

۲) نمبر دو پر یہ ہے کہ اس کے قرضہ کو ادا کیا جائے، جب تک اس کے مال میں سے اس کے تمام قرضے ادا نہیں کئے جائیں گے وہاں تک اس کے ورثاء کو اس کے مال میں سے ایک پانی بھی لینا جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے وہاں تک ورثاء کا حق لگتا ہی نہیں ہے۔

ہمارے معاشرہ و سماج میں عام طور پر رواج یہ ہے کہ ورثاء مال لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ادا کر دیں گے۔ حالاں کہ قرض خواہوں کو حق ہے کہ اس کی زمین و مکان اور جو کچھ ہے اس کو فیچ کر کے بھی اپنا قرضہ وصول کریں، ان کی رضامندی کے بغیر ورثاء کا مکان و دوکان اور مال لے کر بیٹھ جانا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس نے جتنی بھی چیزیں چھوڑ دیں ان میں سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، اگر وہ اتنا مال چھوڑ کر مرا ہے اس کے باوجود ورثاء ادا نہیں کریں گے؛ تو ورثاء ذمہ دار ہیں اور وہ حق مارنے والے کھلا میں گے۔ اس باب میں اسی کو بتاتے ہیں کہ مرنے والے کی طرف سے اس کا

قرضہ اور اس کے اوپر جو مطالبے ہیں ان کو ادا کرنے میں جلدی کی جائے۔

چنانچہ آپ ﷺ کے یہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی جنازہ لا یا جاتا تھا تو دریافت فرماتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ اگر بتلا یا جاتا کہ ہے، تو آپ ﷺ دریافت فرماتے کہ اس کی ادا یعنیگی کے لیے مال چھوڑا ہے؟ اگر بتلا یا جاتا کہ بھی ہاں! چھوڑا ہے، تب تو حضور اکرم ﷺ اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے۔ اور اگر جواب میں یہ بتلا یا جاتا کہ قرضہ کی ادا یعنیگی کے لئے مال نہیں چھوڑا ہے تو نبی کریم ﷺ فرماتے تھے کہ تم لوگ نماز پڑھو۔ اس کی نماز جنازہ آپ ﷺ ادا نہیں فرماتے۔ لیکن یہ معمول شروع زمانہ میں تھا، بعد میں جب فتوحات کا سلسلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو بھی مال کی فراوانی عطا فرمائی تو اگر کوئی ایسا ہوتا جس نے قرضہ کی ادا یعنیگی کے لئے مال نہ چھوڑا ہوتا، تو نبی کریم ﷺ اپنی طرف سے اس کا قرضہ ادا فرماتے اور نماز پڑھاتے تھے۔ یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دیکھتے کہ یہ آدمی اپنے قرضہ کی وجہ سے نبی کریم ﷺ کی نماز سے محروم ہو رہا ہے، تو مجمع میں سے کوئی کہتا کہ اللہ کے رسول! میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں؛ تب نبی کریم ﷺ اس کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کتنی اہم چیز ہے کہ اس قرضہ کی وجہ سے جس کی ادا یعنیگی کے لیے اس نے مال نہ چھوڑا ہوتا تو نبی کریم ﷺ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ بڑی اہم چیز ہے، لیکن ہمارے سماج میں اس کی طرف سے بڑی غفلت والا پروایتی برقراری جاتی ہے۔

آج کل لوگوں کا مزاج ایسا بن گیا ہے کہ مال ہوتا ہے، پھر بھی قرضہ ادا نہیں کرتے۔ پیسوں کے ہوتے ہوئے قرضوں کی ادا یعنیگی میں تاخیر شرعاً پسندیدہ نہیں ہے، اگر قرضہ کی ادا یعنیگی کے لئے پیسے ہیں؛ تو اولین وہله میں قرضہ ادا کرو۔ ہوتا یہ ہے کہ

پسیے ہیں اور ان کو غیر ضروری کاموں میں خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں اور قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں۔ ایسے آدمی کی دعوت کھانے کو بھی فقہاء نے مکروہ لکھا ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا نہیں کرتا اور دعوتیں کر رہا ہے تو اس کی دعوت میں شریک نہ ہوا جائے۔

ارواحِ ثلاشہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت نواب قطب الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ہیں، حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں بھی تھے، ایک مرتبہ انہوں نے دعوت کی، تو حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا کہ میں تمہاری دعوت میں نہیں آؤں گا۔ نواب صاحب بھی بڑے بزرگ اور اللہ کے مقبول بندے تھے۔ انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ دیکھیے! میں نے آپ کی دعوت کی، تو آپ نے قبول فرمائی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی۔ حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا: بھائی مظفر حسین! کیا بات ہے؟ کیا تمہیں تقویٰ کا ہے یہضہ ہو گیا ہے؟ کیا تمہیں نواب صاحب کی کمائی میں کوئی شبہ ہے؟ کیوں ان کی دعوت میں نہیں جاتے؟ مفتی صاحب نے فرمایا: نہیں حضرت! ان کی کمائی میں بالکل شبہ نہیں ہے، لیکن وہ مقروض ہیں، اور ہیں تو نواب؛ اگرچہ بگڑے ہوئے ہیں (مطلوب یہ کہ دیندار بن گئے ہیں اور سدھر گئے ہیں، لیکن دیندار لوگ ان کو بگڑا ہوا کہتے ہیں) جب نواب ہیں تو دعوت میں تکلفات کریں گے، تو اتنا پیسہ جو وہ دعوت میں لگا رہے ہیں اگر وہ قرضہ ادا کرنے میں لگا میں؛ تو یہ زیادہ ضروری ہے۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے فرمایا: ہاں بھائی! بات تو ٹھیک ہے، میں بھی نہیں جاؤں گا۔ کہاں تو ڈانت رہے تھے، اور اب خود ہی جانے سے انکار کر دیا۔

تو میں تو یہ مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ لوگوں

کے قرضہ باقی ہیں، بے چارہ قرض خواہ پریشان ہے، اس کا مطالبہ ہے اور اس سے وعدے ہو رہے ہیں۔

دین اور قرض میں فرق

ویسے شریعت کی اصطلاح میں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ”دین“، کہلاتا ہے اور دوسرا ”قرض“، کہلاتا ہے، قرض بھی دین ہی کی ایک قسم ہے۔ لیکن قرض کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کے پاس سے نقدر قلم لی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے آپ کو ایک سال کی بھی مہلت دی ہو کہ ایک سال کے بعد ادا کرنا، لیکن وہ دوسرے دن آکر بیوں کہے کہ میرے پیسے دیدو، تو دینے پڑیں گے۔ مسئلہ یہی ہے۔ قرض میں قرض خواہ نے آپ کو جو مہلت دی گئی ہے، اس مہلت سے پہلے بھی اگر وہ مطالبہ کرنا چاہے؛ تو اس کو شرعاً حق ہے۔

ہاں! اگر آپ نے کسی سے کوئی مال خریدا، اور اس میں وعدہ کیا کہ میں اس کی قیمت دو مہینے بعد ادا کروں گا، تو دو مہینے سے پہلے اس کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ وقت سے پہلے مطالبہ کرتے تو آپ انکار کر سکتے ہیں کہ میں ابھی نہیں دوں گا، دو مہینہ کے بعد دوں گا۔ لیکن اگر نقدر قلم لی ہے اور اس میں چاہے دو مہینہ کا وعدہ ہو، لیکن اگر دو دن کے بعد آ کر مانگ تو مسئلہ کی رو سے وہ مانگ سکتا ہے۔

مقرض کو جنت میں داخل نہیں ملتا

لیکن عام طور پر ہمارے یہاں نقدر قمou کے قرضوں کی ہی باتیں چلتی ہیں کہ لوگوں سے قرضے لیے ہوئے ہیں اور ان سے وعدے بھی کئے ہوئے ہیں، اور بیچارے قرض خواہ وعدے کے مطابق صبر بھی کرتے ہیں، اور جب وعدہ کا وقت آتا ہے

تو وہ بیچارہ پہلے تو ایک مدت تک انتظار میں رہتا ہے کہ اب آئے گا، آج آئے گا، ایک دو مہینے تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، جب وہ نہیں آتا تو قرض خواہ بیچارہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے، تب بھی نہیں دیتا اور بڑے ڈھڑٹے سے جواب دیتا ہے کہ دیں گے، کھانہ بیس گئے! اور دوسری طرف منگنی کی دعوتیں ہو رہی ہیں اور بیٹیوں کی شادی بیاہ میں لین دین وغیرہ کی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اور دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح پر جا رہے ہیں، لیکن قرضہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ جب آپ نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا تو آپ کے مرنے کے بعد اولاد کیا ادا کرے گی؟ اور یاد رکھیے کہ اگر اسی طرح قرضہ چھوڑ کر جائیں گے تو جب تک یہ قرضہ باقی رہے گا اس کے لیے حضور اکرم ﷺ کی طرف سے یہ وعدہ سنائی گئی کہ اسے جنت میں داخل نہیں ملتا۔

مَذْكُونُ شَهِيدٌ

ایک آدمی اللہ کے راستہ میں شہید ہوا، تو شہادت کے متعلق حدیث پاک میں یہ فضیلت آئی ہے کہ شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؛ سوائے دَمْنَ کے۔ اگر دَمْنَ ہے تو اس کی روح کو بھی جنت سے روک دیا جاتا ہے، اس کو داخل نہیں ملتا۔ اتنی سخت وعدہ ہے۔

اس لیے بھائیو! اپنی زندگی میں اپنے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارے مرنے کے بعد ورثاء ادا کر دیں گے۔ جب آپ کے پاس مال موجود ہے تو اس کو خرچ کر ڈالو۔ اگر کوئی پلاٹ ہے تو پیچ ڈالو اور قرضہ ادا کر دو۔ آپ کے مرنے کے بعد ورثاء یہ پلاٹ تقسیم کر کے بیٹھ جائیں گے، کوئی بھی آپ کا قرضہ ادا کرنے کی فکر نہیں کرے گا، اگرچہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس کے باوجود پہلے ذمہ داری تو آپ

ہی کی ہے۔ اس لیے قرضوں کی ادائیگی کا اہتمام ہونا چاہیے اور قرضوں کی ادائیگی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس پر بڑی سخت وعید یہ ہے۔

رات کا غم، دن کی شرم

اور ویسے بھی بلا ضرورت قرض لینے کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ آج کل ایک مزاج یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی بلا وجہ قرضے لئے جا رہے ہیں۔ حالاں کہ یہ بھی صحیح بات نہیں ہے۔ حضرات محدثین تو حدیث کی کتابوں میں قرضہ لینا جائز ہونا بتلانے کے لیے باقاعدہ باب قائم کرتے ہیں، کیوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے جواز میں شبہ ہو سکتا تھا، تو محدثین باب قائم کر کے بتادیتے ہیں کہ ضرورت کے وقت لے سکتے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قرضہ رات کا غم اور دن کی شرم ہے (رواہ الدبلیمی عن عائشہ مرفوعاً. السلسلة الضعيفة للالبانی. وقال: ضعیف جداً) قرضہ کی وجہ سے آدمی مارے شرم کے دن میں گھر سے نہیں نکلتا اور غم کی وجہ سے رات بھرنی نہیں آتی۔

تو میں یہ بتلارہا تھا کہ مرنے والے نے جو مال چھوڑا ہے اس میں وارثوں کا حق لگتا ہی نہیں جب تک کہ قرضہ ادا نہ کیا جائے، اس لیے مرنے والے کے فترضہ کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ اب مان لیجیے کہ اس کا قرضہ پندرہ لاکھ ہے اور مرنے والے نے جو بینگلہ اور زمین وغیرہ چھوڑی ہے، وہ سب ملا کر کل بارہ لاکھ ہوتے ہیں، تو اس بینگلے وغیرہ میں کسی بھی وارث کا کوئی حق نہیں لگے گا، بلکہ سب رقم قرضہ کی ادائیگی میں دیدی جائے گی۔ اب ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں! اگر ورثاء قرض خواہوں کو راضی کر لیں، ان سے بات کریں کہ: بھائی! ہم اس مکان میں رہتے ہیں، یہ ہمارے پاس رہنے دیا جائے، اور ہم آپ کا قرضہ اتنی مدت میں ادا کر دیں گے، اور قرض خواہ

منظور کر لیں؛ تب تو گنجائش ہے۔ لیکن ان کی منظوری اور ان کو راضی کرنے بغیر اس میں رہنا درست نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی کے یہاں باقاعدہ دعویٰ کر کے اس گھر کو خالی کرو اور قرض خواہ اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہیں۔

تیسرا حق

﴿۳﴾ میت نے جو وصیت کی اگر وہ شریعت کے مطابق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ۱۔ تہائی مال یا اس سے کم کی ہو، ۲۔ کسی جائز چیز کی وصیت کی ہو، ۳۔ وارث کے حق میں وصیت نہ کی ہو؛ ان تین شرطوں کے ساتھ جو وصیت کی گئی ہو وہ پوری کی جائے۔

چوتھا حق

﴿۴﴾ اس کے بعد ہر ایک وارث کا جو حصہ شریعت نے رکھا ہے اس کے مطابق وارثوں کے درمیان تقسیم کیا جائے۔ گویا وارثوں کا حق چوتھے نمبر پر آتا ہے اور ہمارے سماج میں وہ پہلے ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام

تو اس باب میں ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ میت کی طرف سے قرضہ کی ادائیگی کا خاص اہتمام کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی کہ مرنے والے کی موت کے فوراً بعد اس کو تیار کرنے میں جلدی کی جائے یعنی غسل دے کر جلدی سے جلدی کفن پہنانا یا جائے، قبر کھود کر دفن کرنے میں جلدی کی جائے، بلا وجہ دیر نہ کی جائے۔

البتہ اچانک موت آجائے تو جب تک موت کا لیقین نہ ہو وہاں تک غسل نہ دیا جائے۔ طبیب اور ڈاکٹروں سے معلوم کر کے یہ لیقین حاصل کر لینا تو ضروری ہے کہ انتقال

ہو گیا ہے، جب موت کا لقین ہو جائے تو پھر اس کی تجهیز و تکفین میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ موت کا لقین ضروری ہے کیوں کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں آدمی بے ہوش پڑا ہوتا ہے، جیسے: ایک بیماری سکتہ (Coma) ہوتی ہے، اگر کسی کو سکتہ (Coma) طاری ہو جاتا ہے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے انتقال ہو گیا ہو، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اور بعض مرتبہ لوگ مردہ سمجھ کر غسل دے کر دفن کر دیتے ہیں۔

مردہ سمجھ کر دفن کر دیتے گئے مفسر

فوانی الفواد میں شیخ نظام الدین بُشْتی^{لیلیٰ} کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ بیمار ہوئے، ان پر سکتہ طاری ہوا، لوگوں نے مردہ سمجھ کر غسل دے کر دفن کر دیا۔ قبر میں ان کو ہوش آیا اور محسوس کیا کہ مجھے لوگوں نے قبر میں رکھ دیا ہے، ایک دم مضطرب و پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں۔ ان کو یاد آیا کہ چالیس مرتبہ سورہ یس پڑھنے سے پریشانی اور اضطراب دور ہوتا ہے، تو انہوں نے سورہ یس پڑھنی شروع کی، انتا یسوسیں مرتبہ جب پڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی قبر کھود رہا ہے، تو انہوں نے پڑھنا جاری ہی رکھا، لیکن آواز پست کر دی، اور چالیس مرتبہ آہستہ پڑھا، تاکہ وہ آواز سن کر بھاگ نہ جائے۔ دراصل ایک کفن چور آیا اور اس نے قبر کھودنی شروع کی، یہاں تک کہ جب قبر کھل گئی تو وہ اپنے کفن کے ساتھ باہر نکل آئے، اس کفن چور نے جب دیکھا کہ مردہ بیٹھ گیا تو مارے ہیبت کے وہ مر گیا۔ دن کا وقت تھا انہوں نے سوچا کہ اگر میں اسی وقت بستی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے دیکھ کر وحشت زدہ ہوں گے، اس لیے قبرستان ہی میں ٹھہرے رہے، جب رات ہوئی تو محلے میں سے اپنے نام کی آواز دیتے ہوئے گزرے کہ میں فلاں ہوں، مجھے مردہ سمجھ کر لوگوں نے دفن کر دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ

نے مجھے قبر سے نکلا یا۔ اس طرح اعلان کرتے ہوئے اپنے گھر پہنچے۔ اس کے بعد تو اتنا زندہ رہے کہ قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی۔

نمازِ جنازہ میں بلا وجہ تاخیر نہ ہو

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اتنا یقین کر لینا چاہیے کہ موت ہو چکی ہے یا نہیں، تاکہ غلط فہمی میں کہیں مردہ سمجھ کر دفن نہ کر دیا جائے۔ اور جب موت کا یقین ہو جائے تو تجھیز و تکفین میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بس! صرف اتنی مہلت دی جائے کہ غسل دے کر اس کو تیار کر دیا جائے ادھر قبر تیار ہو جائے۔ اور گز ششیہ مجلس میں بھی بتلا چکا ہوں کہ اگر کسی کا انتقال جمعہ کے دن صحیح ہو گیا اور قبر وغیرہ کا انتظام بھی ہو چکا تو پھر محض اس لیے جمعہ کی نماز تک مؤخر نہ کیا جائے کہ جمعہ کے اندر لوگ زیادہ آتے ہیں تو جنازہ کی نماز میں بھی لوگ زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کو فتحاء نے مکروہ لکھا ہے۔

مؤمن کی جان اپنے قرضہ میں لٹکی رہتی ہے

٩٣: - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ

مُعَلَّقَةٌ بِلَدِيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. (رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مؤمن کی جان اپنے قرضہ میں لٹکی اور رُکی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادا نیگی کر دی جائے۔

افادات:- دوسری حدیثوں میں اس کی تصریح موجود ہے کہ اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملتا، جب تک کہ اس کا ذمین ادا نہ کر دیا جائے۔ اس لیے ذمین کی ادا نیگی میں تاخیر نہ کی جائے، مرنے والے کو دفن کرنے سے پہلے یہ سب صاف کر لیا جائے۔

ہمارے حضرت مفتی صاحب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے تھے کہ: میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا اور نماز کے واسطہ جنازہ لا یا گیا، تو نماز سے پہلے میں نے دو تین مرتبہ اعلان کیا کہ: اگر میرے والد صاحب پر کسی کا کوئی مطالبہ ہو تو وہ کہے: میں ابھی ادا کر دوں۔ جب کہا گیا کہ کسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے تو حضرت نے نماز پڑھائی۔
ہمارے اکابر کے یہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ.....

۹۲۸:- وَعَنْ حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَاجَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ مَصَانِعَهُ يَعْوُدُهُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا أَرِي طَلْحَةً إِلَّا قُدُّحَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ، فَأَذِنُوْنِي بِهِ، وَعَجَّلُوْنِي بِهِ، فَإِذْهُ لَا يَنْبَغِي لِحِيفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُخْبَسَ بَيْنَ طَهْرَانِ أَهْلِهِ۔ (رواہ أبو داود)

ترجمہ: - حضرت حُصَيْنِ بْنِ وَحْوَاجَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ بن براء بن عازب رضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بیمار ہوئے تو میں کریم مَصَانِعَهُ ان کی خبر گیری کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا: میں محسوس کر رہا ہوں کہ طلحہ کے اندر موت کے آثار نمودار ہو چکے ہیں (یعنی اب وہ زندہ نہیں رہیں گے) جب ان کا انتقال ہو جائے تو مجھ کو اطلاع دینا، اور ان کو دفن کرنے میں جلدی کرنا، اس لیے کہ مسلمان کی لاش کے لیے مناسب نہیں ہے کہ گھروں کے درمیان روک کر کھی جائے۔

افنادات: - معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد اس کے دفن میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جتنا جلدی ہو سکے اس کا انتظام کرنا چاہیے۔

بَابُ الْمَوْعِظَةِ عِنْدَ الْقَبْرِ

قبر کے پاس وعظ و نصیحت کرنا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

و یے تو جہاں موقعہ ہو نصیحت کی جاسکتی ہے، نبی کریم ﷺ ایک مرتبہ ایک جنازہ کی تدفین میں گئے، ابھی قبر پوری طرح تیار نہیں ہوئی تھی، کھودی جاری تھی، نبی کریم ﷺ نے دیکھا کہ ابھی دیر ہے، اس موقعہ پر آپ نے نصیحت فرمائی۔

٩٢٥:- عن علی بن ابی ذئب قال: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ، وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مُخْصَرٌ، فَنَكَّسَ وَجَعَلَ يَنْكُثُ بِمُخْصَرِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعُدُهُ مِنَ النَّارِ وَمَقْعُدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَفَلَا نَتَكَلَّ عَلَى كِتَابِنَا؟ فَقَالَ: أَعْمَلُوا؛ فَكُلُّ مُيَسِّرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ... وَذَرُّ كِتَابَنِي، (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت علی بن ابی ذئبؓ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جنت ابیقیع میں ایک جنازہ میں شریک تھے، نبی کریم ﷺ تشریف لائے اور بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ آپ ﷺ کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ نے اپنا سر جھکا دیا اور اس لکڑی کے ذریعہ میں کو کریدنے لگے۔ اس کے بعد نبی کریم ﷺ نے بطور نصیحت ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک کے لیے اس کا جو ٹھکانہ جنت میں ہے اور جو ٹھکانہ جہنم میں ہے؛ وہ لکھ دیا گیا ہے (یعنی اگر وہ جہنمی

ہے تو جہنم کاٹھکانہ، اور اگر جنت ہے تو جنت کاٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے) حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہماری تقدیر کی اس تحریر اور نوشتہ پر ہم بھروسہ نہ کر لیں؟ حضور اکرم ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: عمل کرتے رہو، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کام آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

افتادات:- فقهاء نے لکھا ہے کہ قبرستان پہنچ کر جنازہ کو جب کندھوں سے اتار دیا جائے تو قبرستان میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، تدفین کے انتظار میں کھڑا رہنا ہی ضروری نہیں ہے، جیسے قبر نہیں کھدی ہے، یا قبر تو کھد چکی ہے، اور میت کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اتنی دیر تک کوئی آدمی بیٹھے تو اس کی اجازت ہے۔ ہاں! جب تک جنازہ کندھوں پر سے اتارا نہ گیا ہو؛ وہاں تک بیٹھا نہ جائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سوال

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جس کو جنت ملتی ہے اس کے لئے جنت بھی لکھی جا چکی ہے اور جس کو جہنم ملتی ہے وہ بھی لکھی جا چکی؛ تو اس کی تکلیف میں کیوں پڑیں؟ کیوں اٹھائی جائے؟ جو ملنا طے ہے وہ ملنا ہی ہے؛ پھر عمل کی تکلیف میں کیوں پڑیں؟ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رضی اللہ عنہ نے ترجمان السنہ میں لکھا ہے کہ یہاں تقدیر کا سئلہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرات صحابہ کو یہاں (نعموز باللہ) اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کے بارے نہیں، بلکہ اپنے عمل کے معاملہ میں اشکال ہوا، اس لیے انہوں نے سوال یہ کیا کہ: اے اللہ کے رسول! جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا جنت میں جانا اور جہنمی کا جہنم میں جانا طے کیا جا چکا ہے؛ تو اعمال سے کیا حاصل ہوگا؟ ہم اعمال کی محنت میں کیوں پڑیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا تھا: ”عمل کی زحمت اور مشقت میں ہم

کیوں پڑیں؟“ اس لیے کہ عمل تو مشقت کا کام ہے نا! نماز میں پڑھنا، روزے رکھنا، دین کے اور کام انجام دینا۔ تو ہم ان ساری مشقتوں میں کیوں پڑیں؟ اسی نوشۃِ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں؟ تو حضور اکرم ﷺ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ: ”یہ مشقت کی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو لکھا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی کام آسان کر دیا گیا ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ تم بیٹھنا چاہو گے تب بھی نہیں بیٹھ سکو گے، ہر آدمی وہی کام کرے گا جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیئے جائیں گے، اور وہ اپنے شوق اور رغبت سے انہی اعمال کو انجام دے گا، اس کے لیے وہ زحمت کی چیز نہیں ہوگی۔ اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم مقدر فرمائی ہے تو وہ جہنم والے اعمال کو انجام دے گا، اس میں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، بظاہر جن کے لیے خیر کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر موت نصیب فرماتے ہیں؛ ان کے لیے نمازوں کا پڑھنا آسان ہوتا ہے، بلکہ جہاں نماز کا وقت آیا اور اذان کی آواز سنی تو ان کو چین، ہی نہیں پڑھتا جب تک کہ نمازنہ پڑھ لیں۔ جب تک کہ مسجد نہ جائیں اور نمازانہ پڑھ لیں وہاں تک کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کے ساتھ بات کرنا بھی بوجھ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح جتنے بھی خیر کے اعمال ہیں ان کو انجام دینے میں ان کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی، بلکہ اس عمل کے لیے اس کی طبیعت بے چین اور بے گل رہتی ہے، جب تک اس عمل سے فارغ نہ ہو جائیں وہاں تک ان کو سکون نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس عمل کو اتنا آسان کر دیا۔ اور اگر ان سے یہ کہا جائے کہ ایک گھونٹ شراب پی لو، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ مرننا تو گوارا کر لیں گے لیکن ایک گھونٹ حلق سے یੱپے اترنا ان کے

لیے گوارا نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے کہ مجھے مارڈ الیکن شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ ان میں سے کسی سے کہو کہ یہ چھری کسی کی پاؤں میں گھونپ دو، اور مارنا نہیں ہے، بلکہ بس! ذرا ساز خمی کرنا ہے، تو وہ کہے گا کہ اس کی کیا بات کرتے ہو، میں تو ایک گالی بھی نہیں بول سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے وہ اتنا ڈرتے ہیں کہ ان کی طبیعت اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتی، اگر ان کو جان کی دھمکی دیدی جائے تو بھی وہ گناہ نہیں کریں گے، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا کیا! کسی کو گالی دینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ انہیں کاموں میں لگے ہوئے ہیں جن کے لیے دوسری چیز مقدر ہے، ان کے لیے کسی کو قتل کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، شراب پینا بہت آسان ہے، وہ لوگ تو اسی میں لگے لپٹ رہتے ہیں۔ ان کے لیے زنا کرنا اور کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سارے گناہ کے کام ان کے لیے بالکل آسان ہیں، اب اگر انہیں کے پاس جا کر کہیں کہ ذرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو؛ تو دیکھو کیا ہوتا ہے؟ حالاں کہ سبحان اللہ زبان سے کہا جاتا ہے، اور بڑا آسان عمل ہے، لیکن آپ اس کے پاس یہ کلمہ پڑھوا لیجئے، سبحان اللہ کھلوا لیجئے؟ نہیں کہے گا۔ اعذار کرتا رہے گا، لیکن کہہ کر نہیں دے گا۔ اس کے لیے کسی کو قتل کر دینا آسان ہے۔

تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم ﷺ کے جواب کا حاصل یہی ہے کہ عمل کرتے رہو، تمہاری تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ تو تمہیں معلوم نہیں۔ فیصلہ تو ہو چکا ہے لیکن ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، اس لیے ہمیں تو عمل کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک کے لیے وہی عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جنت والے اعمال اس کے لیے آسان ہیں اور وہ بڑی رغبت اور بڑے شوق سے ان کو انجام دیتا ہے۔ اور اگر جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو

جہنم والے اعمال اس کے لیے آسان کر دیئے جاتے ہیں۔ اس لیے تم لوگ جو کہہ رہے ہو کہ عمل کی مشقت میں کیوں پڑیں؟ نوشۂ تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھنے رہیں؟ تو سن لو کہ یہ مشقت کی چیز ہے، ہی نہیں۔ وہ تو آٹو میلک چیز ہے جو چلتی رہے گی، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہوا ہے۔

بَاب الدُّعَاء لِلْمَيِّتِ بَعْدِ دُفْنِهِ وَالْقَوْدُ عِنْدَ قَبْرِهِ

سَاعَة لِلْدُعَاء لِهِ وَالْاسْتغْفَارُ وَالقراءة

میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا، قبر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر دعا کرنا، اس کے لیے مغفرت طلب کرنا اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرنا

إِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٩٣٦:- وعن أبي عمرو -وقيل: أبو عبد الله، وقيل: أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الآن يُسْأَلُ۔ (رواہ أبو داود)

ترجمہ:- حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ میت کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد وہاں ٹھہرتے تھے، اور فرماتے تھے: اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی مانگو، اس لیے کہ اس وقت اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔

افرادات:- ”ثابت قدمی“ کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کو دن کر دیا گیا تو اس کے پاس منکر اور نکیر دو فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، اس وقت وہ مضبوطی سے جمار ہے اس کی دعا کرو۔ جیسے کوئی آدمی کورٹ میں جاتا ہے تو کہہ کر جاتا

ہے کہ بھائی! ہمارے لیے دعا کرنا کہ معاملہ ٹھیک ہو۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ ہمیں تاکید فرمائے ہیں کہ وہاں اس سے سوالات کا معاملہ چل رہا ہے، اس لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھے، اور اس سے صحیح جوابات دلوائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تدفین کے بعد وہاں ٹھہر کر اس کے لیے دعائے مغفرت اور تسلیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے اس وقت کی دعاؤں میں یہ دعا بھی کی جاتی ہے: ”اللَّهُمَّ ثِبْتُهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ“ اے اللہ! قول ثابت یعنی کلمہ طیبہ کے ذریعہ اس کو استقامت عطا فرم۔

جب فن کر چکو تو اتنی دیر قبر کے پاس ٹھہرنا

۷: ۹۲:- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِذَا دَفَنْتُمُونِي، فَأَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُحِبُّ حَزْوَرٌ، وَيُقْسِمَ لَهُمَا حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَعْلَمَ مَاذَا أَرَى جَعْ بِكِ رَسُلَ رَبِّي۔ (رواہ مسلم، وقل سبق بطولہ)۔
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ: وَيُسْتَحْبَتْ أَنْ يُقْرَأَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ خَتَمُوا الْقُرْآنَ عِنْدَهُ كَانَ حَسَنًا۔

ترجمہ:- حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ (کا جب انتقال ہونے لگا توفقات سے پہلے انہوں) نے وصیت فرمائی تھی کہ جب تم لوگ مجھے فن کر چکو تو میری قبر کے پاس اتنی دیر ٹھہرے رہنا جس میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشہ تقسیم کر دیا جائے، تاکہ میں تم سے اس حاصل کروں، اور میں جان لوں کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوؤں کو میں کیا جواب دیتا ہوں۔

امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: تدفین کے بعد وہاں ٹھہر کر قرآن پڑھنا پسندیدہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی خود وہاں ٹھہر کر ایک قرآن پورا کرنے کا اہتمام کر لے تو بہت ہی اچھا ہے۔

افادات:- بیس، پچیس منٹ یا آدھا گھنٹہ وہاں ٹھہرنا چاہیے، اس لیے کہ زندوں کا وہاں ٹھہر کر دعا وذ کراو تلاوت کی وجہ سے مردہ کو انس حاصل ہوتا ہے، حالانکہ وہ قبر میں اکیلا ہوتا ہے، لیکن لوگ باہر کھڑے رہ کر دعا کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کو ایک طرح کی انسیت حاصل ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ تدفین کے بعد لوگوں کو اور خاص کر کے رشته داروں کو چاہیے کہ وہاں ٹھہر کر دعا وذ کراو تلاوت کا اہتمام کریں، اس کی وجہ سے مردے کو جوابات دینے میں تقویت ملتی ہے اور مرد حاصل ہوتی ہے۔

قرآن پاک کے ختم کی جوبات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پیسے دے کر قرآن پڑھنے کے لیے بھایا جائے، بلکہ رشته دار اور حباب خود پڑھیں۔ اگر پیسے دے کر قرآن پاک پڑھائیں گے تو علامہ شامی رض نے لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی پیسے لے کر پڑھے گا تو خود اس کو ہی ثواب نہیں ملے گا۔ جب اس کو ہی نہیں ملے گا تو وہ کیا دے گا؟ جیسے: گجراتی میں کہاوت ہے:- ”આ ની માત્ર આવતું ના માત્ર વાનું“، جب اسی کو ثواب نہیں ملاتا وہ بخشنے گا کیا؟ جب آپ پڑھیں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا، وہی ثواب آپ بخشنے ہیں۔ گویا آپ نے کچھ کمایا تو اسی کو آپ اپنے کھاتے میں سے اس کے کھاتے میں ٹرانسفر(Transfer) کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہی کی کمائی نہیں ہوئی اور آپ کے کھاتے میں ہی جمع نہیں ہوا تو آپ کیا ٹرانسفر(Transfer) کریں گے؟ معلوم ہوا کہ جو آدمی پیسے لے کر قرآن پڑھتا ہے اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔

بَاب الصَّدْقَةِ عَنِ الْمَيْتِ وَالدُّعَاءُ لَهُ

میت کی طرف سے صدقہ

اور اس کے لیے دعا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بیماری اور موت سے متعلق احکام و آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک اور باب قائم کیا ہے کہ مر نے والے کی طرف سے صدقہ کرنا اور اس کے لیے مغفرت اور رفع درجات کی دعا کرنا؛ ان دونوں چیزوں کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔

چنان چاہیک آیت کریمہ لائے ہیں: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلَا خُواِنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا إِلَيْهِمَا﴾ (یہ سورہ حشر کی ایک آیت کا حصہ ہے، اس سے پہلے مہاجرین اور انصار کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بعد باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ) وہ لوگ جوان (یعنی مہاجرین و انصار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم السَّلَامُ وَآلِہٖ وَسَلَّمُ) کے بعد آئے ان کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دعاویں میں باری تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ: اے اللہ! تو ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمادے اور ہم سے پہلے جو ایمان لائے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمادے۔ یہاں تو یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دعاویں میں ایک وظیفہ یہ بھی تھا کہ جو مسلمان ان

سے پہلے دنیا سے جا چکے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اس سے مرنے والے کے لیے دعا کا ثبوت ہو گیا۔

یہاں انہوں نے صدقہ کا عنوان قائم کیا ہے۔ تو یہ مسئلہ اہل سنت کے بیہاں مسلم ہے کہ کسی عبادت کا ثواب اگر کوئی آدمی میت کو پہنچانا چاہے، تو پہنچا سکتا ہے۔ اور اس میں جو مالی عبادت ہے یعنی صدقہ وغیرہ؛ تو اس کے ثواب کے متعلق تو تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، احناف، شافعی سب کے نزد یہ کم مالی عبادت کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ البتہ اہل اسلام میں ایک جماعت معتزلہ کی گزری ہے، وہ اس بات کے قائل تھے کہ کسی کے عمل کا ثواب دوسرا کو نہیں ملا کرتا، اور وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿وَأَنَّ لَيْسَ لِإِلَٰهٖ إِلَّا مَا سَعَى﴾ آدمی جو کچھ محنت کرتا ہے وہی اس کو ملتا ہے۔ اس آیت کے متعلق اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق سعی ایمانی سے ہے۔

مفتي صاحب کا ایک آیت کا مطلب سمجھنے کے لیے

دیوبند سے گنگوہ کارات میں پیدل سفر

ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک قصہ بیان کرتے تھے کہ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دیوبندی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جودار العلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مفتی تھے، وہ جلالیں شریف پڑھایا کرتے تھے، ایک مرتبہ رات کے وقت یہ آیت ﴿وَأَنَّ لَيْسَ لِإِلَٰهٖ إِلَّا مَا سَعَى﴾ ذہن میں آئی کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو وہ کوشش و محنت کرے۔ تو خیال آیا کہ میت کو ایصالِ ثواب کا مسئلہ تو ہمارے بیہاں مسلم ہے، اور یہ آیت اُس کے خلاف ہے؟ بس اسی وقت اُٹھئے اور حضرت گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں

حاضری دینے کے لیے رات ہی کو جل پڑے اور دیوبند سے گنگوہ پیدل گئے، تجد کے وقت گنگوہ پہنچے۔ حضرت گنگوہؑ تجد کے لیے وضوفرما رہے تھے، اس وقت ان کو دیکھا تو پوچھا: کیا بات ہے؟ کہا: حضرت! لیٹے لیٹے یہ خیال آیا اور میں نے یوں سوچا کہ اگر اسی طرح کا ایک اشکال لے کر دنیا سے جاؤں گا؛ تو میرے ایمان کا کیا حشر ہوگا؟ مجھے نیند نہیں آئی اور میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں حاضری دے کر اس کا حل معلوم کروں۔ اسی وقت حضرت گنگوہؑ نے فرمایا: اس سے سئی ایمانی مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی ایک کا ایمان لانا کسی دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، جیسے بیٹھے نے ایمان قبول کر لیا تو اس کا ایمان لانا باپ کے لیے کافی نہیں، ایمان ایک ایسا عمل ہے کہ جو کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، کسی دوسرے کی طرف سے ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ لیکن ایمان لا جائے کے بعد دوسرے اعمال کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلہ میں احناف تو اس طرف گئے ہیں کہ عبادت چاہے مالی ہو یا جانی (بدنی) ہو؛ دونوں کا ثواب مرنے والے کو پہنچایا جا سکتا ہے، مثلاً: ایک آدمی نماز پڑھ کر، مسترانِ پاک کی تلاوت کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے، تو پہنچا سکتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کر کے، قربانی کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو وہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ جبکہ شوافع کے یہاں مالی عبادت کا ثواب تو پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن بدنبی عبادت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ لیکن متاخرین شوافع تلاوت کے ثواب کو تسلیم کرتے ہیں۔

اسی لیے علامہ نوویؓ نے باب قائم کیا: **باب الصدقة عن الميت**“ مرنے والے کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا۔ چوں کہ علام نوویؓ شافعی المسلک ہیں اس لیے عنوان کے اندر اس قید کا اہتمام کیا کہ مرنے والے کی طرف سے صدقہ، خیرات کرے تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ ایصالِ ثواب مرنے والے ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے کمایا اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروادیا، اب اگر میں یوں کہوں کہ میرے اکاؤنٹ میں سے فلاں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر(Transfer) کر دو؛ تو ہو جائے گا۔ اسی طریقہ سے عمل کرنے والے نے عمل کر کے جو ثواب حاصل کیا، تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتا ہے کہ باری تعالیٰ! نماز پڑھ کر، صدقہ و خیرات کر کے، تلاوت کر کے جو ثواب مجھے حاصل ہوا ہے، وہ میری طرف سے فلاں کو دیدے؛ تو ہو جاتا ہے۔

۹۲۸:- عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رجلاً قالَ للنبي ﷺ: إِنَّ أَهْمِيَّةَ نَفْسِهَا وَأُرَاهَالَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا؟ قَالَ:

نَعَمْ . (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک صحابی شیخ تعالیٰ عنہ نے میٰ کریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ: میری والدہ اچانک انتقال کر گئی، اب میرا خیال ہے کہ اگر ان کو کچھ بولنے کا موقعہ ملتا تو وہ ضرور یہ کہتی کہ: میری طرف سے صدقہ کیجو۔ اگرچہ انہوں نے تو ایسی کوئی وصیت نہیں کی، لیکن اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں گا؛ تو کیا اس کا ثواب ان کو ملے گا؟ میٰ کریم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا: جی ہاں۔

افادات:- اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی مرنے والے کی طرف سے صدقہ کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہے تو پہنچایا جا سکتا ہے۔

۹۲۹:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِحِلْمٍ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلِيٌّ

صَاحِحٌ يَدْعُولَةً۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رض فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو جاتا ہے، البتہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے بعد بھی ان کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے:- ایک صدقہ جاریہ۔ یا عالم کی ایسی بات جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔

افنادات:- کوئی ایسا نیکی کا کام کر لیا جس سے لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جیسے: مسجد بنادی، تو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، مدرسہ بنادیا، و اٹرورس کس بنادیا، کوئی مسافرخانہ بنادیا، اور اپنا مال خرچ کر کے کوئی ایسی چیز بنانا کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؛ تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔

کوئی علم کی بات چھوڑی کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے: کوئی کتاب تصنیف کر دی، کسی کو علمی بات سکھا دی، کسی بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیا، اب وہ بچہ زندگی بھر قرآن پڑھتا رہے گا، تو چوں کہ اس کے قرآن سیکھنے میں اس کا حصہ تھا، تو جب تک وہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اگر اس کو بچے نے دوسرے کو سکھایا، اور اس نے تیسرے کو سکھایا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو اس کو بھی ثواب میں حصہ ملتا رہے گا۔ «مَنْ سَئَ في الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا» (مسلم: ۶۹۷۵) کسی نے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا تو اس کا ثواب اس کو ملے گا اور جو اس پر عمل کرتا رہے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔

اپنے پچھے اولادِ صالح چھوڑی جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ بس! اس روایت کو اس باب میں لانے کا مقصد یہی جملہ ہے۔ اس لیے کہ باب کے عنوان میں تھا ”والدعاء له“، مرنے والے کے لیے دعا کرنا۔ تو دیکھو! اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، تو اولاد کی اس دعا سے ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔

بَاب ثَنَاء النَّاس عَلَى الْبَيْت

لوگوں کا مرنے والے کی تعریف کرنا

إِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ

٩٥٠ - عن أنس بن ثابت رضي الله عنه قال: مُرْوَا بِجَنَازَةٍ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرْوَا بِأُخْرَى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: وَجَبَتْ، فَقَالَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ؛ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت انس بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک جنازہ کو لے کر گزرے، اس جنازہ کو دیکھ کر نبی کریم ﷺ کی مجلس میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے اس جنازہ والے کے متعلق اچھی بات کہی اور اس کی تعریف کی کہ: بہت اچھا آدمی تھا، نیک و صالح تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: اس کے لیے واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ وہاں سے گزرا، اس کو دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے اس کی برائی کی کہ بہت برا آدمی تھا۔ نبی کریم ﷺ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا: اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ حضرت عمر بن ثابت رضی اللہ عنہ جو اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا چیز واجب ہو گئی؟ پہلے کے متعلق بھی آپ فرماتے ہیں کہ

واجب ہو گئی، اور دوسرے کے متعلق بھی آپ نے فرمایا: واجب ہو گئی۔ تو نبی کریم ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: پہلا آدمی جس کے متعلق تم لوگوں نے اچھی بات کہی تھی اور اس کی تعریفیں کی تھیں؛ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسرا آدمی جس کے متعلق تم نے برے کلمات کہے تھے، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ تم لوگ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔

افنادات:- مومنین کی جماعت جس کے متعلق یہ کہے کہ اچھا آدمی تھا تو ان کے اس کہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اہل ایمان کے دل میں کسی کی اچھائی کا آنا یہ خود اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ عام طور پر دیکھا ہو گا کہ مرنے کے بعد لوگ خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے متعلق برا کہنے کی نوبت آتی ہے۔ ورنہ اگر کسی سے بعض برے اعمال بھی سرزد ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی اس کے مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں اور خوبیاں یاد کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، یہ گویا اس بات کی علامت ہے کہ اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی طرف سے لوگ جو با تین کرتے ہیں وہ قدرت کے فیصلے کی طرف اشارہ ہوا کرتا ہے:-

زبانِ خلق کو نقارہِ خدا سمجھو

٩٥:- وَعَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ثُبَّاتٍ عَنْ أَبِي هُنَّةَ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ

بْنِ الْخَطَّابِ ثُبَّاتٍ عَنْ فَرَّاتٍ بَهْمَ جَنَازَةً، فَأَثْبَتَ عَلَى صَاحِبِهَا حَيْرَةً، فَقَالَ عُمَرُ ثُبَّاتٍ عَنْ أَبِي هُنَّةَ: وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأَخْرَى فَأَثْبَتَ عَلَى صَاحِبِهَا حَيْرَةً، فَقَالَ عُمَرُ ثُبَّاتٍ عَنْ أَبِي هُنَّةَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالشَّالِيَّةِ فَأَثْبَتَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرَّاً، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. قَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقَلَتْ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّمَا

مُسْلِمٌ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بَيْنِهِ، أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؛ قَالَ: وَثَلَاثَةٌ.
فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؛ قَالَ: وَاثْنَانِ. ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ. (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت ابوالاسود بنی الش تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ آیا اور حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا، ان کے پاس سے ایک جنازہ گزر تو اس کے متعلق اچھی بات کہی گئی (یعنی لوگ اس کی تعریف کرنے لگا) تو حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس کے لیے واجب ہو گئی پھر دوسرا جنازہ گزرا، لوگوں نے اس کی بھی تعریف، تو حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس کے لیے بھی واجب ہو گئی۔ پھر تیسرا جنازہ گزرا، تو لوگوں نے اس کی برائی کی، تو حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ نے فرمایا: واجب ہو گئی۔ ابوالاسود بنی الش تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! کیا واجب ہو گئی؟ حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے وہی بات کہی جو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمائی تھی۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر وہ مسلمان جس کے متعلق چار آدمی گواہی دیں کہ اچھا آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں (کتنا آسان ہے) حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے متعلق تین آدمی گواہی دیں کہ اچھا آدمی تھا؟ تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر تین آدمی کہیں تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمادیتے ہیں۔ حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر کسی کے متعلق دو آدمی کہیں کہ اچھا آدمی تھا؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر دو آدمی بھی کسی کے لیے ایسا کہیں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمادیتے ہیں۔ حضرت عمر بنی الش تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ایک کے متعلق نہیں پوچھا۔ بس! دو تک بات آکر رک گئی۔

افنادات:- اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے دلوں میں مرنے والے کے متعلق اچھائی ڈالنا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہوا ہے۔

باب فضل من مات له اولاد صغار

جس کی نابالغ اولاد انتقال کر جائے

تو والدین کے حق میں اس کی کیا فضیلت ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جس کے تین بچے انتقال کر جائیں

۹۵۲:- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكُمْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ

لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَتْلُغُوا الْحِنْثَ، إِلَّا دَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جس مسلمان کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں؛ اس کو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر مہربانی کی وجہ سے جنت میں داخل کریں گے۔ یا ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر

دیتے ہیں۔

۹۵۳:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْتَزِعُ

لَأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، لَا تَمْسُسُهُ النَّارُ إِلَّا تَحْلِلَهُ الْقَسْمِ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

وَ ((تَحْلِلَهُ الْقَسْمِ)) قول اللہ تعالیٰ: ﴿وَإِنْ مَنْكُمْ إِلَّا وَارْدُهَا﴾

وَالْوُرُودُ: هُوَ الْعَبُورُ عَلَى الصِّرَاطِ، وَهُوَ جِئْنَرٌ، مَنْصُوبٌ عَلَى ظَهْرِ جَهَنَّمِ،

عَافَانَا اللَّهُ مِنْهَا.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس مسلمان کے تین بچے انتقال کر جائیں، اس کو جہنم نہیں چھوئے گی، مگر قسم پوری کرنے کی حد تک۔

افادات:- قسم پوری کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک چیز کا فیصلہ کر دیا ہے ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَّىٰ مَقْضِيًّا﴾ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو جہنم پر سے نہ گزرے۔ جہنم کے اوپر باقاعدہ ایک پل ڈالا جائے گا جو بال سے زیادہ بار ایک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور لوگوں کو اس کے اوپر سے گزرنے کو کہا جائے گا جیسے جیسے اعمال ہوں گے، اس کے مطابق لوگ گزریں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو کوندی ہوئی بھلی کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جو تیز ہوا کی طرح گزر جائیں گے۔ اور بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور بعض وہ ہوں گے جو گرتے پڑتے کسی بھی طرح سے پار ہو جائیں گے اور بہت سے وہ ہوں گے کہ جہنم کے آنکھوںے ان کو اپنے اندر کھینچ لیں گے اور وہ کٹ کر جہنم میں گرجائیں گے۔

بہر حال! پل صراط کا مرحلہ بڑا کھنڈن ہے، اور نبی کریم ﷺ نے فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور یہ آدمی جس کے تین بچوں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو بھی جہنم کے اوپر سے گزرنا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو اسے چھوئے نہیں دیں گے، ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔

۹۵۲:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَيْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهُ الْمُرْسَلُونَ! ذَهَبَ الرِّجَالُ بِهِ مِيَثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ

نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيَكَ فِيهِ تَعَلَّمُنَا هَمَا عَلِمَكَ اللَّهُ۔ قَالَ: أَجْتَمِعُنَّ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا۔ فَاجْتَمَعُنَّ، فَأَتَاهُنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَّمُهُنَّ هَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ۔ ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ كُنْيَةِ مِنْ امْرَأٍ إِلَّا تَقْبِلُهَا لَهُ كَلُوبُ الْأَهْلَاجِ مَا بَأَمْنَ النَّذَارِ۔ فَقَالَتِ امْرَأٌ: وَاثْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاثْنَيْنِ۔ (متفقٌ عَلَيْهِ)

ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی: اے اللہ کے رسول! آپ کی باتیں تو مرد ہی اڑا لے جاتے ہیں (یعنی آپ کے ارشادات سے مرد ہی فائدہ اٹھاتے ہیں اور انہیں کو سننے کا موقع ملتا ہے، ہمیں تو پرده کی وجہ سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے اور آپ کے ارشادات سننے کا موقع نہیں ملتا) اس لیے آپ ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرمادیجیے کہ ہم اس دن آپ کی خدمت میں حاضری دیں اور آپ ہمیں وہ باتیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہیں (اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کی تعلیم کے لیے الگ سے کوئی وقت مقرر کیا جا سکتا ہے) تو حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھا! فلاں فلاں دن تم لوگ جمع ہو جایا کرنا۔ چنان چہ عورتیں جمع ہو گئیں، اور نبی کریم ﷺ نے پاس تشریف لائے اور وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائیں، وہ ان کو سکھائیں۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس عورت نے تین بچوں کو آگے بھیج دیا (یعنی جس کے تین بچوں کا انتقال ہو گیا) وہ اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! اگر دو ہوں تو؟ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر دو ہوں تو بھی۔

افنادات:- ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! اگر ایک ہوتا؟ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اگر ایک ہو تو بھی۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر ادھور اساقط ہو جائے گا تو وہ بھی اپنے ماں باپ کو اپنی نال

کے ذریعہ چھپ کر جنت میں لے جائے گا۔ بہر حال! یہ بڑے ثواب کی چیز ہے۔

ہمارے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے پھول کا بھی بچپن کے اندر انتقال ہوا ہے،

حضرت ﷺ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ: میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اس پر ورنے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا کیا ہوا کوئی عمل ہو تو اس میں تو بڑے اشکالات و احتمالات ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں؛ نیت درست ہے یا نہیں؟ اخلاص کے ساتھ کیا ہے یا نہیں؟ ہر عمل میں ریا اور نمود کا اندیشہ رہتا ہے۔ اور پھر معلوم نہیں کہ ہم نے وہ عمل صحیح طریقہ سے انجام دیا ہے یا نہیں؟ لیکن ہمارا جو بچہ انتقال کر گیا اس میں ہمارے کسی عمل کو دخل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جنت کا وعدہ ہے۔ اس لیے یہ توبہت آسان سودا ہے۔ (احقر مرتب عرض کرتا ہے:- ہمارے حضرت مقی صاحب دامت برکاتہم کے پھول کا بھی بچپن میں انتقال ہوا ہے۔ اس طرح اللہ پاک نے حضرت کو اپنے شیخ سے اس معاملہ میں بھی متابعت نصیب فرمائی۔ باری تعالیٰ ان پھولوں کو حضرت اور گھروں کے لیے ذخیرہ آخرت و باعث اجر و ثواب بنائے۔ آمين۔) تو جن لوگوں کے پھول کا بچپن ہی میں انتقال ہو جاتا ہے ان کے لیے یہ بڑی بشارت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے توہیاں تک پوچھا کہ: اے اللہ کے رسول! جس کا کوئی بچہ فوت نہیں ہوا ہو؛ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری موت بھی امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، جو آدمی میری جداں پر صبر کرے گا؛ اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمادیں گے اور جہنم سے بچا لیں گے۔ ویسے اہل ایمان کے دلوں میں نبی کریم ﷺ کی محبت اور آپ کے ساتھ عشق ہے، جب آپ کا تصور آتا ہے تو اہل ایمان کی تمنا ہوتی ہے کہ کاش! ملاقات کی نوبت آتی، اور اس طرح آپ کی جداں صدمہ کا باعث ہوتی ہے، اس پر صبر کرنے پر بھی نبی کریم ﷺ نے یہ بشارت سنائی ہے۔

بَابُ البَكَاءِ وَالخُوفِ عِنْدَ الْمَرْوَرِ

بِقُبُورِ الظَّالِمِينَ وَمَصَارِعِهِمْ

وَإِظْهَارُ الْاِفْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

وَالتحذير من الغفلة عن ذلك

ظالمون کی قبروں کے پاس سے گزرتے

وقت رونا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا

اور ان کو جہاں عذاب ہوا ہے اس جگہ پر رونا

اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کا اظہار کرنا

اور غفلت سے اپنے آپ کو بچانا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہو، اور اس کے نتیجہ میں نافرمانیوں میں مبتلا ہونے والوں کو ہلاک کیا گیا ہو، ایسی جگہوں سے گزرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ ڈرتا ہوا اور روتا ہوا وہاں سے گزرے؛ یہی اس کی تلافی ہے۔

جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے وہاں سے گزرنے کا طریقہ

۹۵۵:- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخفى على الله أحد في الأرض ولا في السماء ولا في الماء ولا في النار ولا في الجنة ولا في السموات السبع ولا في أي مكان لا يرى إلا الله تعالى

وَصَلُوْالْجَنَرَ- دِيَارَ مَمَّ وَدَ:- لَا تَدْخُلُوا عَلَى هُؤُلَاءِ الْمَعْذَنِبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ.
 فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ. (متفقٌ عَلَيْهِ)
 وفي روايةٍ قَالَ: لَمْ يَأْمَرْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِالْجَنَرِ، قَالَ: لَا تَدْخُلُوا
 مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا
 بَاكِينَ. ثُمَّ قَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِأَسْرَعِ السَّيْرِ حَتَّى أَجَازَ الْوَادِيِ.

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ سے اس وقت یہ فرمایا جب کہ وہ مقامِ مجرم سے جو قومِ شمودی کی آبادیاں تھیں گزرے کہ: ان عذاب دے ہوؤں کے گھروں اور ان کی آبادیوں سے نہ گزو، مگر ایسی حالت میں کہ تم رو رہے ہو۔ اور اگر تم رو نہ رہے ہو، تو وہاں سے مت گز رنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا وہ تم پر بھی آجائے۔

اندادات:- یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، اس موقع پر جب نبی کریم ﷺ نے تبوک تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مقامِ مجرم پڑتا ہے جہاں قومِ شمود آباد تھی، جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور وہ ہلاک و بر باد ہوئے تھے۔ جب اس علاقے سے گزر رہے تھے تو نبی کریم ﷺ نے اپنے صحابہ کو یہ تنبیہ فرمائی تھی، حالاں کہ ان پر عذاب

آئے ہوئے تو صدیاں بیت چکی تھیں۔

یہ بڑی خطرناک روشن ہے

اس سے معلوم ہوا کہ وہ علاقے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، آدمی کو وہاں بلا وجہ نہیں جانا چاہیے۔ آج کل تو ایسی جگہوں کو لوگوں نے تفریح گاہیں بنارکھا ہے وہاں لوگ باقاعدہ تفریح کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اپنی بداعمالیوں سے ڈرنا اور ان پر رونا تو دور کی بات رہی، بس! وہاں لوگ پینک کے طور پر ہنسی مذاق کے لیے جاتے ہیں؛ یہ بڑی خطرناک روشن ہے۔ حالاں کہ نبی کریم ﷺ کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی جگہوں سے مجبوراً گزرنا پڑے تو ہماری کیفیت یہ ہو کہ رو رہے ہوں اور ڈر رہے ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب ہم پر بھی آجائے، اگر ڈریں گے اور روئیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا۔

ایسا کوئی علاقہ جہاں کوئی بیماری اور روگ پھیلا ہوا ہو، عام بیماری چل رہی ہو، جیسے: طاعون اور ہیضہ پھیلا ہوا ہو، وہاں کوئی نہیں جاتا، اور اگر کسی وجہ سے مجبوراً حبنا پڑتا ہے تو ایسی تدبیر میں اختیار کی جاتی ہیں کہ اس سے اپنے آپ کو بچا سکے، پر ہیز اختیار کیا جاتا ہے؛ اسی طریقہ سے کسی ایسے علاقے میں جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہو، وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے وہاں سے مجبوراً گزرنے کی نوبت آئے، تو اس کے لیے تدبیر بھی ہے کہ روتا ہوا اور اللہ سے ڈرتا ہوا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوا وہاں سے گزرے، اور اس بات سے ڈرتا ہوا اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہم پر آجائے۔

ڪتابِ آداب السفر

سفر کے آداب

استحباب الخروج يوم الخميس

واستحبابه اول النهار

جمرات کے دن

اور دن کے ابتدائی حصہ میں سفر کی شروعات کا

مستحب ہونا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

یہاں سے نیا مضمون شروع فرمائے ہیں، جس میں سفر کے آداب کو بتالائیں گے۔ اس عنوان کے تحت انہوں نے مختلف ابواب قائم کیے ہیں۔

لقط سفر کی تحقیق

”سفر“ عربی زبان کا لفظ ہے۔ ”سَفَرٌ، يَسْفِرُ“ کا اصل معنی کھولنا، واضح کرنا اور کسی چیز کو بیان کرنا۔ سفر کو سفر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آدمی کے اخلاق و عادات رفقاء کے سامنے کھلتے ہیں، اسی لیے آپ اگر کسی آدمی کی پہچان کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ سفر کرو۔

حضرت عمر بن الخطاب نے کسی سے پوچھا کہ فلاں آدمی کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا: بہت اچھا آدمی ہے۔ پوچھا: تم نے کبھی اس کے ساتھ خریدو فروخت کا کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا: کوئی معاملہ تو نہیں کیا۔ پھر پوچھا: اچھا! کبھی اس کے ساتھ سفر کرنے کی نوبت آئی ہے؟ تو اس نے کہا: اس کی بھی کبھی نوبت نہیں آئی تو حضرت عمر بن الخطاب نے فرمایا: ”لَعَلَّكَ رَأَيْتَهُ يُصَلِّي؟“ پھر تو تم نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا۔ اس نے کہا: جی ہاں! وہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرتا ہے (قواعد السلف النھبیة فی الأخوة الإیمانیة) معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے اچھا ہونے کی رائے قائم کرنے کے لیے صرف عبادت کرتے ہوئے دیکھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے معاملات کی درستگی بھی ضروری ہے۔ اور سفر سے بھی چوں کہ آدمی کے اخلاق نمایاں ہوتے ہیں اس لیے اس کو عربی زبان میں سفر کہا جاتا ہے۔

بعض سفر ضروری ہیں

سفر بھی انسان کی زندگی میں پیش آنے والے حالات میں سے ایک حالت ہے، انسان کی دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو حضرت یعنی اپنے وطن میں مقیم ہو گا، یا پھر سفر کر رہا ہو گا۔ اصل حالت تو حالت حضر ہی ہے، لیکن ضرورت میں حالت سفر بھی پیش آ جاتی ہے، اور شریعت نے بھی مختلف ضرورتوں کے پیش نظر سفر کی اجازت دی ہے، بلکہ بعض صورتوں میں سفر کو ضروری قرار دیا ہے، مثلاً: کسی آدمی پر حج فرض ہو یعنی اپنے وطن سے مکہ جانے کی استطاعت ہو، اور اپنا نفقہ اور اپنی غیر حاضری میں اپنے گھر والوں کا نفقہ موجود ہو، تو اس صورت میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں جہاد کے لیے سفر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ بعض حالات میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ بعض سفر ضروری ہو جاتے ہیں۔

ویسے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی یا تو دفعِ مضرت کے لیے سفر کر رہا ہو گا، یا جلب منفعت کے لیے سفر کر رہا ہو گا۔ دفعِ مضرت یعنی کسی طرح کے نقصان اور تکلیف سے بچنے کے لیے سفر کرنا، اس کے اسفار میں ایک سفر ہجرت ہے کہ آدمی جہاں رہتا ہے وہاں شریعت کے احکام پر عمل اس کے لیے ممکن نہیں ہے، رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، جیسے نماز ادا نہیں کر سکتا، شریعت کے دوسرے فرائض انجام نہیں دے سکتا؛ تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑنے کا شریعت کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔

فتحِ مکہ کے بعد ہجرت نہیں

شروعِ اسلام میں جب نبی کریم ﷺ نے ایمان و اسلام کی دعوت پیش کی اور مکہ مکرمہ میں لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، پھر ہجرت کا حکم نازل ہوا، اس وقت تو

مکہ مکرہ میں کسی کا ایمان قبل قبول ہی نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے، اس وقت تو ہجرت کا سفر ضروری تھا، لیکن جب مکہ مکرہ فتح ہوا تو نبی کریم ﷺ نے فرمادیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مکہ مکرہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا جو سفر کیا جاتا ہے، اب جبکہ مکہ مکرہ فتح ہو چکا اور وہ دارالاسلام بن چکا؛ اب یہاں سے ہجرت کے سفر کی ضرورت نہیں رہی؛ اسی کو ”لَا يَهُجُّوا بَعْدَ الْفَتْحِ“، کہہ کر بیان فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود علماء نے لکھا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، آدمی جس جگہ قیام پذیر ہے وہاں رہتے ہوئے اگر اس کے لیے اسلامی احکام پر عمل ناممکن ہے تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا جہاں اسلامی احکام کو عملی جامہ پہنا سکے یہ ضروری ہے؛ اسی کو سفر ہجرت کہا جاتا ہے۔

طلب حلال کے لیے سفر

اور سفر ہجرت بعض حالات میں ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسے: ایک آدمی جہاں رہتا ہے وہاں حلال روزی میسر نہیں، یا وہاں حرام کا اتنا زیادہ غلبہ ہے کہ حلال ناممکن ہو گیا ہے، تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری کسی ایسی جگہ پر جانا ضروری ہو جاتا ہے جہاں وہ حلال حاصل کر سکے۔ یہ سفر بھی دفع مضرت ہی کے لیے قرار دیا گیا ہے۔

جان و مال کی حفاظت کے لیے سفر

یا مثلاً ایک آدمی جہاں پر قیام پذیر ہے وہاں کی آب وہاں کو ناموافق ہے، اس کی وجہ سے وہ بیمار رہتا ہے اور ہمیشہ پریشانی میں بیتلار رہتا ہے، اطباء اور معالجین نے اس کو یہ بتلایا کہ تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، تو نبی کریم ﷺ نے اس کی بھی اجازت دی ہے، ابو داود شریف میں روایت

موجود ہے۔ ہاں! اگر کسی علاقہ میں کوئی عام یماری پھیل جائے، جیسے: طاعون یا ہیپسہ؛ تو اس صورت میں اس جگہ کو چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔

اسی طریقہ سے کسی جگہ پر رہتے ہوئے جان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں اپنی یا اپنے اہل و عیال کی جان کی حفاظت کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ حبا نا چاہے؛ تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طریقہ سے کسی جگہ پر رہتے ہوئے مال کی حفاظت ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں مال کی حفاظت کے لیے بھی اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ منتقل ہونا چاہے؛ تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔

اور جلبِ منفعت یعنی کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو سفر کیا جاتا ہے، جیسے: حج و عمرہ کے لیے سفر کرنا، طلب علم اور جہاد کے لیے سفر کرنا، اپنے رشتہ دار، عزیزو اقارب اور دوست و احباب کی ملاقات کے لیے سفر کرنا؛ یہ سب اس کے اندر احسن ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کی یہ مختلف شکلیں بتلائی ہیں۔

سفر شرعی، سفر غیر شرعی

ویسے احکام کے بدلنے اور نہ بدلنے کے اعتبار سے بھی سفر کی دو قسمیں کی گئی

ہیں:- ۱۔ سفر شرعی ۲۔ سفر غیر شرعی۔

سفر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا سفر جس کی وجہ سے احکام بدل جاتے ہیں۔

شریعت کے بعض احکام میں مسافر کو شریعت کی طرف سے خصوصی رعایتیں دی گئی ہیں، مثلًا: رمضان المبارک میں سفر ہو رہا ہے اور سفر کی مشکلات اور مشقتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے، اور گھر آنے کے بعد اس کی قضا کر لے؛ تو شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ یہ ایک طرح کی رخصت ہے جو سفر کی وجہ سے اس کو دی گئی ہے۔

اسی طریقہ سے سفر میں یہ بھی ہے کہ چار رکعات والی نمازوں کو دور کعات ادا کرے۔ اور بھی کچھ احکام ہیں جو سفر کی وجہ سے بدلتے ہیں، مثلاً: چمڑے کے موزے پہن رکھے ہیں، تو حالت سفر میں تین دن مسح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، جبکہ حالتِ اقامت میں ایک دن کا حکم ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے مسجد کے اندر سونے اور کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ بہر حال! بعض احکام ہیں جو سفر کی وجہ سے بدلتے ہیں؛ اسی کو سفر شرعی کہتے ہیں۔

سفر شرعی کی مسافت

اور یہ سفر احناف کے یہاں تین دن کا ہونا چاہیے۔ اُس زمانہ میں عام طور پر لوگ قافلوں کی شکل میں اونٹ اور دوسری سواریوں پر سفر کرتے تھے، تو دن کا کثر حصہ سفر میں گزارا جاتا تھا، اور رات میں آرام کرتے تھے، اور اس وقت دن بھر میں جو مسافت طے کی جاتی تھی وہ ایک منزل کے برابر ہوتی تھی؛ ایسے تین دن کی مسافت کا سفر ہو تو اس کو یہ اجازت دی گئی ہے۔ بعد میں فقہاء نے حالات کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے انگریزی اڑتا لیس میل کی تحدید فرمادی ہے۔ ہمارے اکابر کا قول یہی ہے۔ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اپنے فتاویٰ میں جو لکھا ہے اس سے بعد میں رجوع فرمالیا ہے، اور اڑتا لیس میل والے قول کو ہی تسلیم کیا ہے۔ اور یہ اڑتا لیس میل موجودہ ناپ کے اعتبار سے سواستر ($\frac{1}{7}$ لے) کلومیٹر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے وطن سے سواستر ($\frac{1}{7}$ لے) کلومیٹر کی دوری کے ارادہ سے نکلے؛ تو وہ مسافر بن جاتا ہے۔ اور یہ مسافت سفرانے وطن کی آبادی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے شمار کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ آپ یہاں نشاط سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اپنے گھر سے سواستر ($\frac{1}{7}$ لے) کلومیٹر شمار کریں، بلکہ اگر

آپ ممبئی کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو ممبئی کی طرف جاتے ہوئے جہاں سورت شہر کی مسلسل آبادی ختم ہوتی ہے وہاں سے سواستر (۱/۷) کلومیٹر کا حساب لگایا جائے گا۔ اب اگر آپ کو جہاں جانا ہے وہ گھر سے تو سواستر (۱/۷) کلومیٹر ہوتا ہے، لیکن جہاں شہر کی مسلسل آبادی ختم ہوتی ہے وہاں سے سواستر (۱/۷) کلومیٹر نہیں ہوتا؛ تو اس صورت میں آپ شرعی مسافر قرار نہیں دے جائیں گے۔

قصر ضروری ہے

اور ایک مرتبہ مسافر بننے کے بعد چار رکعات والی نمازیں دور کعات پڑھنا احناف کے یہاں ضروری ہے۔ احناف کے یہاں قصر خصت اسقاط ہے یعنی شریعت نے مسافر کے لیے چار رکعات رکھی ہی نہیں، بلکہ دو ہی رکھی ہیں، جیسے: فجر کی دور کعات ہیں، اگر کوئی آدمی فجر کی نمازوں کے بجائے چار پڑھنا چاہے تو وہ صحیح نہیں ہے، اسی طریقہ سے مسافر کے حق میں ظہر کی چار رکعات ہے ہی نہیں، بلکہ دو ہی رکعات ہیں۔ ایسا نہیں کہ چار ہے اور دو سے کام چلا سکتے ہو، بلکہ مسافر کے حق میں ظہر کی نمازوں ہی رکعات ہے، اس لیے اگر مسافر چار رکعات پڑھے گا تو وہ درست نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ مسافر بن جانے کے بعد یہی حکم باقی رہے گا۔ ہاں! اگر کسی جگہ جا کر پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہر نے کا ارادہ کرتا ہے تو وہاں پوری نمازوں پڑھے گا۔ یہ ساری تفصیلات ہیں، اگر اس سلسلہ میں کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل علم حضرات سے دریافت کر لیا جائے یہ سفر شرعی کہلاتا ہے، جس میں احکام بدلتے ہیں۔

بعض سفر وہ ہیں کہ ان میں چار رکعات والی نماز اور روزہ میں گنجائش کا حکم نہیں بلتا، وہ سفر شرعی سے کم مسافت کا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کے اندر بھی کچھ گنجائشیں ہیں، مثلاً:

کوئی آدمی سفر کی حالت میں سواری پر بیٹھے بیٹھے اشارہ سے نفل نماز پڑھنا چاہے، تو اس کی اجازت ہے، اس کے لیے سواستر ($\frac{۱}{۷} ۷$) کلومیٹر کا سفر ہونا ضروری نہیں ہے، جیسے اگر آپ سورت سے نوساری جانا چاہیں اور وہ یہاں سے سواستر ($\frac{۱}{۷} ۷$) کلومیٹر نہیں ہے، تب بھی آپ سواری پر بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ خصوصیں اور گنجائشیں مطلق سفر پر دی گئی ہیں اس میں سواستر ($\frac{۱}{۷} ۷$) کلومیٹر کی قید نہیں ہے، جیسے: مسجد میں سونے کی اجازت ہے، تو وہ اس مسافر کے لیے بھی ہے، اس کے لیے سواستر ($\frac{۱}{۷} ۷$) کلومیٹر والا مسافر ہونا ضروری نہیں ہے یہ سفر کے کچھ احکام ہیں، اور شریعت نے سفر کی مشقتوں کے پیش نظر یہ آسانیاں دے رکھی ہیں۔

سفر کے لیے کون ساداں اور وقت مستحب ہے؟

چوں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ مختلف چیزوں کے آداب بیان کر رہے ہیں، اس لیے یہاں سے سفر کے آداب بیان کرنا چاہتے ہیں۔ چنان چہ انہوں نے پہلے باب کا عنوان قائم کیا:-**إِسْتَحْبَابُ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَأَوَّلَ النَّهَارِ**، سفر کی شروعات کون سے دن ہونی چاہیے؟ ویسے اگر ضرورت ہے تو کسی بھی دن نکل سکتا ہے، لیکن اگر کوئی کام اپنے اختیار کا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے سفر کو جمعرات کے دن اور وہ بھی دن کے ابتدائی حصہ میں شروع کرے۔ گویا دن کے اعتبار سے جمعرات، اور وقت کے اعتبار سے صحیح؛ یہ دو چیزیں سفر کے لیے بہتر اور مستحب قبل از دی گئی ہیں۔

۹۵۶- عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنَّ الْجَمِيعَ مُحَاجِجُونَ خَرَجَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَكَانَ يُحْبُّ أَنْ يَحْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. (معنیق علیہ)

وفی روایة في الصحيحين: لقلَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْرُجُ جُنُلَّا فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ.

ترجمہ:- حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ غزوہ تبوک کے جمراۃ کے دن نکلے، اور نبی کریم ﷺ سفر کے لیے جمراۃ کے دن نکلا پسند فرماتے تھے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ بہت کم نبی کریم ﷺ نکلتے تھے مگر جمراۃ کے دن (یعنی عام طور پر جمراۃ کے دن) ہی آپ کا سفر ہوتا تھا۔

افتادات:- غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم ﷺ غزوہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک نہ ہو پائے تھے، ان کے ساتھ دو صحابی اور بھی تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تبیہ کی گئی تھی۔ یہ بھی چوڑی ایک روایت ہے جس کا ایک حصہ یہاں پیش فرمایا ہے۔ (پوری روایت حدیث کے اصلاحی مضامین، ۱/۱۵۰-۱۸۰ پر گزروچی ہے۔ من شاء فلیراجح۔ مرتب۔)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر پروگرام بنانا اپنے ہاتھ میں ہے کہ جس دن بھی ہم چاہیں نکل سکتے ہیں؛ تو بہتر ہے کہ آدمی اپنے سفر کی ابتداء جمراۃ کے دن کرے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ بھی کبھار نبی کریم ﷺ پیر کے دن بھی سفر شروع فرماتے تھے، لیکن عام طور آپ ﷺ کا سفر جمراۃ کو ہوتا تھا۔ آگے دوسری روایت لاکروقت بتاتے ہیں۔

امت کے لیے حضور ﷺ کی برکت کی دعا

۹۵: وَعَنْ صَخْرِ بْنِ وَدَاعَةَ الْغَامِدِيِّ الصَّحَابِيِّ رضي الله تعالى عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَللَّهُمَّ بَارِكْ لِأَمْمَتِي فِي بُكُورِهَا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيرَةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَحْرَاتِ الْجَرِأَ وَكَانَ يَبْعَثُ بِجَازَتَهُ أَوْلَ النَّهَارَ فَأَثْرَى وَكَثْرَ مَالُهُ۔ (رواہ أبو داود والترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت سخر بن و داعم غامدی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی ہے: اے اللہ! میری امت کے لیے دن کے شروع (یعنی صبح) میں برکت رکھ دے (اسی لیے حضور اکرم ﷺ کی عادت شریفہ بیان کرتے ہیں کہ) آپ ﷺ صحابہ کرام کی طکڑی کہیں روانہ کرنا چاہتے تھے، یا کوئی لشکر کہیں بھیجنा ہوتا تھا؛ تو دن کے شروع وقت روانہ فرماتے تھے۔ اور حضرت سخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس روایت کے راوی ہیں وہ تجارت کرتے تھے۔ اس لیے وہ جب اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتے تھے، یا خود جانا ہوتا تھا تو دن کے شروع میں جاتے تھے (اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ) ان کے مال میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دی، اور وہ کثیر المال ہو گئے۔

افادات:- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تجارتی سفر میں بھی آدمی اگر اس کا اہتمام کرے تو اس سے تجارت میں برکت ہو گی۔ اکثر لوگ بے برکتی کی شکایتیں کرتے ہیں، تو شریعت نے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نسبتائیے ہیں ان کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب تو مصیبت یہ ہو گئی کہ پہلے تو دکانیں بھی صبح کی نماز کے بعد جلدی کھل جایا کرتی تھیں، لیکن اب تو سونے کا عام مزاج ایسا بن گیا ہے کہ گیارہ بجے سے پہلے دوکانیں کھلنے کا سوال ہی نہیں رہا۔ بہر حال! سفر میں وقت کے اعتبار سے صبح کے وقت کو بہتر قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہو گئیں کہ دن جمعرات کا ہونا چاہیے اور وقت صبح کا ہو۔ اگر سفر کا نظام اپنے اختیار میں ہے تو اپنے نظام سفر کو اس طرح ترتیب دے۔ یہ آداب سفر میں سے ہے۔

بَابِ اسْتِحْبَابِ طَلْبِ الرُّفْقَةِ

وَتَأْمِيرُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَاحْدًا يطِيعُونَه
اَكِيلِي سفر نہ کریں اور امیر مقرر کر لیں

ایک اور عنوان قائم کیا ہے کہ آدمی اکیلا سفر نہ کرے، بلکہ سفر کے لیے رفقاء تلاش کرے، اور جب رفقاء ہو جائیں تو وہ سب مل کر اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنالیں جس کی وہ اطاعت کریں، یعنی سفر کے معاملہ میں وہ اس کی باتوں کو برآبر مانیں۔ اس لیے کہ سفر کے دوران مختلف حالات پیش آتے ہیں، کسی چیز کے سلسلہ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، مثلاً: یہاں قیام کرنا چاہیے یا نہیں؟ کس گاڑی سے سفر کریں؟ کس گاڑی سے واپس ہونا ہے؟ دوسرا تھی ایک گاڑی کا کہتے ہیں اور دوسرے ساتھی دوسری گاڑی کا نام بتاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم توفلاں گاڑی ہی سے جائیں گے، تم کو آنا ہو تو آؤ؛ ایسی گڑبڑیں ہو جاتی ہیں، اس لیے پہلے سے کسی کو امیر بنالیا جائے اور امیر کو چاہیے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ لے، اور جو جو مشورہ دے اس سے اس کی وجہ بھی پوچھئے کہ تم نے فلاں سواری، یا فلاں ٹرین کا جو مشورہ دیا ہے اس میں کیا فائدہ ہے؛ تاکہ ان سب مشوروں کو تول کر اس کے مطابق امیر اپنی رائے سے فیصلہ کر سکے۔ اور جب کسی ایک کو امیر بنادیا گیا تو اس کے حکم پر سب کو چلنے ضروری ہے۔ اسی کو عنوان میں کہا گیا کہ ”یطیعونہ“ صرف نام کا امیر نہ بنایا جائے، بلکہ سفر سے تعلق رکھنے والے تمام امور میں اس کی پوری پوری اطاعت ہو۔

اکیلے سفر کا جتنا نقصان میں جانتا ہوں

۹۵۸:- عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ ﷺ: لَوْأَنَّ النَّاسَ

يَعْلَمُونَ مِنَ الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَأِكَ بِإِلَيْنِي وَمَحْدَهُ! (رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: اکیلے سفر کرنے میں کیا نقصان ہے، اس کوئی جتنا جانتا ہوں اتنا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی سواررات کو اکیلے سفر نہ کرے۔

افادات:- اس زمانہ میں عام طور پر راستوں میں بد امنی تھی، اکیلے سفر کرنا آدمی کے جان و مال کے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا، اسی لیے حضور اکرم ﷺ نے خاص طور پر تاکید فرمائی، اور لوگ بڑے مجمع اور قافلوں کی شکل میں ہی سفر کرتے تھے۔ ہاں! اگر کہیں امن و امان کی صورت حال ہے تو اکیلے سفر کی بھی اجازت ہے، البتہ کسی قافلہ کے ساتھ سفر کرنا آداب میں سے ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن جیسا کہ بتایا کہ ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے کوئی آدمی چل تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خیر و برکت رکھی ہے۔

لفظ ”قافلہ“ نیک فال ہے

قافلہ کو عربی زبان میں ”قافلہ“ اسی لیے کہتے ہیں کہ ”قَفَلَ يَقْفُلُ“، کا معنی ہے ”لوٹنا“۔ قافلہ یعنی لوٹ کر آنے والی جماعت۔ حالاں کہ ابھی تو یہ لوگ سفر میں جا رہے ہیں، لیکن اہل عرب کے یہاں ایک مزاج تھا کہ وہ لوگ کسی چیز کا نام رکھنے میں نیک فالی لیا کرتے تھے، ایسا نام رکھتے تھے جس کا اچھا معنی نکلے۔ تو یہ جماعت جو سفر میں جا رہی ہے اس کا نام پہلے ہی سے ”قافلہ“ رکھا، یعنی لوٹ کر آنے والی جماعت۔

کیوں کہ اس زمانہ میں جو لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے تو بد امنی اور جان و مال کے خطرہ کی وجہ سے ان کی واپسی کے متعلق ان دیشہ رہتا تھا، اس لیے یہ لوگ جب جا رہے ہیں اسی وقت سے کہا جا رہا ہے کہ ”قالہ“، جا رہا ہے۔ یعنی نام کے اندر ہی ایسا معنی رکھ دیا کہ جب کئی آدمیوں کی زبان سے ایک ہی لفظ بولا جائے گا تو معلوم نہیں کس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اس کا بول قول ہو جائے، تو یہ قالہ سلامتی کے ساتھ واپس آجائے، یعنی صرف جانے والا ہی نہ رہے بلکہ واپس آنے والا بھی بن جائے۔

’سَاعَةُ‘ اور ’سَلِيمٌ‘ بھی نیک فال ہے

جیسے: عربی زبان میں سانپ کے ڈسے ہوئے کو ”سلیم“ کہتے ہیں۔ حالانکہ ”سلیم“، کا معنی: وہ آدمی جو سلامتی والا ہے، لیکن جس کو سانپ کاٹ لے، عام طور پر وہ سلامت نہیں رہتا، بلکہ مر جاتا ہے، تو جس کو سانپ کاٹ لے اس کا نام ہی اہل عرب نے ”سلیم“، رکھ دیا۔ اب کوئی پوچھئے کہ وہ کون ہے تو کہیں گے: ”ہُوَ سَلِيمٌ“۔ یہ سلیم ہے۔ جب کئی لوگوں کی زبان سے سلیم کا لفظ نکلے گا، تو ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے نکلا ہوا بول قول ہو جائے اور اس کی جان نجح جائے۔ اسی طرح قیامت کو ”سَاعَةُ“ کہتے ہیں۔ ”سَاعَةُ“ یعنی ایک لمحہ اور ایک گھنٹی تو گویا ”سَاعَةُ“ نیک فالی کے طور پر کہا گیا ہے۔ ویسے تو قیامت کا دن بڑا المبادن ہو گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایک لمحہ اور ایک گھنٹی کے برابر بنادے۔ میں نے یہ سب مثالیں نیک فالی کی دی ہیں۔

تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانہ میں عام طور پر بد امنی تھی، اس کی وجہ سے حضور اکرم ﷺ نے تاکید فرمائی کہ اکیلے سفر کرنے کا جو نقصان میں جانتا ہوں، وہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کوئی بھی سواررات میں اکیلا سفر نہیں کرے گا۔ اسی لیے رات

کے سفر میں دن کے سفر کے مقابلہ میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔

سفر کے ساتھی کم از کم تین ہوں

۹۵۹:- وَعَنْ عُمَرِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ شَاعِنْتَالَعَنْ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّأْكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّأْكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَجُبٌ.

(رواہ أبو داود والترمذی والنمسائی بأسانید صحیحة، وقال الترمذی: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر بن عاصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکیلا سوار ایک شیطان ہے، دوسرا دو شیطان ہیں، اور تین سوار قافلہ ہیں۔

افتادات:- یہ ارشاد فرماد کر گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف

رہنمائی فرمائی کہ سفر میں کم سے کم تین آدمی ہونے چاہئیں۔ یہ زیادہ مناسب ہے۔

۹۶۰:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلَيُؤْمِرُوا أَحَدَهُمْ. (حدیث حسن، رواہ أبو داود بسناد حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تین آدمی سفر کے لیے نکلیں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر

بنالینا چاہیے۔

افتادات:- یہ آداب سفر میں سے ہے، اور اس میں بڑی برکت ہے۔

چار، چارسو، چار ہزار اور بارہ ہزار کی فضیلت

۹۶۱:- عَنْ أَبِنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَاتِ أَرْبَعَةٌ،

وَخَيْرُ السَّرَّاءِ أَرْبَعُ مِئَةٍ، وَخَيْرُ الْجَنِيُّونَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ، وَلَنْ يُغَلَّبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا

مِنْ قِلَّةٍ. (رواہ أبو داود والترمذی وقال: حدیث حسن)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما مجیٰ کریم ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: بہتر رفقاء سفر چار ہیں، اور لشکر کی بہترین لٹکڑی چار سوکی ہے، اور بہترین لٹکروہ ہے جس میں چار ہزار آدمی ہوں، اور بارہ ہزار کی نفری کمی عددي کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی۔

افادات:- یعنی سفر میں چار آدمی ہوں تو وہ سب سے اچھی شکل ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ سفر میں عام طور پر دو ضرورتیں پیش آتی ہیں، کبھی کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، تو چار ہونے کی صورت میں دو آدمی اس کے لیے جائیں گے، اور یہاں سامان کی حفاظت کے لیے دو ساتھی رہیں گے، یعنی ہر جماعت میں دو دور ہیں گے۔ اور چار سے کم ہونے کی صورت میں یہ ہو گا کہ اگر کھانے پینے کے انتظام کے لیے دو گئے ہیں تو سامان کی حفاظت کے لیے ایک کو بھیجا پڑے گا۔ یا حفاظت کے لیے دو کو بھایا تو انتظام کے لیے ایک کو بھیجا ہی کو رہنا پڑے گا۔ اور دو کی صورت میں تو دونوں جگہ ایک ہی رہیں گے۔ اور اگر صرف ایک ہے تو اس کے لیے تو دشواری ہی دشواری ہے کہ اگر پانی پینے کے لیے بھی جانا ہے تو سامان کی حفاظت کی فکر ہے کہ کیا کرو!

آج کل ٹرینوں کے سفر میں پاس پڑوس والے کے ساتھ ان سپیدا کر کے اس کو اپنا معتمد بنالیا جائے تو کام چل سکتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جاسکتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سامان سونپ کر بیت الحناء میں جائیں اور وہی آدمی سامان لے کر روانہ ہو جائے۔ اس لیے حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بہترین رفقاء سفر چار ہیں۔

”سیریّۃ“، لشکر کی چھوٹی لٹکڑی کو کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں حضور اکرم ﷺ بھیجا کرتے تھے۔ ویسے اہل سیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور اکرم ﷺ خود شریک نہ ہوں

اور صرف صحابہ کرام ﷺ کو پھر دیں؛ تو وہ ”سریہ“ کہلاتا ہے، ورنہ وہ ”غزوہ“ کہلاتا ہے۔ یہاں مراد مطلق گلڑی مراد ہے کہ لشکر کی بہترین گلڑی وہ ہے جس میں چار سو آدمی ہوں۔ اور بارہ ہزار کی نفری کمی عددي کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہوگی۔ ہاں! کسی اور وجہ سے جیسے اپنے عجب و کبر میں مبتلا ہونے، یا سامان کی قلت، یا کسی اور وجہ سے مغلوب ہو جائے؛ توبات دوسری ہے، لیکن تعداد کی کمی کی وجہ سے وہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتی۔

باب آداب السير والنزول و
المبيت والنوم في السفر
واستحباب السرى والرفق بالدواب
ومراعاة مصلحتها
وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها
وجواز الإرداد على الدابة إذا كانت
تطيق ذلك

چلنے، ہٹھرنے، شب گزاری اور سفر میں سونے

کے آداب

چوپاپیوں کے ساتھ نرمی اور ان کا خیال رکھنے

کا بیان

جو ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنے کے

معاملہ میں کوتا، ہی کرے، اسے تاکید

چوپاپیہ اگر مضبوط ہو تو اپنے پچھے کسی کو سوار کر سکتے

ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سفر میں کہیں اترنے، اور رات میں کہیں قیام کرنے اور سونے کے کچھ آداب اس باب میں بتلاتے ہیں۔ اسی طرح سواریوں کے ساتھ زمری کا معاملہ برتنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو آدمی سواری کے جانور کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کرتا ہے اس کو ان کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ اور اگر جانور میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دو یا تین آدمی کی سواری کو برداشت کر سکتا ہے؛ تو سواری کے جانور کے اوپر دوسرے کو بٹھانے کی اجازت ہے۔

آج کل تو سواریاں جاندار نہیں ہوتیں، بلکہ بے جان ہوتی ہیں، جیسے: موڑر سائیکل، یا سائیکل، یا اسکوڑا اور موڑ کار؛ تو وہاں بھی ایک اصول یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو اس طرح استعمال کرنا جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے؛ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اس لیے وہاں بھی اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے گا کہ اگرچہ جاندار پر ظلم کا مسئلہ نہیں، لیکن اگر ایک سائیکل کے اوپر چار آدمی سوار ہو گئے، یا ایک اسکوڑ کے اوپر پانچ آدمی سوار ہو گئے، جس کی وجہ سے اس سواری کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؛ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔

آپ کو یاد ہو گا کہ پہلے جہاں پینے کے آداب بتائے تھے وہاں یہ بھی بتایا تھا کہ چڑی کے مشکلزہ کے منھ کو موڑ کر پانی پینے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ بتلائی تھی کہ اگر اس کا منھ بار بار موڑا جائے گا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر پورا مشکلزہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چیز اپنی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو اس طرح استعمال کرنا جس کی وجہ سے اس چیز کو نقصان پہنچے؛ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی۔

دورانِ سفر اس بات کا بھی خیال رکھو

۶۶۲:- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحَصْبِ، فَأَعْطُوا الْإِبْلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْجَدْبِ، فَأَسْرِ عَوَالَيْهَا السَّيْرَ، وَبَادِرُوا بِهَا نِقْيَهَا، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ، فَاجْتَنِبُوا الظَّرِيقَ، فَإِنَّهَا أُطْرُقُ الدَّوَابِ، وَمَأْوَى الْهَوَافِ بِاللَّيْلِ۔ (رواہ مسلم)

معنی ((أَعْطُوا الْإِبْلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ)) أی: ارْفُقُوا بِهَا فِي الْحَصْبِ يُرِي
لِتَرْعَى فِي حَالِ سَيِّرِهَا، وَقُولُهُ: ((نِقْيَهَا)) هُوَ بَكْسَرُ النُّونِ وَإِسْكَانُ الْقَافِ
وَبِالْيَاءِ الْمُشَاهَةُ مِنْ تَحْتِ وَهُوَ: الْبُخْ، مَعْنَاهُ: أَسْرِ عَوَالَهَا حَتَّى تَصِلُوا الْمَقْصِدَ
قَبْلَ أَنْ يَدْهَبَ فُخْتَهَا مِنْ ضَنْكِ السَّيْرِ، وَ((الْتَّعَرِيْسُ)): النُّزُولُ فِي اللَّيْلِ۔

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی سر سبز و شاداب علاقہ میں سفر کرو، تو اونٹ کو اس زمین کا حق اور حصہ عطا کرو۔ اور جب خشک علاقہ میں سفر کرو؛ تو جلدی سے اور تیزی سے سفر کرو۔ اور اس کا گوداختم ہونے سے پہلے سفر پورا کرو۔ اور جب تم رات کو یہیں قیام کرو تو راستہ سے ہٹ کر ٹھہرو۔

افادات:- اگر آدمی اونٹ پر سفر کر رہا ہے اور کسی ایسے علاقے سے گزر رہا ہے جہاں کھانے کے لیے سبزہ اور گھاس ہے، تو ظاہر ہے کہ جانور کی طبیعت بھی اس گھاس کو کھانے کو چاہے گی، اس لیے نبی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ ایسا مرت کرو کہ تیزی سے گزر جاؤ، اور اونٹ کو چرنے کا موقع نہ دو، بلکہ اس کو چرنے کا موقع دو؛ تاکہ اس کا بھی حق ادا ہو۔ ہاں! اگر خشک علاقے سے گزرنا ہو تو تیزی سے گزر جاؤ تاکہ اگر اونٹ کو کھانے کی ضرورت ہو تو آگے جا کر کسی سبز علاقہ میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔

دورانِ سفر اہل خانہ کو کھلاتے پلاتے چلو

﴿اس تعلیم کو مددِ نظر رکھتے ہوئے یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان کو لے کر سفر کر رہے ہیں اور کسی ایسے علاقہ سے گزر رہے ہیں کہ جہاں کھانے پینے کی مناسب چیزیں مل رہی ہیں، بچے بھی ساتھ میں ہیں اور ان کا بھی جی چاہ رہا ہے؛ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بخل سے کام لیتے ہوئے کوئی چیز نہ خریدیں، بلکہ ان سب کو کھلاتے پلاتے چلو۔ یہ میرا استنباط ہے۔﴾

﴿”اور اس کا گودا ختم ہونے سے پہلے سفر پورا کرلو“ مطلب یہ ہے کہ سفر میں جانور کو اتنا نہ تھکاؤ کہ اس کے پیروں کی بڑیوں کا گودا بھی ختم ہو جائے۔ کسی بھی چیز سے اتنا زیادہ کام مت لو کہ اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، اگر جانور ہو تو تھک کر بے کار ہو جائے۔ یا مثلًاً موٹر کار ایسی ہے کہ چلانے کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے، تو اس کو اتنا مت چلاو کہ ان جن گرم ہو کر پھٹنے لگے؛ اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔﴾

﴿”اور جب تم رات کو سی جگہ پر قیام کرو تو راستہ سے ہٹ کر ٹھہرو“ اس زمانہ میں سفر کرتے کرتے تھک جاتے تھے تو راستہ میں کہیں قیام کر لیتے تھے، تو اس کے لیے یہ ہدایت دی ہے کہ راستہ سے ہٹ کر قیام کرے۔ اس لیے کہ راستہ تو گزرگاہ ہے، اگر آپ راستوں پر سو جائیں گے تو آنے جانے والوں کو تکلیف ہو گی، اس لیے راستہ سے ہٹ کر اپنے قیام و آرام کا انتظام کرو۔﴾

اب اگر کوئی یوں کہے کہ ہمارا پورا قالہ ہے، اس لیے کسی اور کا آنے جانے کا امکان ہی نہیں ہے۔ تو مجھ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان راستوں سے جس طرح انسان گزرتے ہیں اسی طرح یہ راستے جانوروں کی بھی گزرگاہ ہے، اور زمین میں جو کیڑے

مکوڑے ہوتے ہیں وہ بھی وہیں سے گزرتے ہیں۔ اس لیے جب راستوں سے ہٹ کر قیام کرو گے تو ان کی تکلیفوں سے بھی بچ سکو گے۔

نمازوں ہونے کا اندیشہ ہو؛ تو کیسے سوئے؟

۹۶۳:- وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ثَالِثَةَ عَالِمٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَعَرَّسَ يَلَيْلَهُ اضْطَجَعَ عَلَى يَمِينِهِ، وَإِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبَحِ نَصَبَ ذَرَاعَهُ، وَوَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى كَفِيهِ۔ (رواہ مسلم)

قالَ الْعَلَمَاءُ: إِنَّمَا نَصَبَ ذَرَاعَهُ لِغَلَّةِ يَسْتَغْرِقُ فِي الذَّوْمِ، فَتَفُوتُ صَلَاةُ الصُّبَحِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا۔

ترجمہ:- حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر میں ہوتے اور رات کو یہیں قیام فرماتے تو داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے (جیسا کہ سونے کا ادب اور مسنون طریقہ ہے) اور اگر صبح سے کچھ پہلے کہیں اترتے اور قیام فرماتے تو اپنے بازو اور کلاں کو کھڑا کر کے اپنی ہتھیلی پر سر کھکر لیتے (یعنی پورے لیٹ کر نہیں سوتے تھے)

افنادات:- مثلاً نجیر میں ایک گھنٹہ باقی ہے، اگر آپ اچھی طرح پڑکر سو جائیں گے، تورات بھر تو سفر کیا تھا، نتیجہ یہ ہو گا کہ نمازوں ہو جائے گی، یا قضاۓ ہو جائے گی، لہذا اگر اس وقت سونا ہی ہے تو ایسی نیند جو گھری ہو اور جس میں غفلت طاری ہو جائے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نبی کریم ﷺ نے یہ طریقہ بتالایا ہے، اس طرح سونے سے غفلت کی نیند نہیں ہو گی اور نماز کے فوت ہونے سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی ایسے وقت سونے کا ارادہ کر رہا ہو کہ دیر سے جانے کی وجہ سے نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی کوئی شکل اختیار کرنی

چاہیے کہ نماز فوت نہ ہو۔ اس لیے ایک شکل تو یہ ہے اگر سب کو لیٹ کر ہی سونا ہے تو اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو۔ جس کے متعلق اطمینان ہو۔ جان گنے کے لیے مقرر کرد یا جائے کہ صحیح صادق ہوتے ہی سب کو جگا دینے کی تمہاری ذمہ داری ہے، تاکہ سب لوگ وقت پر نماز پڑھ لیں۔

جب حضور اکرم صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی نماز قضا ہوئی

حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم ﷺ جب غزوہ خیبر سے لوٹ رہے تھے تو فجر سے کچھ پہلے آپ نے قیام فرمایا، اور حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر دیا کہ سب کو جگانے کی ذمہ داری تمہاری رہے گی، اور سب سو گئے۔ فجر میں زیادہ دیر نہیں تھی گھنٹہ دو گھنٹہ ہوں گے۔ اب حضرت بلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے سونے کے کجاوے سے اپنی کمر لگا کر مشرق کی طرف جہاں سے فجر کی روشنی نمودار ہوتی ہے چہرہ کر کے بیٹھ گئے کہ جیسے ہی صحیح کی روشنی نمودار ہو گی تو میں سب کو اٹھا دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر تھا اس لیے وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے، اور ایسے سوئے کہ سورج نکل گیا اور دھوپ تیز ہونے لگی لیکن ان کی آنکھیں کھلی۔ سب سے پہلے نبی کریم ﷺ اُٹھے، آپ نے حضرت بلاں کو آواز دی: بلاں! کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! میری بھی آنکھ لگی رہ گئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس جگہ سے ہٹو؛ یہ شیطان کی جگہ ہے۔ سب وہاں سے ہٹ کر دوسرا جگہ گئے اور وضو کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔

(بخاری شریف، باب الصَّعِيدُ الظَّبِيبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ يَكُفِي وَمِنَ الْمَاءَ، حدیث نمبر: ۳۳۱)

کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر آخری وقت میں سونا ہے تو آدمی ایسا انتظام کر کے سوئے کہ نماز فوت ہونے کی نوبت نہ آئے۔

رات کے وقت فاصلے لپیٹ دیتے جاتے ہیں

٩٦٢:- وَعَنْ أَنْسِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِاللَّذِي جَاءَتْهُ، فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّذِي لِلَّهِ الْعَلِيُّ . (رواہ أبو داود بسناد حسن) ((اللَّذِي جَاءَتْهُ)) : السَّيْرُ فِي الْلَّيْلِ .

ترجمہ:- حضرت انس بن علی عن فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اندر ہرے سے فائدہ اٹھاؤ؛ اس لیے کہ رات کے وقت زمین لپیٹ جاتی ہے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ سفر کا کچھ حصہ رات کے اندر ہرے میں بھی طے کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب بات رکھی ہے کہ اندر ہرے میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے، سفر زیادہ کٹ جاتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے۔

قیام قریب قریب کریں

٩٦٥:- وَعَنْ أَبِي ثَعَلْبَةَ الْحُشَنِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ قَالَ كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ ! فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا أَنْضَمَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ . (رواہ أبو داود بسناد حسن)

ترجمہ:- حضرت ابو ثعلبة خشنی بن علی عن فرماتے ہیں کہ (نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں) صحابہ جب سفر کے دوران کسی جگہ پر اترتے تھے تو گھاٹیوں اور وادیوں میں پھیل جاتے تھے (سب منتشر ہو جاتے تھے اور ہر ایک اپنا اپنا انتظام کر کے سونے کی جگہ کر لیتا تھا) تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر و متفرق ہو جانا، یہ شیطان کا اثر ہے (یعنی ایسا مرت کرو، بلکہ مل جمل کر رہو) حضرت ابو ثعلبة خشنی بن علی عن فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی اس ہدایت کے بعد حضرات صحابہ جب کہیں قیام کرتے تھے تو ایک دوسرے

کے قریب قریب اور مل جمل کر ہھہ رکرتے تھے۔

افادات: - اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سفر کے دوران کسی جگہ پر قیام کی نوبت آئے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آدمی یہاں ہے اور دوسرا اپنا سامان اور تھیلاں لے کر دوسرے کونہ میں چلا گیا، اور تیسرا اس سے آدھے فرلانگ دور جا کر پڑا ہوا ہے؛ بلکہ سب قریب قریب رہیں، تاکہ سب ایک دوسرے کی مدد کو پہنچ سکیں۔

رحمتِ عالم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی صفتِ رحمت کا ایک نمونہ

۹۶۶:- عن سهل بن عمرو - وقيل: سهل بن الربيع بن عمرو

الأنصارى المعروف بابن الحنظلىَّة، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ شَيْخُ الْمُتَّقِّى عَنْهُ
قالَ: مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ بِعِيرٍ قَدْ لَحَقَ ظَهُرُهُ بِيَطْلِبِهِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللّٰهَ فِي هَذِهِ
الْبَهَائِمِ الْمُعَجَّبَةِ، فَإِذَا كَبُوْهَا صَالِحَةٌ، وَكُلُّوْهَا صَالِحَةٌ۔ (رواہ أبو داود بسناد صحيح)

ترجمہ: - حضرت سہل بن عمرو المعروف بابن الحنظلیہ شَيْخُ الْمُتَّقِّى میں سے منقول ہے اور وہ اہل بیعتِ رضوان میں سے ہیں کہ نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کی پیٹھ پیٹھ سے مل چکی تھی (یعنی بہت دبلا ہو گیا تھا۔ اس کے ماک نے اس کو کھانا پینا برا بر نہیں دیا ہوگا) تو نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ان گونگے اور بے زبان جانوروں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان پر سواری بھی کرو تو ایسی حالت میں کہ وہ سواری کے لائق ہوں، اور ان کو کھاؤ تو ایسی حالت میں کہ وہ کھانے کے لائق ہوں۔

افادات: - صحابہ کرام رضوانا اللہ علیہم السَّلَامُ میں سب سے اوپر امرتبہ اصحاب بدر کا ہے، ان کے بعد دوسرے نمبر پر اہل بیعتِ رضوان کا ہے، اسی لیے محمد شین کی بھی یہ عادت رہی ہے کہ کوئی صحابی بدری، یا اہل بیعتِ رضوان میں سے ہوتا ہے؛ تو اس کے

نام کے ساتھ عام طور پر اس کا بھی تذکرہ کر دیتے ہیں۔

ارشادِ نبوی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو برابر کھلا و پلا وہ تاکہ وہ ہٹے کئے رہیں، اور ایسی حالت میں ان پر سواری کرو۔ اور اگر کھانا ہوتب بھی ان کو کھلا پلا کر ہٹے کئے بناؤ، پھر ذبح کر کے کھاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا دبلا پتلا ہو جائے کہ ادھر سے سوئی ڈالتو ادھر نکل جائے، اور صرف ہڈی اور چمڑا رہ گیا ہے؛ پھر کاٹ کر کھاؤ۔

اسلام نے جانوروں کا بھی حق بتایا ہے۔ جو جانور کا مالک ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے حقوق کو ادا کرے۔ آپ نے سنہ ہوگا مشہور روایت ہے کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، اس کو چھوڑتی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے طور پر اپنی غذا تلاش کر لیتی، اور اس کے کھانے پینے کا بھی برابر انتظام نہیں کیا تھا، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں ڈالا۔ (بخاری شریف: باب فضل سقی الماء)

اور ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرمادی، اور اس کو جنت میں داخل کیا۔ صحابہ کرام رض نے اسی موقع پر نبی کریم ﷺ سے پوچھا تھا: «یا رَسُولَ اللَّهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟» ان جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا: «فِي كُلِّ ذَاتٍ كِبِيرٍ طَبِيعَةً أَجْرٌ» ہر تجھروالے یعنی جاندار کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ثواب ملے گا (بخاری شریف: باب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ)، اگر کتنے کو بھی پانی پلاوے گے تو اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔

نبی کریم ﷺ کی خدمت میں اونٹ کی فریاد
۷۹۶:- وَعَنْ أَبِي جعْفَرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ جعْفَرٍ رض قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ

اللَّهُ مَنْتَهِيَ إِلَيْهِ ذَاتٌ يَوْمٌ خَلْفُهُ، وَأَسَرَّ إِلَىٰ حَدِيثًا لَا حَدِيثٌ بِهِ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا سَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَنْتَهِيَ إِلَيْهِ حَاجَتِهِ هَدْفُ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ. يَعْنِي: حَائِطُ نَخْلٍ.

(رواہ مسلم. هکذا مختصر)

وَزَادَ فِيهِ الْبَرْقَانِي يَأْسِنَادَ مُسْلِمٍ - بَعْدَ قَوْلِهِ: حَائِشُ نَخْلٍ - فَدَخَلَ حَائِطًا لَّيْرَ جُلٍّ مِّنَ الْأَنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمْلٌ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ مَنْتَهِيَ إِلَيْهِ جَرْ جَرْ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ مَنْتَهِيَ إِلَيْهِ، فَمَسَحَ سَرَّاتُهُ - أَيْ: سِنَامَهُ - وَذَفَرَاهُ فَسَكَنَ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ لَمْ يَعْلَمْ هَذَا الْجَمَلُ؛ فَجَاءَ فَتَمَّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: هَذَا لِي يَأْسُورُ اللَّهُ، قَالَ: أَفَلَا تَتَسْقِي اللَّهُ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَكَ اللَّهُ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّهُ يَشْكُو إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيَعُهُ وَتُدْرِبُهُ.

(رواہ أبو داود برواية البرقاني)

قَوْلُهُ ((ذَفَرَاهُ)): هُوَ بَكْسُرُ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَسَكَانُ الْفَاءِ، وَهُوَ لِفَظٌ مُفْرَدٌ مُؤْنَثٌ. قَالَ أَهْلُ الْلُّغَةِ: الْذِفْرُ: الْمَوْضِعُ الَّذِي يَعْرَقُ مِنَ الْبَعْيرِ حَلْفَ الْأَدْنِ، وَقَوْلُهُ: ((تُدْرِبُهُ)) أَيْ: تَتَعَبِّهُ.

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما مسی مقول ہے کہ نبی کریم مسی مختصر نے ایک روز مجھے اپنے پیچھے بٹھالیا، اور ایک بات بطور از کے مجھ سے ارشاد فرمائی جو میں کسی کو نہیں بتلاوں گا۔ اور نبی کریم مسی مختصر جب قضاۓ حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو کسی آڑ والی جگہ میں جانا پسند فرماتے تھے۔ اس موقع پر بھی آپ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو ایک اونٹ کو دیکھا۔ جب اس اونٹ نے نبی کریم مسی مختصر کو دیکھا تو وہ بڑا بڑا یا (یعنی اس نے آواز نکالی) پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ نبی کریم مسی مختصر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سکون دلانے کے لیے اس کی کوہاں اور کان کے پچھلے حصہ پر آپ نے ہاتھ پھیرا جس سے وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے رونا بند کر دیا۔ پھر آپ نے پوچھا: اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری

نوجوان آگے بڑھا اور کہا: اے اللہ کے رسول! یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ان جانوروں کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جن کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تو اسے بھوکار کھتا ہے اور (کام کرنے میں) تھکا دیتا ہے۔

حضرور اکرم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے مشاہد صحابی

افدادات: - یہ عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب ہیں۔ حضرت جعفر بن علیؑ نے مجی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے پیچازاد بھائی ہیں، بھرت کر کے عبشه گئے تھے اور وہاں مسلمانوں کے سردار تھے، پھر فتح خیر کے موقع پروہاں سے مسلمانوں کی جماعت کو لے کر لوٹے، اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے صاحبزادے عبد اللہ بن جعفر بن علیؑ ہیں، یہ بھی صحابی ہیں اور شکل و شباہت میں مجی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے بہت زیادہ مشاہد تھے۔

یہاں تو یہ روایت اس لیے لائے ہیں کہ ان کو مجی کریم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ نے اپنی سواری پر پچھے سوار فرمالیا۔ اس باب کے عنوان میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر سواری کے جانور میں ایک سے زیادہ سوار کا بوجھ برداشت کرنے کی طاقت ہو تو دوسرے کو بھی اپنے ساتھ سوار کر سکتے ہیں۔

اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے جانور سے بھی اس کی طاقت کے مطابق کام لینا چاہیے، وقت پر اس کو کھانا دینا چاہیے۔ اب ذرا سوچو کہ جانور کو کھانا نہ دیں پر یہ تنبیہ فرمائی جا رہی ہے؛ تو جو لوگ اپنے بیوی بچوں کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے اور قصداً اس کی طرف سے غفلت برتنے ہیں؛ ان کے لیے کیا وعدہ ہوگی!

منزل پر پہنچتے ہی سواری سے سامان اتنا ردو

۹۶۸: - وَعَنْ أَنْسٍ نَبَّأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: كُنْتَ مَإِذًا نَزَّلْنَا مَنْزِلًا، لَا نُسَيِّحُ حَتَّى

مَحْلُ الرِّحَالٍ. (رواہ ابو داؤد یا سناد علی شرط مسلم)

وَقُولُهُ: ((لَا نُسِّيْحُ)): أَنِّي لَا نُصِّلِ النَّافِلَةَ، وَمَعْنَاهُ: أَنَّا - مَعَ حِزْرٍ صَنَّا عَلَى الصَّلَاةِ - لَا نُقْدِمُهَا عَلَى حَطِّ الرِّحَالِ وَإِرَاحَةِ الدَّوَابِ.

ترجمہ:- حضرت انس بن مالک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی جگہ اترنے تھے تو نمازوں کو نہیں کرتے تھے جب تک کہ جاؤ نہ کھول دیں (یعنی پہلے کجاوے کھول کر اونٹوں کو فارغ کر دیتے تھے)۔

افادات:- اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے کہ سواری کے جانور کے اوپر اگر کچھ بوجھ ہے، تو جب اپنی منزل پر پہنچو، تو پہلا کام یہ کرو کہ اس کے اوپر سے بوجھ اتار دو، تاکہ وہ فارغ ہو کر ہلاکا ہو جائے اور اس کو سکون ہو جائے۔ اگر اس کے اوپر بوجھ لا دا ہوائے، اور آپ لوگوں سے مصالحہ اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، نمازوں پڑھ رہے ہیں؛ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور یہ بات اپنی منزل پر پہنچ جانے کی ہے، درمیان سفر کی نہیں ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ سواری کے جانور پر بوجھ لا دا ہوا ہونے کی حالت میں دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ جانور کو تکلیف دینے والی بات ہے، اس کو شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اور یہ بھی آداب میں سے ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَاب إِعَانَة الرَّفِيقِ

سَاتْھِی کی مدد کرنا

سفر کے آداب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ عنوان ہے: ”بَاب إِعَانَة الرَّفِيقِ“ سفر کے ساتھی اور رفقاء کی مدد کرنا۔ مطلق مدد کے سلسلہ میں ایک روایت پہلے بھی گزر چکی ہے جس میں نبی کریم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ: جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے تو تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتے ہیں۔

سفر میں ہر زائد چیز حاجت مند کو دیدے

۹۶۹:- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَأْحَلَةٍ لَهُ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشَمَالًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلٌ ظَهَرٌ فَلَيُعْدِيهَ عَلَى مَنْ لَا ظَهَرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ زَادَ فَلَيُعْدِيهَ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ. فَذَكَرَ مَنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَهُ، حَتَّى رَأَيْنَا، أَذْهَبَ لَا حَقَّ لَا حَدِيدَ مِنَّا فِي فَضْلٍ. (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں تھے ایک آدمی اپنی اونٹ کے اوپر سوار آیا اور اپنی نگاہیں دائیں بائیں پھیرنے لگا (ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ضرورت مند تھا اور کسی ایسے آدمی کو تلاش کر رہا تھا جو اس کی مدد کرے) نبی کریم ﷺ نے اس کی مدد کرنے کے لئے اس کو دیدے۔

نے ارشاد فرمایا: جس کے پاس زائد سواری ہو، وہ ایسے آدمی کو دیدے جس کے پاس سواری نہ ہو (مثلاً: کسی کے پاس دواونٹ یا دو گھوڑے ہوں، وہ) اپنے رفقاء میں جس کے پاس سواری نہیں ہے اس کو دیدے، اور اگر کسی کے پاس تو شہزادند ہو تو اپنے ایسے بھائی کو دیدے جس کے پاس تو شہزاد ہو (حضرت ابو سعید خدری رض عن عَنْ أَبِيهِ الْأَنْصَارِ فَرَمَّاَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّمَا تَنْهَاكُ عَنِ الْمُحْرَمَةِ مَا يَرِيدُ الْمُحْرَمَةُ) اس موقعہ پر صرف سواری اور تو شہزاد کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ سفر میں ضرورت کی جتنی چیزیں ہوا کرتی ہیں ان سب کا اسی انداز میں تذکرہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز غُنْتَقَوْ سے ہمیں ایسا انداز ہوا کہ جس کسی کے پاس جو بھی چیز زائد ہے اس میں اس کا کوئی حق ہے، ہی نہیں۔

افادات:- جیسے: جس کے پاس پانی زیادہ ہو، وہ اس کو دے جس کے پاس پانی نہیں ہے، اگر برتن زائد ہوں تو وہ اپنے بھائی کو دے جس کے پاس برتن نہیں ہیں، اگر کپڑے زائد ہوں تو وہ اپنے اس بھائی کو دے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اگر جوتے زائد ہوں تو وہ اپنے اس بھائی دیدے جس کے پاس جوتے نہیں ہیں۔ اس ارشاد سے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس جو چیز بھی زائد ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھنے رہے، بلکہ اپنا جو بھائی اس چیز کا ضرورت مند ہے اس کو دیدے۔ آدمی کو اپنا مزاج اسی نوع کا بنانا چاہیے۔ اگر وہ چیز ہماری ضرورت میں استعمال ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن جو چیز زائد ہو، اپنے استعمال کی نہ ہو تو بہت سے ایسے بھائی مل جائیں گے جن کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے وہ تکلیف و مشقت میں بستلا ہیں، خاص طور پر سفر میں اس بات کا اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔

دوسروں کا بھی خیال رکھ

۹۷۔ وَعَنْ جَابِرٍ رض عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ، فَقَالَ

بِيَمَعْشَرِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ إِنْ مِنْ إِخْوَانِكُمْ قَوْمًا لَّيْسَ لَهُمْ مَالٌ وَلَا
عَشِيرَةٌ فَلَيَضْمُمْ أَحْدُ كُمَرٍ إِلَيْهِ الرَّجُلَيْنِ أَوَالثَّلَاثَةَ فَمَا لِأَحَدٍ نَّا مِنْ ظَاهِرٍ يَجْمِلُهُ
إِلَّا عَقْبَةٌ كَعْقَبَةٍ يَعْنِي أَحَدُهُمْ قَالَ فَضَمَّمْتُ إِلَيَّ اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ مَا لِي إِلَّا
عَقْبَةٌ كَعْقَبَةَ أَحَدِهِمْ مِنْ جَمِيلٍ

ترجمہ:- حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک مرتبہ کسی جہاد میں جانے کا فیصلہ کیا تو مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے مہاجرین اور انصار کی جماعت! تمہارے بھائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے، نہ خاندان ہے (کہ خاندان والے ان کی مدد کریں) اس لیتم میں سے جس کے پاس سواری ہو؛ وہ ایسے دو یا تین آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم میں سے جن کے پاس سواری تھی ہم ان کو باری باری سوار کر لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ دو یا تین ساتھیوں کو ملا لیا اور میرے اس اونٹ میں خود میرا بھی اتنا ہی حصہ تھا جتنا میرے ان ساتھیوں کا تھا (یعنی حتیٰ دریوہ سوار ہوتے تھے اتنی ہی دیر میں بھی سوار ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ سواری کا مالک ہونے کی حیثیت سے میں اپنے لیے سواری کا حق زیادہ رکھوں)

افادات:- ظاہر ہے کہ جہاد میں جانے کے لیے تو شہ سواری، ہتھیار اور جو چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں ان کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو لوگ جہاد میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان میں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سواری نہیں ہوتی، بہت سوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوتے؛ ایسے موقعہ پر نبی کریم ﷺ کی عادتِ شریفہ یہ تھی کہ جہاد میں جانے سے پہلے لوگوں کو مدد کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقعہ پر بڑی تنگی کا وقت تھا تو نبی کریم ﷺ نے لوگوں کو اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی

ترغیب دی کہ جو لوگ اللہ کے راستہ میں جہاد میں جا رہے ہیں، ان کو دو؛ تاکہ جو لوگ نادار ہوں ان کو دے کر ان کو بھی جہاد کے لیے تیار کیا جائے۔

☒ ”هم میں سے جن کے پاس سواری تھی، ہم ان کو باری باری سوار کر لیتے تھے“
جیسے غزوہ بدرا کے موقعہ پر نبی کریم ﷺ جس اونٹ پر سوار ہوتے تھے اس پر اور دو صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوال芭ہ رضی اللہ عنہ کو باری باری سوار فرمالیا کرتے تھے۔

امیر ہر فیق کی فکر کرے

۱۷۹:- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلَهُ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ فِي الْمَسِيرِ، فَيُزُّهُ
الضَّعِيفُ، وَيُرِدُّ فَوَيْدَعُهُ . (رواہ أبو داؤد سناد حسن)

ترجمہ:- حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سفر میں پیچھے رہ جاتے اور (جو) کمزور (پیچھے رہ جاتا اس کو) آگے بڑھاتے اور جس کی سواری کام نہ کر رہی ہوتی، اس کو اپنے پیچھے بٹھا لیتے تھے، اور اس کے لیے دعا بھی فرمادیتے تھے۔

افادات:- اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو امیر ہو، اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے رفقاء میں سے کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور اگر کوئی اپنی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہو، تو جب تک اس کو آگے نہ بڑھادے، وہاں تک امیر خود آگے نہ بڑھے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر کے دوران اپنے رفقاء اور ساتھیوں کے ساتھ تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے۔ اپنا سامان اگر چڑھا دیا ہے تو اپنے ساتھیوں کا سامان رکھنے میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ مَا يَقُولُ أَذْارُ كَبَ الْدَّاْبَةِ لِلصَّفَرِ

سفر میں جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے:

تُوكِيادِ عَابِرٍ هُوَ؟

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكُبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَيْ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ۔ (الزخرف: ۱۲، ۱۳)

باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کشتمیاں، چوپائے اور مویشی پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو، تاکہ جب تم ان کی پشت پر اچھی طرح سوار ہو جاؤ؛ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو اور یہ دعا پڑھو: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَيْ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ﴾ (ترجمہ) پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارے لیے مستخر اور تابع کر دیا اور ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے (جیسے: گھوڑا، ہاتھی، اونٹ اور بیل یا جن جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے) اللہ تعالیٰ نے ان کا جسم اس نوع کا بنایا ہے کہ اگر وہ انسان کو ختم کرنا چاہیں تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے لیے ایسا مستخر کر دیا ہے کہ انسان اپنے فائدہ کے لیے جس طرح چاہتا ہے ان کو

استعمال کرتا ہے۔ درحقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے اور یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔)

﴿وَإِنَّا إِلَيْ رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ﴾ اور (جس طرح اس وقت ہم ایک سفر میں روانہ ہو رہے ہیں اسی مناسبت سے آخرت کی یاد دلائی کہ ایک بہت بڑا سفر آخرت کا درپیش ہے اس کو یاد کرو کر) ہم ایک دن ہمارے رب کی طرف لوٹ کر حبانے والے ہیں (گویا سفر کے موقع پر آدمی یہ بھی یاد رکھے۔)

۹۷۲ - وَعَنْ أَبْنَ عَمْرِ بْنِ شِعْبَنَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرٍ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَيْرَثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا مَعْنَى لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا الْمُنْقَلِبُونَ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَرَّ وَالْتَّقْوَى، وَمِنَ الْعِلْمِ مَا تَرْضِي، اللَّهُمَّ هَوْنَ عَلَيْنَا سَفَرُ هَذَا، وَاطْلُو عَنَّا مُبْعَدَةً. اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكُلَّبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَ اللَّهُنَّ وَرَأَكَ فِيهِنَّ: آئِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ. (رواہ مسلم) معنی ((مُقرِنِین)): مُطِيقِین، و ((الوَعْشَاء)): بفتح الواو و اسکان العین المهملاة وبالشاء المثلثة وبالمد و هي: الشِّدَّة و ((الکَابَة)) بالياء و هي: تَغْيِيرُ التَّقْفِيسِ مِنْ حُزْنٍ وَخُوْجَةٍ و ((الْمُنْقَلَب)): المُرْجُعُ.

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے تشریف لے جاتے اور اپنے اونٹ کے اوپر اچھی طرح بیٹھ جاتے تھے تو تین مرتبہ اللہ اکابر پڑھتے تھے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے:- (ترجمہ) پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو

ہمارے لیے مسخر اور تابع کر دیا اور ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ہم ایک دن ہمارے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ! ہم ہمارے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور فرمانبرداری، اور گناہوں سے حفاظت کا سوال کرتے ہیں (یعنی نیک کام کی مجھے توفیق ہوتی رہے اور گناہوں سے بچتا رہوں) اور ایسے عمل کی توفیق ملے جس سے تو راضی ہو، اے اللہ! ہمارے اس سفر کو تو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اس کی دوری کو ہمارے لیے لپیٹ دے (یہ سفر ایسا آسان کر دے کہ جلدی سے طے ہو جائے) اے اللہ! ہمارے اس سفر میں تو ہی ہمارا رفیق ہے، اور ہمارے گھر والوں کا تو ہی محافظ ہے (ہماری غیر موجودگی میں گھر والوں کی توحفاظت کرنے والا ہے۔ اس لیے کہ آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو اس کو یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ میری غیر موجودگی میں گھر میں پہنچنے کیا صورت پیش آئے گی؟ اس لیے اپنی غیر موجودگی میں اللہ تعالیٰ ہی سے محافظت بن جانے کی درخواست کی حبار ہی ہے) اے اللہ! میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقت اور پریشانی سے (عام طور پر سفر میں تکلیف و پریشانی پیش آتی ہے، اس سے حفاظت کی دعا مانگی جا رہی ہے) اور برے منظر سے، اور برے لوٹنے سے مال میں، اور گھر میں اور اولاد میں (مطلوب یہ ہے کہ اس سفر میں کوئی ایسی چیز پیش نہ آئے جو تکلیف دہ ہو۔ اور اسی طرح جب واپس لوٹوں تو گھر والوں میں مال و اولاد میں بھی کوئی بڑی چیز یا بڑی حالت دیکھنے کی نوبت نہ آئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر سے واپس لوٹتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کے ساتھ یہ صورت پیش آئی؛ تو اس سے بھی پناہ چاہی گئی) جب نبی کریم ﷺ سفر سے واپس لوٹتے تھے تو اس وقت بھی ان کلمات کو پڑھتے تھے اور یہ اضافہ فرماتے تھے: ”آئِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لَرِبِّنَا حَامِدُونَ“ ہم واپس لوٹ رہے ہیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و محمد بیان کرتے ہیں۔

ان دعاؤں کا بھی اہتمام ہو

٩٧٣:- وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْشَاءِ السَّفَرِ، وَكَأْبَةَ الْمُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرَ بَعْدَ الْكَوْنِ، وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ۔ (رواہ مسلم)

ہکذا ہو فی صحیح مسلم: ((الْحَوْرَ بَعْدَ الْكَوْنِ)) بالنوون، وَكذا رواه الترمذی والنسائی. قال الترمذی: وَرَوَوْا ((الْكَوْنُ)) بِاللَّاءِ، وَكَلَاهَالَّهُ وَجْهَهُ۔

قال العلماء: وَمَعْنَاهُ بِالنُّوْنِ وَالرَّاءِ بِجَمِيعِهِ: الرُّجُوعُ مِنَ الْاسْتِقَامَةِ أَوِ الْإِزِيَادَةِ إِلَى النَّقْصِ۔ قالوا: وَرِوَايَةُ الرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ تَكْوِيرِ الْعِيَامَةِ وَهُوَ لَفْهَا وَبِجَمِيعِهَا وَرِوَايَةُ النُّوْنِ، مِنَ الْكَوْنِ، مَصْدَرُ كَانَ يَكُونُ كَوْنًا: إِذَا وَجَدَ وَاسْتَقَرَ.

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے سفر کی مشقت، اور لوٹنے کی تکلیف، حالات کی درتنگی کے بعد تبدیلی پیدا ہو جانے سے (یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں اور پھر برائی آجائے) مظلوم کی بد دعا سے (یعنی ایسا نہ ہو کہ سفر میں مجھ سے کسی پر کوئی ایسی زیادتی ہو جائے کہ وہ بد دعا دیے) اور برے منظر سے اپنے گھروں اور مال میں (یعنی سفر سے واپسی میں کوئی ایسی چیز دیکھنے کی نوبت آنے سے حفاظت کی دعا مانگی گئی)۔

افادات: - دیکھو! ہم سفر میں سہولت کے لیے اپنے طور پر جہاں بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں؛ وہیں ان دعاؤں کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ سفر کی سہولت اور مشقت، پریشانی اور تکلیف سے بچنے کے جتنے بھی اسباب آدمی اختیار کرتا ہے، ان تمام اسباب میں تاثیر ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے

اصل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس باب و سائل پر اعتماد اور بھروسہ کر کے نہ بیٹھے، چاہے کیسی ہی تیاریاں کیوں نہ کی ہوں، کیسے ہی سامان سہولت و راحت و آسانی کے آپ نے مہیا کیوں نہ کئے ہوں۔ اس کے باوجود ان پر اعتماد کرنے کے بجائے رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور سارا اعتماد اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت اور اس کے فضل و کرم پر ہو۔

سفر کی دعا پر مغفرت

۹۷۲ - و عن علی بن ربيعة، قال: شهدت على بن أبي طالب رضي الله عنه عن أُبی يَدَابَةِ لِیَزَّ کَبَهَا، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الِّکَابِ، قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا أَسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهِ، قَالَ: أَحْمَدُ اللَّهُوَالَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رِبِّنَا لَمْنَقِلِبُونَ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي إِذْهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبُ إِلَّا أَنْتَ، ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَيْلَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: زَأْيُثُ النَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ؟ قَالَ: ((إِنَّ رَبَّكَ تَعَالَى يَعْجَبُ مِنْ عَبْدٍ إِذَا قَالَ: اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، يَعْلَمُ أَذْهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرِي))

رواہ أبو داود والترمذی. وقال: (حدیث حسن). وفي بعض النسخ: (حسن صحيح). وهذا الفظ أَبَدَ داود.

ترجمہ: - حضرت علی بن ربيعة رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضي الله عنه کے پاس موجود تھا، ان کے پاس سواری کا جانور لا یا گسیا تاکہ اس پر سوار ہوں، جب انہوں نے رکاب میں اپنا پاؤں رکھا تو بسم اللہ پڑھی (اس سے معلوم ہوا کہ آج کل اگر بس، ٹرین یا کسی

بھی سواری پر سوار ہونے کے لیے آدمی جب اندر پاؤں رکھے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے اور جب اچھی طرح سوار ہو گئے تو یہ دعا پڑھی: "الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رِبِّنَا لَمُنْقَلِّبُونَ" اس کے بعد تین مرتبہ "الحمد لله" پڑھا۔ اس کے بعد تین مرتبہ "اللہ اکبر" پڑھا۔ اس کے بعد پڑھا "سبحانَكَ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ" (ترجمہ) اے اللہ! تیری ذات پاک ہے، میں نے گناہوں کے ذریعہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ یہ دعا پڑھ کر حضرت علی بن ابی القاسم علیہ السلام مسکراۓ۔ ان سے پوچھا گیا کہ: آپ کس بات پر مسکراۓ؟ حضرت علی بن ابی القاسم علیہ السلام نے فرمایا: میں نے می کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح کیا جیسا کہ میں نے ابھی کیا، اور پھر آپ بھی اسی طرح مسکراۓ تھے، تو میں نے پوچھا تھا: اے اللہ کے رسول! آپ کیوں مسکراۓ؟ تو حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا: جب بندہ "أَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي" کہتا ہے (اے اللہ! تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تیرے سوا میری مغفرت کوئی نہیں کر سکتا) تو اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ: ہاں! میرا بندہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ اس کے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ (بس! خوش ہو کر اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر دیتے ہیں)۔

افنادات:- یہ حضرات صحابہ کا مکمال اتباع ہے۔ اور احادیث کو یاد رکھنے کا سب سے مضبوط طریقہ یہی ہے۔ دین کی جتنی بھی باتیں آدمی سنتا ہے ان کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے مطابق عمل کرے، جب کسی بات پر چند مرتبہ عمل کرے گا تو پھر وہ بات کبھی بھول نہیں سکتا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ تَكْبِيرِ الْمَسَافِرِ إِذَا صَعَدَ الثَّنَاءِ وَشَبَهُهَا

وَتَسْبِيحُهُ إِذَا هَبَطَ الْأَوْدِيَةُ وَنَحْوُهَا

وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُبَالَغَةِ بِرْفَعِ الصَّوْتِ بِالْتَّكْبِيرِ

مَسَافِرُ دُورَانٍ سَفَرٌ جَبَ كُسْتِيْلَهُ يَا اوپچی جگہ پر چڑھتے تو

اللَّهُ أَكْبَرُ پڑھے، اور جب نیچی جگہ اتر رہا ہو تو سبحان اللہ کہے

اوْرَجَبَ بُھْمی کوئی ذَکْرَ کرَے تو آہستہ آواز میں کرے

۹۷۵ - عن جابر بن شعيب عن عائشة قالت: كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.

(رواہ البخاری)

ترجمہ:- حضرت جابر بن شعیب عن عائشہ قالت: کننا اذَا صَعَدْنَا کَبَّرْنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا۔ (کوئی بھی سفر ہو، حج و عمرہ کا، جہاد کا، یا تھیارت کا ہو) جب ہم کسی اوپچی جگہ پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب کسی نیچی جگہ پر اترتے تھے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔

افادات:- یہ بھی سفر کے آداب میں سے ہے۔ حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہوئے جگہ جگہ پر ”اللہ اکبر“ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، وہ ایسی ہی جگہ ہوتی ہے جہاں چڑھائی آتی ہے، اور کہیں ”سبحان اللہ“ لکھا ہوا ہوتا

ہے، وہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں سے نیچے اترنا ہوتا ہے۔

۶۷:- وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ بْنِ شِعْبَانَ قَالَ: كَانَ اللَّهُ بْنُ عَيْنَةَ وَجِيُوشُهُ إِذَا عَلَوْا

الشَّنَآيَا كَبَرُوا، وَإِذَا هَبَطُوا سَبَحُوا۔ (رواہ أبو داود بیساند صحیح)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر بن شعبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ اور آپ کے لشکر والے جب دورانی سفر کسی اونچائی اور میلہ وغیرہ پر چڑھتے تھے تو اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ اور جب کہیں نیچائی کی طرف اترتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔

افادات:- مطلب یہ ہے کہ سب کو کہنا چاہیے کہ ایک کا کہنا سب کی طرف سے کافی نہیں ہے۔ ہر ایک کو دعاوں اور تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔

۶۸:- وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ اللَّهُ بْنُ عَيْنَةَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمَرَةِ، كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنَيَّةِ أَوْ فَدْفِيٍّ كَبَرَ ثَلَاثَةً، ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آئِيُونَ، تَائِيُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ وَحْدَهُ۔ (متفقٌ علیہ)

وفی رواية لمسلم: إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجِيُوشِ أَوِ السَّرَّاِيَ أَوِ الْحَجَّ أَوِ الْعُمَرَةِ۔
قوله: ((أَوْفَى)) أَنِي: ارْتَفَعَ، وَقَوْلُه: ((فَدْفِي)) هُوَ بفتح الفاءين
 بینہما دال مھملة ساکنۃ، وآخرہ دال اخری وہو: ((الْغَلِيظُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْض)).

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عمر بن شعبان فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب حج یا عمرہ سے لوٹتے تھے، اور مسلم شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جب آپ ﷺ لشکر کے ساتھ جہاد سے لوٹتے تھے تو (دورانی سفر) جب کسی اونچی جگہ یا میلہ کے اوپر آپ چڑھ رہے ہوتے تھے،

تین مرتبہ ”اللہ اکبر“ پڑھتے تھے۔ اور پھر پڑھتے تھے: (ترجمہ) اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی یکتا اور تہاہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری حکومت اور ملک اسی کا ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توبہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے مسجدہ ریز ہوتے ہیں، اور اللہ ہی کی حمد و ثناء بیان کرتے ہیں، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھلایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اور تمام لشکروں کو تنہا شکست دی۔

افادات: - غزوہ احزاب کے موقعہ پر اللہ تعالیٰ نے جو مدد فرمائی تھی، اسی کے نتیجہ میں تمام لشکر شکست کھا کر واپس لوٹے تھے، حضور اکرم ﷺ نے اپنی اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی اسی مدد اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔

۹۷۸: - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ فَأَوْصِنِي، قَالَ: عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَاللَّهُ كَبِيرٌ عَلَى كُلِّ شَرٍّ فَلَمَّا وَلَّ الرَّجُلُ، قَالَ: اللَّهُمَّ اطْلُلُهُ الْبَعْدَ، وَهُوَ عَلَيْهِ السَّفَرُ.

(رواہ الترمذی، وقال: حدیث حسن)

ترجمہ: - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے می کریم ﷺ سے درخواست کی: اے اللہ کے رسول! میں سفر میں جا رہا ہوں آپ مجھے نصیحت فرمائیے۔ می کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ کا تقوی، اس کا خوف اور ڈر لازم پکڑو، اور ہر اونچی جگہ پر اللہ اکبر کہو۔ جب وہ چلا گیا تو آپ ﷺ نے دعا کی: اے اللہ! اس کی دوری لپیٹ لے، اور اس کے سفر کو آسان کر دے۔

۹۷۹: - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: قَالَ: كَنَامَحَ النَّبِيُّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَكُنَّا إِذَا أَشَرَّفْنَا عَلَى وَادٍ، هَلَّلَنَا وَكَبَّرَنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصْمَمَ وَلَا غَائِبًاً،

إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ (متفق علیہ) ((ا ربُّعُوا)) بفتح الباء الموددة أمنی:
ا رُفُقو ا بِأَنْفُسِكُمْ۔

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے (غزوہ خیبر سے والپسی کا قصہ ہے) جب ہم کسی وادی میں اونچائی پر چڑھتے تو ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ كَبِيرٌ“ پڑھتے تھے (اس روایت میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کا اضافہ ہوا) اور ہماری آوازیں بہت بلند ہوتی تھیں (ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زحمت و تکلیف میں ڈالے بغیر معمول کے مطابق بلند آواز سے پڑھے؛ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایسی بلند آواز جس میں خود پڑھنے والا بھی مشقت میں پڑ جائے، جس کو ہمارے یہاں چلانے سے تعبیر کرتے ہیں؛ تو اس کی اجازت نہیں ہے) تو نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! اپنے اوپر زرمی اور آسانی کرو (معلوم ہوا کہ وہ لوگ آواز بلند کرنے میں بہت زیادہ مبالغہ سے کام لے رہے تھے) تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو جو بہری اور غائب ہو، بلکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے، سننے والی اور قریب ہے۔

افادات:- اس لیے کہ زور سے آواز لگانے کی ضرورت دو میں سے کسی ایک وجہ ہی سے پیش آتی ہے، یا تو جس کو پکار رہے ہیں وہ بہرہ ہے اس لیے زور سے اور عام معمول سے بلند آواز سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، یا جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ دور ہے، تو اگر ہم آہستہ یا عام معمول کے مطابق بولیں گے تو وہ سن نہیں پائے گا، اس لیے ہمیں ذرا بلند آواز سے بولنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تحضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جونہ دور ہے اور نہ بہرا ہے، بلکہ قریب ہے اور سننے والا ہے؛ اس لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِي السَّفَرِ

سفر میں دعا کا مستحب ہونا

مسافر کو چاہیے کہ سفر میں دعاؤں کا اہتمام کرے، اس لیے کہ قبولیت اور اجابتِ دعا کی جو حالت اور اوقات بتائے ہیں، جیسے: لیلۃ القدر، جمعہ کے دن میں کوئی ایک ساعت اور گھنٹی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، افطار کا وقت۔ اسی طرح بعض مقامات بیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے: مطاف میں، ملتزم پر، صفا اور مرودہ پر۔ اسی طریقہ سے بعض حالات میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، انہیں میں سے ایک حالت سفر کی بھی ہے، اس لیے سفر میں بھی دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس موقعہ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی جب سفر میں ہوتا ہے تو روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، آدمی بالکل فارغ ہوتا ہے؛ تو پڑھنے پڑھانے اور دعائیں مشغول رہنا چاہیے، بے کار چیزوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بعض لوگ سفر میں وقت گزارنے کے لیے گانے سنتے ہیں، اور دوسری لغویات میں مصروف رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ٹائم پاس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں اس چیز کی طرف متوجہ کیا گیا کہ دعا کا اہتمام کرے۔ ویسے بھی یہ حالت دعا کی قبولیت کی ہے تو اپنے لیے، اہل خاندان اور پوری امت کے لیے خوب دعا نہیں کرے۔

تین دعا سمجھیں قبول ہی ہوتی ہیں

۹۸۰:- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بْنِ أَشْعَلَّ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ثَلَاثُ

دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٍ لَا شَكَ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ رواهُ أبو داود والترمذی. وقال: ((حدیث حسن)). ولیس فی روایة أبي داود: ((عَنْ وَلَدِهِ)) ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین دعاؤں کے قول ہونے میں کوئی شک اور تردید نہیں۔ [۱] مظلوم کی دعا [۲] مسافر کی دعا [۳] باپ کی بدعا اپنے بیٹے کے لیے۔

افادات:- ان تینوں حالتوں میں انکساری اور رجوع و اناہت کی ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے:-

[۱] مظلوم:- جس پر ظلم وزیادتی کی گئی ہو تو ظاہر ہے کہ ظلم کے نتیجہ میں اس کی طبیعت میں انکساری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و اناہت کی کیفیت پائی جاتی ہے۔

[۲] مسافر:- ظاہر ہے کہ گھر پر رہتے ہوئے جو آرام و راحت، سکون و اطمینان اور چین ملتا ہے، وہ سفر میں نہیں ملتا، آدمی کچھ تکلیف محسوس کرتا ہی ہے۔ سفر جتنی بھی راحت کا ہو، طبیعت میں ایک طرح کی بے چینی اور بے کلی ہوتی ہے، اور یہی حالت اس کی دعا کو قبولیت سے زیادہ قریب کرنے والی ہے۔

[۳] باپ:- ظاہر ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، لیکن لامحالہ بیٹے کی طرف سے کوئی بہت زیادہ خطرناک صورت پائی گئی، اور کوئی نار و اعمالہ کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بدعا کرنے پر مجبور ہوا۔

لیکن مسافر کی دعا قبول ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی روزی اور اس کا لباس حلال ہو۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی پر اگنڈہ بال اور غبار آسود چہرے والا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے

ہوئے ”یا رب، یا رب“ کہتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام؛ اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ (۱)۔ اس لیے مسافر کی دعا کے قبول ہونے کے واسطے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اس کی غذا احلال ہو، لیکن مظلوم اور باپ کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔

(۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْبُلُونَ عَلِيمٌ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمْدُدِي بِهِ إِلَى اللَّهِ مَا يَأْرِبُ يَأْرِبُ وَمَظْعُمُهُ حَرَامٌ وَمَسْرُبُهُ حَرَامٌ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمْدُدِي بِهِ إِلَى اللَّهِ مَا يَأْرِبُ يَأْرِبُ وَمَظْعُمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبُسُهُ حَرَامٌ وَغُذَى بِالْحَرَامِ فَلَمَّا يُسْتَجَابُ لِنَذْلِكَ (مسلم، باب قبول الصندوق من الكتب الطيبة وتنبيتها).

باب ما يدع به اذا خاف الناس او غيرهم

جب کسی سے خطرہ ہو تو کیا دعا پڑھے؟

دورانِ سفر ایسے حالت بھی پیش آتے ہیں جن میں کسی کی طرف سے خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم پر حملہ نہ کر دے، خاص کر کہ اُس زمانہ میں سفرِ مامون و محفوظ نہیں ہوتا تھا، سامان لوٹ لیے جانے کا اندیشہ رہتا تھا، قافلوں پر حملہ ہوتے رہتے تھے، جان و مال کا خطرہ رہتا تھا، تو اگر کسی کی طرف سے خطرہ محسوس کرے تو اس صورت میں دعا کے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہئیں؟ اس باب میں اس کو بتلاتے ہیں۔

٩٨١:- عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: أَللَّهُمَّ إِنِّي نَجَعَلُكَ فِي نُخُورِهِمْ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ.

(رواہ أبو داود و النسائي بسناد صحيح)

ترجمہ:- حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ کا

کسی قوم (یا جماعت) کی طرف سے خطرہ محسوس کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے: (ترجمہ) یا اللہ!

ہم تیری ہی ذات کو ان کے مقابلہ میں کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے شر سے تیری بناہ چاہتے ہیں۔

افادات:- یہ دعا جنگ کے موقعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی سے بھی

کوئی خطرہ ہو، جیسے: سرکاری اہلکاروں کی طرف سے خطرہ ہو، یا کسی اور کسی طرف سے

نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو؛ تو ایسے موقعہ پر یہ دعا پڑھی جاسکتی ہے۔ اور سامنے کوئی غیر مسلم

ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ کسی مسلمان کی طرف سے جان، مال، عزت و آبرو کا کوئی

خطرہ ہو تو اس موقعہ پر بھی یہ دعا پڑھ کر حفاظت مانگی جاسکتی ہے۔

حضرت شیخ نوراللہ مرقدہ نے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے کہ ۷۰ نے میں جب تقسیمِ ملک کے وقت دہلی میں فسادات ہوئے، تو بابا یا ز صاحب (تبیغی پرانے احباب واقف ہوں گے کہ نظام الدین مرکز بنگلہ والی مسجد کے دروازے سے بالکل لگ کر جو ہوٹل تھا، وہ انہیں کا تھا۔ آج کل تو وہ سب ٹوٹ کر نیابن گیا ہے) بنگلہ والی مسجد میں مقیم حضرات کے لیے سودا لینے کے واسطے جاتے تھے، حالات بڑے کشیدہ تھے، اور آپس میں بہت مارکٹائی ہو رہی تھی، خاص کر مسلمانوں کو سکھوں کی طرف سے بہت ضرر پہنچ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ تانگہ میں آر ہے تھے، تو اسی میں کچھ سکھ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے: ہم تجھے قتل کر دا لیں گے۔ یہ ان کو کہنے لگے: تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ ان کو یہی کہتے رہے اور یہ ان کو یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ نظام الدین آگیا اور یہ اطمینان سے اتر کر مسجد پہنچ گئے۔ حضرت شیخ حنفی نے ان سے فرمایا: تم نے اتنے اطمینان سے ان کو یہ جواب کیسے دیا؟ تو انہوں نے کہا: میں نے یہ دعا سن رکھی تھی، میں اسی کا ورد کر رہا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اس دعا کی برکت سے وہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔

لہذا آدمی اگر یقین کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتا اور عمل کرتا ہے، تو فوری طور پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے اثر کے ظاہر ہونے میں جو کمی ہوتی ہے، اس میں ہمارے ہی کسی قصور و کوتا ہی کو دخل ہوتا ہے۔

بَابٌ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَّلَ مَنْزُلًا

دورانِ سفر جب کہیں قیام کے لیے اترے؟

تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟

پڑاؤڈا لئے کی دعائیں

۹۸۲:- عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مَنْ نَزَّلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرْهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْجِعَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت خولہ بنت حکیم رضی الله عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: جب مسافر سفر کے دوران کسی منزل پر قیام کرے اور یہ پڑھے: اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعہ میں پناہ حاصل کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا؛ تو جب تک اس منزل سے روانہ نہیں ہو گا وہاں تک کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں دے گی۔

افنادات:- اس لیے کہ نہیں معلوم اس جگہ قیام کے دوران کس کی طرف سے کیا افتاد، کیا تکلیف اور کیا ایذا پیش آجائے، اس لیے ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہی گئی۔ ہر مسافر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کسی جگہ قیام کی نوبت آئے تو اس دوران اللہ تعالیٰ اس کو ہر افتاد، پریشانی اور ایذا و تکلیف سے بچائے رکھے، کون مسافر ایسا ہو گا جس کا جی یہ نہ چاہتا ہو؟ تو اس کے لیے نبی کریم ﷺ نے بڑا آسان سخن بتادیا اور گارنٹی

دے رہے ہیں، اطمینان دلارہے ہیں کہ جب تک وہ وہاں سے روانہ نہیں ہو گا وہاں تک کوئی تکلیف اس کو پہنچنے والی نہیں۔

٩٨٣:- وَعَنْ أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ اللَّيْلُ , قَالَ : يَا أَرْضُ ! رَبِّي وَرَبِّكَ اللَّهُ ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ وَشَرِّ مَا فِيكَ ، وَشَرِّ مَا خُلِقَ فِيكَ ، وَشَرِّ مَا يَرِيدُ لَكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدٍ ، وَمِنَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَمِنْ سَاكِنِ الْبَلَدِ ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَوْلَدٍ . (رواہ أبو داود)

و ((الأسود)): الشخص، قال الخطابي: و ((ساكن البلد)): هم الجن
الذين هم سكان الأرض. قال: والبلد من الأرض: ما كان مأوى الحيوان،
وإن لم يكن فيه بناءً ومنازل. قال: ويحتمل أن المزاد: (بالوالد) إبليس:
((وما ولد)): الشياطين.

ترجمہ: - حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر کرتے اور رات آتی تو آپ (زمیں کو مخاطب کر کے) فرماتے: اے زمین! میرا اور تیراما لک اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہوں تیرے شر سے، تیرے اندر جو چیزیں ہیں ان کے شر سے، تیرے اندر جتنی چیزیں پیدا کی گئی ہیں (انسان، جانور) ان کے شر سے۔ اور وہ تمام جانور جو تیرے اوپر ریختے اور چلتے ہیں ان کے شر سے۔ اور میں پناہ حاصل کرتا ہوں شیر، اڑدھے کے شر سے (جنگلوں اور ویران جگہوں کے اندر اس زمانہ میں یہ چیز عام تھی) اور سانپ و بچوں سے اور اس بستی میں رہنے والوں سے، اور والد والاد سے۔

افادات: - ”ساکن البلد“ سے کیا مراد ہے؟ علامہ نووی رحلی علامہ خطابیؒ کے حوالہ سے نقل فرماتے ہیں کہ: جہاں کوئی جاندار بستا ہو، چاہے وہاں مکانات اور گھر

نہ ہوں، لیکن کوئی بھی جاندار وہاں آباد ہو؛ اس کو عربی میں ”بلد“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ علامہ خطابیؒ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آبادی میں جب آدمی ظہرتا ہے تو وہاں حبانور اور جنات وغیرہ رہتے ہیں، تو جو بھی وہاں آباد ہوں؛ چاہے وہ جن، شیاطین ہوں، یا اور جاندار، سانپ بچھو، اژد ہے، شیر وغیرہ؛ ہر ایک کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ ”والد“ سے مراد شیطان ہے، اور ”ولد“ سے اس کی اولاد مراد ہے (یعنی شیطان اور اس کی اولاد سے پناہ چاہی جا رہی ہے)۔

دورانِ سفر ان ساری چیزوں کی طرف سے تکلیف اور ایذا پہنچ سکتی ہے، تو نبی کریم ﷺ نے اپنی اس دعائیں ان تمام کوشامل فرمالیا۔ اس دعا کا اہتمام کرنے سے آدمی ہر طرح کے شر سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے ان دعاؤں کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔

بَابِ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ الْمَسَافِرِ

الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته

کام جب مکمل ہو جائے تو گھر لوٹنے میں جلدی کرنا چاہیے

آدمی سفر میں جائے اور سفر کی ضرورت پوری ہو جائے، جس کام کے لیے گیا تھا وہ پورا ہو جائے؛ تو اب جلدی سے گھر لوٹ آنا چاہیے، وہاں پڑا نہ رہے، اس لیے کہ سفر تو ایک عارضی حالت ہے، اصل حالت تو حضرا اور قیام ہی کی ہے، اس لیے ضرورت کے پیش نظر ایک عارضی حالت اختیار کی گئی تھی، جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب آدمی کو چاہیے کہ اپنے گھر لوٹ جائے۔

٩٨٣:- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اللهم فرّ قطعة من العذاب، يمتنع أحد كُمْ طعامه وشرابه ونمة، فإذا قضى أحد كُمْ نَهَمَةَ مِنْ سَفَرِهِ، فَلْيُعِجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ (متفقٌ عليه) (نهَمَةً) : مَقْصُودٌ.

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے (یعنی آدمی کو دورانِ سفر مشقتیں، تکالیف اور دشواریاں پیش آتی ہیں) آدمی کے کھانے پینے اور اس کی نیند سے رکاوٹ بنتا ہے، اس لیے جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا وہ پورا ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ جلدی سے گھر لوٹ جائے۔

افتادات:- سفر میں کھانا نصیب تو ہوتا ہے لیکن جس طمیان و سکون سے اور جس طرح طبیعت و مزاج کے مطابق گھر پر رہ کر آدمی کھانے پینے اور نیند کی ضرورت

پوری کر سکتا ہے؛ دورانِ سفر ایسا موقع نصیب نہیں ہوتا، اور سفر کیسا ہی آرام دہ کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی پریشانی ہوتی ہی ہے، کھانے میں وہ لطف نہیں ملتا، جو گھر پر رہ کر ملتا ہے۔ گویا سفر آدمی کی ان بنیادی ضرورتوں کے پورا ہونے میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح کی سزا اور عذاب ہی ہوا، اس لیے حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ جب یہ عذاب ہی کا ایک حصہ ہے تو کسی آدمی کو یہ میں چاہیے کہ اپنے اختیار سے اس عذاب کو باقی رکھے، ایک ضرورت کے پیش نظر یہ حالت اختیار کی گئی تھی، جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس حالت کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ نبی کریم ﷺ کی یہی ہدایت ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابِ اسْتِحَابِ الْقَدُومِ عَلٰى أَهْلِهِ نَهَارًاً

وَكَرَاهَتِهِ فِي اللَّيْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

آدَمِيٌّ كَانَ بَنِيَّ گھرِ دن کے وقت لوٹنا

اور بلا ضرورت رات کے وقت لوٹنے کا

نَاپِسْنَدِ يِدَهُ وَمَكْرُوهٌ هُونَا

اس ادب کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی جب دن میں آئے گا تو گھر والوں کو رات تک مہلت مل جائے گی۔ اس لیے کہ عام طور پر آدمی جب سفر سے لوٹتا ہے تو فطری تقاضہ کے پیش نظر اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کا میلان گھر والوں کی طرف ہوتا ہے، اگر رات کے وقت پہنچنے گا تو گھر والوں کو اس کے لیے تیاری کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے دن میں پہنچنے کو پسندیدہ، اور رات میں پہنچنے کو ناپسند کیا ہے۔ یہ ادب اُس زمانہ کے اعتبار سے تھا، آج اس زمانہ میں اسباب و سائل مہیا ہیں جن کے پیش نظر اگر آپ پہلے سے اپنی آدمی کی اطلاع کر دیں تو رات کو پہنچنے میں بھی کوئی اشکال نہیں، کیونکہ رات کو واپس لوٹنے سے منع کرنے کی جو علت تھی وہ نہیں رہی۔ پہلے زمانہ میں فون یا ٹیلی گرام وغیرہ سے اطلاع کرنا ممکن نہیں تھا، قافلوں میں سفر ہوتے تھے، اور معلوم نہیں

کہ قافلہ کب پہنچتا ہے، اگر رات کے وقت پہنچ گیا تو گھر والوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آج شوہر صاحب کی تشریف آوری ہے کہ ان کے استقبال کی کچھ تیاریاں کی جاسکیں، اور عام طور پر عورتوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی غیر حاضری میں کھانے پینے اور زیب وزینت کا کوئی خاص اہتمام نہیں کرتیں، اس طرف سے غفلت بر تی جاتی ہیں، اب اگر بیوی نے اپنا حلیہ ایسا بنار کھا ہے کہ شوہر اس حالت میں اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اچانک رات میں پہنچ گئے اور ایسی حالت میں بیوی کو دیکھ لیا، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے طبیعت میں ایک طرح کی نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، حالاں کہ یہ ایک وقت ہوتی ہے، لیکن بعض مرتبہ یہی نفرت دائمی بن جاتی ہے، اور آگے جا کر ازدواجی حقوق کی ادائیگی یا ازدواجی تعلقات کے باقی رہنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لیے شریعت کی طرف سے جو ہدایتیں دی جاتی ہیں ان میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ اور شریعت نے میاں بیوی کے تعلقات کے معاملہ میں بڑا اہتمام اس بات کا کیا ہے کہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہونی چاہیے جو آپس کے تعلقات کی صفائی و شفافی میں رخنہ اندازی اور ذرا سا بھی میں پیدا کرنے والی اور دلی محبت میں ذرا سی بھی کمی لانے والی ہو، بلکہ میاں بیوی ہونے کی حیثیت سے دونوں کے تعلقات ایسے بے تکلفانہ ہونے چاہئیں کہ دونوں میں سے کسی کے دل میں دوسرا کے متعلق ادنیٰ سماں بھی تردد و شبہ اور بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے سارے حالات سے پورے طور پر واقف ہوں، میاں بیوی کے درمیان اس انداز کا تعلق ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آکر کچھ بھی کہہ دے تو وہ جواب دے کہ مجھے سب معلوم ہے۔

ایک روایت یاد آگئی، ابو داؤد شریف میں ہے عورت جب غسل کر لے تو مرد اس کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرے، اور مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے عورت

غسل نہ کرے، ہاں! اگر دونوں ساتھ غسل کر لیں تو بہت مناسب ہے (۱)۔ اس روایت میں طہارت کا ایک مسئلہ ہے جس کو ائمہ نے موضوع بحث بنایا ہے، لیکن ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو بدایتیں دی گئی ہیں کہ مرد کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے عورت اور عورت کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے مرد غسل نہ کرے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ دونوں جب جنابت کا غسل کر رہے ہیں تو ایسی بھی اجنبيت کیا ہو رہی ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہا ہے اور یہ اس کا انتظار کر رہی ہے، دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی برتن سے غسل کر لیں تاکہ دونوں کے تعلقات کی بے تکفی باقی رہے۔ اس لیے کہ ان بیانات کی تعلیمات میں اس بات کو خاص طور پر ملحوظ رکھا گیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری پورے طور پر باقی رہنی چاہیے، اور شیطان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں رخنہ اندازی ہو، تاکہ اس کے نتیجہ میں آپس میں جھگڑے ہوں اور حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی ہو اور یہی چیز آگے جا کر دونوں کے لیے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے، یا ازدواجی تعلقات کے ٹوٹنے کا ذریعہ بنے۔ اور شیطان کے نزدیک اس کے چیلوں میں سب سے زیادہ محبوب و ہی ہے جو میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر آیا ہو۔

روایتوں میں آتا ہے کہ شیطان شام کے وقت سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھا کر اپنے چیلوں سے رپورٹ وصول کرتا ہے کہ کیا کارگزاریاں ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ: ایک آدمی نماز پڑھنے جا رہا تھا، میں نے وسوسہ ڈال کر نماز سے روک دیا۔ ہر ایک اپنے

(۱) عن حميد الحميري قال لقيت رجل صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله ﷺ أن تغسل المرأة بفضل الرجل أو يغسل الرجل بفضل المرأة زاد مسددة ولغيرها جميعاً.

(أبو داود مع شرح عون المعمود. ۱:۸۴۸. باب النبي عن ذلك رقم الحليفة: ۸۱)

اپنے کارنا مے بیان کرتا ہے۔ شیطان سب کی سن لیتا ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرایا، یہاں تک کہ طلاق اور جدا بھی کی نوبت آگئی، یہ سن کر شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے کہ کام تو تو نے کیا ہے!۔

(مسلم۔ باب تَحْرِيُّشُ الشَّيْطَانِ وَبَعْثَيْهِ سَرِّ إِيمَانِهِ لِفَتْحِهِ النَّاسِ وَأَنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ فَرِيْنَا۔ حدیث: ۲۸۳)

رات میں اچانک گھرنے آئے

۹۸۵:- عن جابر رضي الله عنه قال: إِذَا أَطَالَ أَحَدُ كُمْ الْغَيْبَةَ

فَلَا يَطْرُقَنَّ أَهْلَهُ لَيْلًاً۔ وَفِي رَوَايَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَطَالَ أَهْلُ كُمْ الْغَيْبَةَ

تَرْجِمَه:- حضرت جابر رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم

میں سے کوئی آدمی جب لمبے زمانہ تک گھر سے غیر حاضر رہا ہو (یعنی طویل زمانہ تک سفر میں رہا ہو)

تورات میں اچانک گھرنے آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ رات کے وقت اپنے گھروں کے

پاس اچانک واپس لوٹنے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا۔

افنادات:- ایک صورت تو یہ ہے کہ صحیح کہیں گئے اور رات واپس لوٹے؛

تب تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ ممانت تواص صورت میں ہے کہ آپ ایک طویل زمانہ

کے لیے سفر پر گئے، گھروں کو پہنچ بھی نہیں ہے کہ کب لوٹنے والے ہیں، اور آپ

اچانک رات میں پہنچ گئے۔ ہاں! اگر آپ نے پہلے سے اطلاع کر دی ہے (جیسے آج

کل وسائل ہیں) کہ میں رات میں دو بجے پہنچنے والا ہوں؛ تو پھر رات میں کسی بھی

وقت پہنچنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔

بغیر اطلاع کے اچانک گھر پہنچنے کی خرابیاں

نیز رات اس طرح اچانک پہنچنے میں دوسری ایک گٹ بڑھی ہے۔ وہ یہ کہ گھر

والوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا میرے شوہر کو میرے متعلق کچھ شنک ہے کہ اس طرح رات میں اچانک آگئے؟ یہ چیز بھی میاں بیوی کے تعلقات کی خوشگواری میں خلل ڈالنے والی ہے۔ بدگمانی کی بنیاد اسی طرح پڑتی ہیں، اور یہی چیز بعض مرتبہ بعض عورتوں کو بد اخلاقی پر آمادہ کرتی ہیں۔ یعنی ویسے تو وہ پاکیزہ و پاکدامن ہوتی ہیں، لیکن اگر شوہر کی طرف سے بلا وجہ ایسا کوئی معاملہ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شوہر مجھ پر بدگمانی کر رہا ہے، تو بعض عورتیں ضد میں آ کر سوچتی ہیں کہ اچھا! یہ میرے متعلق بدگمانی کرتا ہے، اب تو میں بھی ایسا کر کے ہی بتاؤں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات میں اچانک آنے کی وجہ سے جب یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو جو لوگ اپنی بیوی کے اوپر کھلّم کھلا بدگمانی کا اظہار کرتے ہیں؛ اس کی شریعت کہاں اجازت دے سکتی ہے۔ یہ بڑا سلوک ہے جس کی شریعت کسی حال میں بھی اجازت نہیں دیتی۔ ایک تو یہ ہے کہ برائی کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس پر خاموش رہنا بھی بہت برا ہے، اس کو دیگوئی سے تعبیر کیا گیا ہے، اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اور بلا وجہ شنک و شبہ کرنا بھی برا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ان دونوں باتوں سے شریعت نے منع کیا ہے۔

٩٨٦:- وَعَنْ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْأَكْبَرُ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا، وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غُلْوَةً أَوْ عَشِيَّةً مُتَفْغِّظًا عَلَيْهِ ((الْطَّرْوُقُ)): الْمَجِيءُ فِي الظَّلَيلِ۔
ترجمہ:- حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (جب سفر سے واپس لوٹتے تو) اپنے گھر والوں کے پاس رات کے وقت میں نہیں آتے، (بلکہ) صبح یا شام میں آتے تھے۔

افنادات:- میں نے اس کی وجہ بتلادی ہے۔ اگر پیشگی اطلاع ہو تو گنجائش ہے۔ بس! پیشگی اطلاع کا اہتمام ہونا چاہیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَاب مَا يَقُولُ أَذارْجُع، وَإِذْ أَرَأَى بَلْدَتَهُ

جَب سَفَرَ سَهْ لَوْلَى اُورَ اپنے شہر کی عمارتوں

پر نظر پڑے؛ تو کیا دعا پڑھے؟

فِيهِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ فِي بَابِ تَكْبِيرِ الْمَسَافِرِ إِذَا صَعَدَ الشَّّنَاءِ۔
واپسی کے سفر کے متعلق ایک روایت پچھلے باب میں بھی گزر چکی جس میں یہ
تھا کہ مسافر جب اونچائی پر چڑھنے تو تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اور ”آئِبُونَ، تَائِبُونَ،
عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ“ والی دعا بھی گزر چکی ہے، اسی دعا کو دوسرا روایتوں میں
لارہے ہیں

۹۸۷:- وَعَنْ أَنْسٍ ثَنَانِيَّةَ عَنْ عَنْ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا
بِظَاهِرِ الْمَدِيْنَةِ، قَالَ: ((آئِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ)) فَلَمْ يَرِدْ
يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى قَلِّمَنَا الْمَدِيْنَةَ۔ (رواہ مسلم)

ترجمہ:- حضرت انس بن مالک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم ﷺ کے ساتھ
سفر سے لوٹے، یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ ہماری نگاہوں کے سامنے آگیا، تو حضور اکرم ﷺ کے ساتھ
نے یہ دعا پڑھی: ہم لوٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع و توبہ کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت
کرتے ہیں اور اپنے پروردگار ہی کی حمد و ثناء اور تعریف کر رہے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ ان کلمات کو

برا برا پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر داخل ہو گئے۔

افادات:- اس سے معلوم ہوا کہ اپنی آبادی کے مکانات جب نظر آنا شروع ہوں تو اس وقت یہ دعا پڑھنا شروع کرے اور برا برا پڑھتا رہے، یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو جائے۔

بَابِ اسْتِحْبَابِ ابْتِلَاءِ الْقَادِمِ بِالْمَسْجِدِ

الذى فِي جواره وصَلَاتُهُ فِيهِ رُكُعَتِينَ

سفر سے واپس لوٹ تو پہلے قریب کی مسجد میں

جائے، دور کعات پڑھے

ایک اور ادب بتاتے ہیں کہ آدمی جب سفر سے لوٹے تو جو مسجد اس کے مکان کے پاس ہو سب سے پہلے اس میں جائے، وہاں دور کعات ادا کرے پھر اپنے گھر جائے۔ یہاں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے جو پہلے بھی آئی تھی۔ غزوہ تبوك میں وہ شریک نہیں ہو سکے تھے جس کا واقعہ انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے جس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بیان کیا ہے۔ (پوری روایت حدیث کے اصلاحی مضامین، جلد اول، ص: ۱۵۰ تا ۱۸۰ گزر جکی ہے۔ مرتب۔)

۹۸۸:- عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلوات الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَدِيمَ

مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رُكُعَتِينَ. (متفق عَنْهُ)

ترجمہ:- حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں دور کعات ادا فرماتے (اور جب صحابہ کو اطلاع ہوتی تو وہ ملاقات کے لیے وہیں آ جاتے تھے، پھر آپ گھر جاتے، یہ بھی آداب میں سے ہے۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بَابُ تَحْرِيمِ سَفَرِ الْمَرْأَةِ وَ حَلَّهَا

عورت کا اکیلے سفر کرنا حرام ہے

سفر کے سلسلہ میں پہلے تفصیل بتاچکا ہوں کہ سفر شرعی کی مقدار کا سفر اگر عورت بغیر حرم کے کرے؛ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اگر اس سے کم کا سفر ہو، اور اس میں خطرہ ہو؛ تو اس صورت میں اس کے لیے بلا ضرورت نکانا حبا نہیں، اور اگر کسی ضرورت سے نکلے تو اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے کہ شوہر یا محارم میں سے کوئی ساتھ ہو۔ اور اگر کوئی خطرہ نہ ہو تو بوقتِ ضرورت اجازت ہے۔

٩٨٩:- عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِدُ لَامْرَأَةً تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةً إِلَّا مَعَ ذِي فَحْرٍ مَعَلَّمَهَا.

(متفق علیہ)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ ایک دن رات کی مسافت کا سفر کرے؛ مگر ایسی حالت میں کہ اس کے ساتھ کوئی ذی رحم حرم ہو۔

اندادات:- ”ذی رحم حرم“ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا رشتہ دار جس کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے: باپ، دادا، پردادا، اوپر تک۔ بیٹا، پوتا، نواسہ یا اس سے جو پیدا ہوا ہو، نیچے تک۔ یا بھائی، بھتیجی، بھانجہ، یا ان کا بیٹا اورغیرہ؛ یہ سب محارم ہیں۔ اس روایت میں ایک دن اور رات کا تذکرہ آیا ہے، اور اس سلسلہ میں

روایتیں مختلف آئی ہیں، جن کو سامنے رکھ کر علماء نے تین دن اور رات کے متعلق تو عدمِ جواز کا حکم دیا ہے، لیکن اس سے کم میں بھی اگر خطرہ ہو تو بچنا چاہیے۔

٩٩٠:- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَقَيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِأَمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو حَرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي حَرَمٍ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً، وَإِنِّي أَكُشْتِبُ فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: انْظِلْهُ، فَنَحْجَ مَعَ امْرَأَتِكَ. (متفہی عائیہ)

ترجمہ:- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سننا: کوئی (جنبی) مرد کی عورت کے ساتھ تھامی اختیار نہ کرے مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا کوئی ذی رحم محروم موجود ہو (کیوں کہ شیطان کی طرف سے وسوسہ اندازی اور گناہ میں مبتلا کر دینے کا بڑا قوی خطرہ لگا ہوا رہتا ہے) اور عورت سفر نہ کرے مگر اپنے ذی رحم محروم کے ساتھ۔ ایک آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میری عورت سفرِ حج کے لیے جا رہی ہے، اور میرا نام فلاں غزوہ میں جانے کے لیے لکھا گیا ہے (اب کیا کیا جائے؟) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تو بھی جا اور اپنی عورت کے ساتھ حج کر۔

افنادات:- مطلب یہ ہے کہ اب تجھے غزوہ میں نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ تیری عورت بغیر شوہر کے اکٹلی حج کے لیے جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس کے ساتھ سفرِ حج میں جا۔